

لِكُلِّ اِنْزَالٍ مَا اِنْزَلَ لِتُنْعِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ

# تَفْسِيرِ بْنِ كَثِيرٍ

رَاجِعٌ إِلَى فِسْرِيْهِ  
حافظ عمر ساد الدين ابو الفداء ابن كثير

مُتَرَجمَه  
خطيب الهند مولانا محمد جوناگوڑھی

مکتبہ قدوسیہ

مکتبہ قمیوسید

**كتابناه اليك ترجع النافعه الظلمات إلى ظلم**  
”يُوَدِّ كُلَّ بَعْجٍ لَّا يَقُولُ نَزَلَ فِرْقَنٌ بَعْجَةً لَّا يُقُولُ كَانَ مِنْ سُكُونٍ“

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله

جلد اول

حافظ عَمَّادُ الدِّينِ الْوَالِفَدَارِ ابْنِ كَبِيرِ شِيهِرٍ

مُتَرْجِمَة

## خطیب الہند مولانا محمد جو ناگڑھی

## مکتبہ قدوستہ

## خوبصورت اور معیاری مطبوعات

کتابوں  
گی  
نشر و اشاعت  
کلے  
گوشہ

جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں

اشاعت — 2006

القسام طباعت

ابوبکر قدوسی

قدوسی اسلام کمپنی

مکتبہ قادسیہ

مکتبہ قادسیہ

Out Fal Road  
Ph:042-7148761

رسول پالیز ایس پور بازار، آزاد آباد  
Ph: 041-2640194

رمان پارکٹ، ہنزی میر، احمد بazar، لاہور پاکستان  
Ph:042-7230585-7351124

[www.quddusia.com](http://www.quddusia.com) Email:qadusia@brain.net.pk

# تفسیرِ اہم کیش

چند اہم مضمون کی فہرست

۱  
پارہ نمبر

۲۲	• الحمد کا تعارف و مفہوم	۲۳	• حمد و ثناء کے حقوق کا واحد مالک
۲۳	• آمین اور سورہ فاتحہ	۲۳	• جو جت تمام رسول اللہ ﷺ
۲۵	• اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان	۲۳	• پیو پاری علماء کا حشر
۲۸	• سات نبی سورتوں کی فضیلت	۲۵	• تفسیر کا، بہترین طریقہ
۲۹	• حروف مقطوعات اور ان کے معنی	۲۵	• اہمیت حدیث
۴۳	• تحقیقات کتاب	۲۸	• اپنی رائے اور تفسیر قرآن
۷۳	• متین کی تعریف	۳۰	• قرآن حکیم متعلق کچھ معلومات
۷۴	• ہدایت کی وضاحت	۳۱	• آیت کے لفظی معنی
۷۵	• ایمان کی تعریف	۳۲	• بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف اقوال اور سورہ فاتحہ
۷۷	• قیام صلوٰۃ کیا ہے؟	۳۲	• سورہ فاتحہ کی فضیلت
۸۰	• ہدایت یافتہ لوگ	۳۲	• بسم اللہ با آواز بلند یادی آواز سے؟
۸۳	• منافقت کی قسمیں	۳۳	• رسول اللہ ﷺ کا انداز قرات
۸۵	• شک و شبہ بیاری ہے	۳۳	• فعل بسم اللہ کی فضیلت کا بیان
۹۱	• شک، کفر اور نفاق کیا ہے؟	۳۶	• اللہ نے اپنے تمام (صفاتی) نام خود تجویز فرمائے ہیں
۹۲	• منافقین کی ایک اور پہچان	۳۶	• اللہ کے مترادف المعنی کوئی نام نہیں!
۹۷	• تعارف الہ بینان الہ	۳۸	• الرحمن اور الرحیم کے معنی
۹۹	• اثبات وجود الہ لعلیمین	۵۰	• الحمد للہ کی تفسیر
۱۰۱	• تصدیق نبوت اعجاز قرآن	۵۱	• محمد کی تفسیر اقوال سلف سے
۱۱۳	• خلافت آدم کا مفہوم	۵۳	• بہت بخشش کرنے والا براہم بریان!
۱۱۶	• خلیفہ کے فراغن اور خلافت کی نوعیت	۵۲	• حقیقی وارث و مالک کون ہے؟
۱۲۲	• تعارف ابلیس	۵۵	• عبادات کا مفہوم
۱۲۳	• اعزاز آدم علیہ السلام	۵۶	• عبادات اور طلب
۱۲۴	• جنت کے حصول کی شرائط	۵۷	• حصول مقصد کا بہترین طریقہ
۱۲۷	• بنی اسرائیل سے خطاب	۵۸	• صراط مستقیم کیا ہے؟
۱۳۰	• دوغلاپن اور یہودی	۶۰	• الخام یافتہ کون؟
۱۳۰	• مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات	۶۰	• مغضوب کون؟

- صبر کا مفہوم
  - حسر کا منظر
  - یہود پا احسانات الہیہ کی تفصیل
  - احسان فراموش یہود
  - یہود کون ہیں؟
  - عہد شکن یہود
  - جنت بازی کا انجام
  - بلا جب تھس موجب عتاب ہے
  - یہودی کردار کا تجزیہ
  - ای کا مفہوم اور دل کے معنی
  - اوس و خرچ اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد
  - خود پسند یہودی سور و عتاب
  - مبارکہ اور یہودی معنی فصاری
  - خصوصت جریئل علیہ السلام موجب کفر و عصيان
  - سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے
  - جادو کی اقسام
  - جادو اور شعر
  - مسلمانوں کا فروں کی صورت لباس اور زبان میں مشابہت کے پکو!
  - تبدیلی یا تنسیخ۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے
  - کثرت سوال جنت بازی کے مترادف ہے!
  - قوی عصیت باعث شقاوتوں ہے
  - شیطان صفت مغزرو یہودی
  - نصاریٰ اور یہودی مکافات عمل کا شکار!
  - کعبہ صرف علامت وحدت و مست ہے اللہ کا جمال و جلال غیر محدود ہے
  - اللہ تعالیٰ مقتدر اعلیٰ ہے کے دلائل
  - طلب نظارہ۔ ایک حجاقت
  - آپ نصیحت کی حد تک مسئول ہیں
  - دین حق کا باطل سے سمجھوتہ جرم عظیم ہے
  - امام توحید
  - مکمل اسلام
  - شوق زیارت اور بڑھتا ہے
  - عہد جو مترادف حکم ہے
- |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| ۲۱۱ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
| ۲۲۱ | ۱۳۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳ |
| ۲۲۲ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| ۲۲۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳ |
| ۲۲۴ | ۱۳۶ | ۱۳۶ | ۱۳۶ |
| ۲۲۵ | ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۱۳۸ |
| ۲۲۶ | ۱۵۳ | ۱۵۳ | ۱۵۳ |
| ۲۲۷ | ۱۵۹ | ۱۵۹ | ۱۵۹ |
|     | ۱۶۳ | ۱۶۳ | ۱۶۳ |
|     | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ |
|     | ۱۶۹ | ۱۶۹ | ۱۶۹ |
|     | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
|     | ۱۷۳ | ۱۷۳ | ۱۷۳ |
|     | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۱۸۲ |
|     | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۱۸۵ |
|     | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ۱۸۷ |
|     | ۱۸۸ | ۱۸۸ | ۱۸۸ |
|     | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
|     | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱۹۲ |
|     | ۱۹۳ | ۱۹۳ | ۱۹۳ |
|     | ۱۹۴ | ۱۹۴ | ۱۹۴ |
|     | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۱۹۶ |
|     | ۱۹۹ | ۱۹۹ | ۱۹۹ |
|     | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۲۰۱ |
|     | ۲۰۲ | ۲۰۲ | ۲۰۲ |
|     | ۲۰۳ | ۲۰۳ | ۲۰۳ |
|     | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ۲۰۵ |
|     | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ۲۰۵ |
|     | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۲۰۷ |
|     | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۰۹ |


# تفسیرِ مکہ شر

چند اہم مضمایں کی فہرست

۲  
پادہ نمبر

۳۰۷	• جہاد بقائے ملت کا نبیادی اصول	۲۳۱	• تحویل کعبہ ایک امتحان بھی تھا اور تقریباً رجہت بھی
۳۱۱	• حرمت شراب کیوں	۲۳۷	• صفات نبوی سے انماض برتنے والے یہودی علماء
۳۱۲	• عفوا اور اس کی وضاحتیں	۲۳۹	• اللہ کی یادگار ہے اور بھول کفر ہے!
۳۱۳	• پاک دامن عورتیں	۲۴۱	• وفاۓ عہد کے لیے آزمائش لازم ہے
۳۱۵	• ایامِ حیض اور جماع سے متعلقہ مسائل	۲۴۳	• صفائی اور مردہ کا طواف
۳۲۱	• قسم اور کفارہ	۲۴۵	• حق بات کا چھپانا جرم عظیم ہے
۳۲۳	• ایلا اور اس کی وضاحت	۲۴۸	• محبت اللہ اپنی پسند ہے؟
۳۲۴	• طلاق کے مسائل	۲۴۹	• روزی دینے والا کون؟
۳۲۷	• رسم طلاق میں آئینی اصلاحات اور خلع	۲۵۰	• گمراہی اور جہالت کیا ہے؟
۳۲۳	• آئین طلاق کی وضاحت	۲۵۱	• حلال اور حرام کیا ہے؟
۳۲۵	• مسئلہ رضاعت	۲۵۳	• بدترین لوگ
۳۲۷	• خاوند کے انتقال کے بعد	۲۵۵	• ایمان کا ایک پہلو
۳۲۰	• پیغامِ نکاح	۲۵۷	• تضاد کی وضاحت
۳۲۱	• حق مہرب کب اور کتنا؟	۲۶۰	• وصیت کی وضاحت
۳۲۲	• صلوب و سطی کون کی ہے؟	۲۶۲	• رودا اور روزہ اور صلوبۃ
۳۲۹	• بیوگان کے قیام کا مسئلہ	۲۶۵	• نزول قرآن اور ماہ رمضان
۳۵۱	• موت اور زندگی	۲۶۸	• دعا اور اللہ محب الدعوات
۳۵۲	• خوئے بدرابہانہ بسیار	۲۷۰	• رمضان میں مراغات اور کچھ پابندیاں
۳۵۵	• تابوتِ سکینہ اور جنگ طالوت و جالوت	۲۷۷	• چاند اور مہہ و سال
۳۵۶	• نہرا شریعہ	۲۷۸	• حکمِ جہاد اور شرائط
۳۵۷	• جالوت مارا گیا	۲۸۱	• بیعتِ رضوان
		۲۸۷	• حج اور عمرہ کے مسائل
		۲۸۸	• احرام کے مسائل
		۲۹۷	• ایامِ تشریق
		۳۰۱	• تذکرہ شفاقت
		۳۰۳	• آدم علیہ السلام سے حضرت نوع علیہ السلام تک

# تفسیر میش



## چند اہم مضمومین کی فہرست


۳  
پادہ نمبر

- ۰ ذکر مدارج الانباء
  - ۰ آج کے صدقات قیامت کے دن شریک غم ہوں گے!
  - ۰ جبرا اور دعوت اسلام
  - ۰ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سماں
  - ۰ معجم حیات و موت
  - ۰ صحیح حضرات کی تعریف اور بہایت
  - ۰ کفر اور بڑھا پا
  - ۰ خراب اور حرام مال کی خیرات مسزد
  - ۰ نیک اور بدلوگ ظاہر اور درپرداخت حقیقت
  - ۰ مخفی صدقات کون ہیں؟
  - ۰ تجارت اور سود کو ہم مخفی کہنے والے کج بحث لوگ
  - ۰ سود کا کاروبار برکت سے محروم ہوتا ہے
  - ۰ سود خور قابل گردان زدنی ہیں اور قرض کے مسائل
  - ۰ حفظ قرآن اور سین دین میں گواہ اور لکھنی کی تاکید
  - ۰ مسلکہ بن، تحریر اور گواہی!
  - ۰ انسان کے ضمیر سے خطاب
  - ۰ بقرہ کی آخری آیات اور ان کی فضیلت
  - ۰ آیت الکرسی اور اسم اعظم
  - ۰ خالق کل
  - ۰ رائخ فی العلم کون
  - ۰ جہنم کا یہ ہن کون لوگ؟
  - ۰ اولین معرکہ حق و باطل
  - ۰ دنیا کے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل
  - ۰ متفقین کا تعارف
  - ۰ اللہ وحدہ لا شریک اپنی وحدت کا خود شاہد
- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| ۳۱۶ | ۰ انبیاء کے قاتل بنو سارائل                            | ۳۶۱ | ۰ ذکر مدارج الانباء                                |
| ۳۱۷ | ۰ مالک الملک کی حمد و ثناء                             | ۳۶۲ | ۰ آج کے صدقات قیامت کے دن شریک غم ہوں گے!          |
| ۳۱۸ | ۰ ترک موالات کی وضاحت                                  | ۳۶۴ | ۰ جبرا اور دعوت اسلام                              |
| ۳۱۹ | ۰ اللہ تعالیٰ سے ذرہ مارے لئے بہتر ہے                  | ۳۷۰ | ۰ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سماں       |
| ۳۲۰ | ۰ جھونا دعویٰ  | ۳۷۳ | ۰ معجم حیات و موت                                  |
| ۳۲۱ | ۰ سب سے پہلے بنی علیہ السلام                           | ۳۷۵ | ۰ صحیح حضرات کی تعریف اور بہایت                    |
| ۳۲۲ | ۰ مریم بنت عمران                                       | ۳۷۷ | ۰ کفر اور بڑھا پا                                  |
| ۳۲۳ | ۰ زکر بنی علیہ السلام کا تعارف                         | ۳۷۸ | ۰ خراب اور حرام مال کی خیرات مسزد                  |
| ۳۲۴ | ۰ حاصل دعا بیکنی علیہ السلام                           | ۳۸۰ | ۰ نیک اور بدلوگ ظاہر اور درپرداخت حقیقت            |
| ۳۲۵ | ۰ تین افضل ترین عورتیں                                 | ۳۸۲ | ۰ مخفی صدقات کون ہیں؟                              |
| ۳۲۶ | ۰ مُتّکَّبٌ بن مریم علیہ السلام                        | ۳۸۳ | ۰ تجارت اور سود کو ہم مخفی کہنے والے کج بحث لوگ    |
| ۳۲۷ | ۰ فرشتوں کا مریمؐ سے خطاب                              | ۳۸۷ | ۰ سود کا کاروبار برکت سے محروم ہوتا ہے             |
| ۳۲۸ | ۰ چنانی کون چڑھا؟                                      | ۳۸۸ | ۰ سود خور قابل گردان زدنی ہیں اور قرض کے مسائل     |
| ۳۲۹ | ۰ اختیارات کی وضاحت اور بُرائی و فدکی رو داد           | ۳۹۱ | ۰ حفظ قرآن اور سین دین میں گواہ اور لکھنی کی تاکید |
| ۳۳۰ | ۰ حضرت ابراہیم سے متعلق یہودی اور نصرانی دعوے کی تردید | ۳۹۶ | ۰ مسلکہ بن، تحریر اور گواہی!                       |
| ۳۳۱ | ۰ یہودیوں کا حسد                                       | ۳۹۷ | ۰ انسان کے ضمیر سے خطاب                            |
| ۳۳۲ | ۰ جھوٹی قسم کھانے والے                                 | ۳۹۹ | ۰ بقرہ کی آخری آیات اور ان کی فضیلت                |
| ۳۳۳ | ۰ غلط تاویل اور تحریف کرنے والے لوگ                    | ۴۰۲ | ۰ آیت الکرسی اور اسم اعظم                          |
| ۳۳۴ | ۰ مقصد نبوت  | ۴۰۲ | ۰ خالق کل  |
| ۳۳۵ | ۰ انبیاء سے عہدو بیان                                  | ۴۰۶ | ۰ رائخ فی العلم کون                                |
| ۳۳۶ | ۰ اسلامی اصول اور روز جزا                              | ۴۰۷ | ۰ جہنم کا یہ ہن کون لوگ؟                           |
| ۳۳۷ | ۰ توبہ اور توبیت                                       | ۴۰۸ | ۰ اولین معرکہ حق و باطل                            |
| ۳۳۸ | ۰ جب سانس ختم ہونے کو ہوں تو توبہ قبول نہیں ہوگی       | ۴۱۰ | ۰ دنیا کے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل            |
| ۳۳۹ |  | ۴۱۲ | ۰ متفقین کا تعارف                                  |
| ۳۴۰ |  | ۴۱۳ | ۰ اللہ وحدہ لا شریک اپنی وحدت کا خود شاہد          |

# تفسیر ابن حیث

چند اہم مضمایں کی فہرست

۳  
پادہ نعمتو



- سب سے زیادہ پیاری چیز اور صدقہ
  - ذکر بیت اللہ اور احکامات حج
  - کافروں کا نجام
  - کامیابی کا انعام کس پر ہے؟
  - اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن حکیم ہے
  - یوم آخرت منافق اور مومن کی پیچان
  - سب سے بہتر شخص کون؟ اور سب سے بہتر امت کا اعزاز کس کو ملا؟ ۷۲۰
  - ظلم نہیں سزا
  - کافروں اور منافقین مسلمان کے دوست نہیں، انہیں اپنا ہم راز نہ بناو۔ ۷۲۱
  - غزوہ احمدی افتاد
  - سود خور جنہیں ہے
  - جنت کی خصوصیات
  - استغفار کرنا
  - شہادت اور بشارت
  - رسول اللہ ﷺ کی وفات کا مقابلہ اور غزوہ احمد
  - کافروں اور منافقوں کے ارادے
  - تلواروں کے سایہ میں ایمان کی جانچ
  - باطل خیالات کی نشاندہی
  - اسوہ حسنہ کے مالک نبی کریم ﷺ
  - غزوہات پر مسلمان اور منافق کے بے نقاب کرنے ذریعہ ۵۰۶
  - پیر مونہ کے شہاد اور جنت میں ان کی تمنا؟ ۵۰۸
  - مشق نبی کریم ﷺ اور عوام
  - کافروں کا قرض حسنہ پر احتقانہ تھراہ.....
  - موت و حیات اور یوم حساب
  - بدترین خرید و فروخت!
- |     |     |   |
|-----|-----|---|
| ۵۲۳ | ۷۵۷ | • مظاہر کا نات دلیل رب ذوالجلال دعوت غور و فکر          |
| ۵۲۸ | ۷۵۹ | • دعا کچھے قول ہوگی بشرطیکہ؟                            |
| ۵۳۰ | ۷۶۲ | • دنیا کا سامان تیش دلیل نجات نہیں                      |
| ۵۳۱ | ۷۶۲ | • ایمان والوں اور مجاہدین کے قابل رشک اعزاز             |
| ۵۳۷ | ۷۶۳ | • محبت و مودت کا آفاقتی اصول                            |
| ۵۳۸ | ۷۶۶ | • تیموریوں کی نگہداشت اور چارشادیوں کی اجازت            |
|     | ۷۶۷ | • چار سے زائد نہیں وہ بھی بشرط انصاف و رہنہ ایک ہی یوں! |
| ۵۳۹ | ۷۶۳ | • علم عقل اور تیموریوں کے بارہ میں احکامات              |
| ۵۴۵ | ۷۶۳ | • وراثت کے سائل   |
| ۵۴۸ | ۷۶۶ | • مزید مسائل میراث جن کا ہر مسلمان کو جانا فرض ہے       |
| ۵۵۲ | ۷۶۹ | • وراثت کی مزید تفصیلات                                 |
| ۵۵۵ | ۷۸۱ | • نافرمانوں کا حشر                                      |
| ۵۵۶ | ۷۸۱ | • سیاہ کار عورت اور اس کی سزا                           |
| ۵۵۷ | ۷۸۲ | • عالم زرع سے پہلے توبہ؟                                |
| ۵۵۹ | ۷۸۶ | • عورت پر ظلم کا خاتمه                                  |
|     | ۷۸۷ | • رسول اللہ ﷺ کی وفات کا مقابلہ اور غزوہ احمد           |
|     | ۷۹۰ | • کافروں اور منافقوں کے ارادے                           |
|     | ۷۹۸ | • تلواروں کے سایہ میں ایمان کی جانچ                     |
|     | ۷۹۹ | • باطل خیالات کی نشاندہی                                |
|     | ۸۰۰ | • اسوہ حسنہ کے مالک نبی کریم ﷺ                          |
|     | ۸۰۶ | • غزوہات پر مسلمان اور منافق کے بے نقاب کرنے ذریعہ      |
|     | ۸۰۸ | • پیر مونہ کے شہاد اور جنت میں ان کی تمنا؟              |
|     | ۸۱۵ | • مشق نبی کریم ﷺ اور عوام                               |
|     | ۸۱۷ | • کافروں کا قرض حسنہ پر احتقانہ تھراہ.....              |
|     | ۸۱۹ | • موت و حیات اور یوم حساب                               |
|     | ۸۲۲ | • بدترین خرید و فروخت!                                  |

# تفسیر ابن حیث


## چند اہم مضمونیں کی فہرست

۵

پادھ نصیر

- ۶۲۳ • آزاد گورتوں سے نکاح اور کنیروں سے متعلق بہایات
- ۶۲۴ • پچاس سے پانچ نمازوں تک
- ۶۲۵ • سلام کہنے والے کو اس سے بہتر جواب دو
- ۶۲۶ • خرید و فروخت اور اسلامی توافق و خوابط
- ۶۲۷ • منافقوں سے ہوشیار رہو
- ۶۲۸ • اخراج ازمندگی
- ۶۲۹ • قتل مسلم قصاص و دیت کے مسائل اور قتل خطا
- ۶۳۰ • سات کبیرہ گناہ
- ۶۳۱ • مسلم و راشت میں مولی؟ و راث اور عصبی و صاحت و اصلاحات
- ۶۳۲ • مدد و راشت میں فرق
- ۶۳۳ • مدد و راشت سے افضل کیوں؟
- ۶۳۴ • مدد و راشت میں خرق سے کترانے والے بخل لوگ!
- ۶۳۵ • بذریعہ حرمت شراب اور پس منظر
- ۶۳۶ • آداب مسجد اور مسائل تعمیم
- ۶۳۷ • یہودیوں کی ایک مذموم خصلت
- ۶۳۸ • قرآن حکیم کا اعجاز تاثیر
- ۶۳۹ • منه پتھریف و توصیف کی ممانعت
- ۶۴۰ • یہودیوں کی دشمنی کی انتہا اور اس کی سزا
- ۶۴۱ • عذاب کی تفصیل اور یہک لوگوں کا انعام بالحشر
- ۶۴۲ • امانت اور عدل و انصاف
- ۶۴۳ • مشروط اطاعت امیر
- ۶۴۴ • حسن سلوک اور دوغلے لوگ
- ۶۴۵ • اطاعت رسول ﷺ ہی ضامن نجات ہے
- ۶۴۶ • طاقوت را تو مدد ہو کر زندہ رہو
- ۶۴۷ • شیطان کے دوستوں سے جنگ لازم ہے
- ۶۴۸ • اولین درس صبر و ضبط
- ۶۴۹ • سوت سے فرار ممکن نہیں
- ۶۵۰ • ظاہر و باطن نبی اکرم ﷺ کا مطیع بنا لو
- ۶۵۱ • کتاب اللہ میں اختلاف نہیں ہمارے دماغ میں فتوڑے ہے

# تفسیرِ میش



## چند اہم مضمایں کی فہرست

۶  
پادہ نمبر

- |     |     |   |
|-----|-----|---|
| ۷۲۱ | ۶۹۸ | • مظلوم کو فریاد کا حق ہے                                 |
| ۷۲۲ | ۶۹۹ | • کسی ایک بھی نبی کو نہ مانا کفر ہے!                      |
| ۷۲۳ | ۷۰۰ | • محسوس مجذہ کی مانگ اور بنی اسرائیل کی جنت بازیاں        |
| ۷۲۴ | ۷۰۱ | • اس کی گرفت سے فرار ناممکن ہے!                           |
| ۷۲۵ | ۷۰۲ | • اہل کتاب، قاتلان انبیاء، عیسیٰ کی روادا و مراثل قیامت   |
| ۷۲۶ | ۷۱۶ | • یہود یوں کے خود ساختہ حلال و حرام                       |
|     |     | • نزول انبیاء، تعداد انبیاء، صحائف اور ان کے مرکزی مضمایں |

پارہ نمبر ۶ کے جو مضمایں اس جلد میں ہیں ان کے چند اہم عنوانات کی فہرست دی جا رہی ہے جب کہ مزید تفسیر اگلی جلد میں ملاحظہ کریں۔

## عرض ناشر

علمائے اسلام نے قرآن کی خدمت میں اپنی زندگیاں گزار کر دیں۔ انہوں نے دور دراز کے سفروں کی صعبوتوں کو کلام الہی کی تفسیر و توضیح کے لیے برداشت کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام قرآن کی خدمت کرنے والے ائمہ کرام میں سرفہرست نظر آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کو دوسری تفاسیر کے مقابلے میں جو امتیاز حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس عظیم خدمت قرآن کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی سعادت بر صغر کے معزوف عالم تر جان کتاب والہ حضرت مولانا محمد صاحب جونا گڑھی کے حصہ میں آئی جو کہ سو سے زیادہ کتب کے مولف و مصنف تھے۔ انہوں نے جس سلاست اور روانی کو اردو میں برقرار رکھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس بات کو اپنے لیے تو شہ آخوت سمجھتے ہیں کہ یہ لا جواب تفسیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

۱۹۹۲ء میں مکتبہ قدوسیہ نے بعد احتیاط و محنت تفسیر ابن کثیر کو شائع کی۔ الحمد للہ اس نسخے کی مقبولیت سے جو حوصلہ ملا اس کے سبب اور احباب کے تقاضوں کے پیش نظر تفسیر ابن کثیر کا جدید ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی کپوزنگ سے لے کر طباعت تک جن احباب نے شوق کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر کام کیا ان کا تذکرہ نہ کرنا ناپایی کے مترادف ہو گا۔

عنوان بندی مولانا مسعود عبدہ مشہدی رحمہ اللہ نے کی۔ کپوزنگ کا کام عزیزی شہزاد سلیم اور رشید بھانی نے بھن و خوبی انجام دیا۔ کتاب کی خواندگی میں جن احباب کا تعاون حاصل رہا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کے جذبے سے صحیح کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حضرات کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازیں۔

آخر میں بارگاہ رب العالمین میں یہ اجلا ہے کہ اس لا جواب تفسیر کی اشاعت ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات ہو۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔

ابو بکر قدوسی

اپریل ۲۰۰۳ء

## حیات امام حافظ عاد الدین ابن کثیر

نام و نسب: ☆☆ اسماعیل نام ابوالقد اکنیت عاد الدین لقب اور از، کثیر عرف ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے:  
اسماعیل بن عمر بزرگ، شیر بن ضومہ، بن ذر ع القیسی المصر وی ثم الدمشقی۔

آپ ایک معزز اور علی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد شیخ ابو حفص شہاب الدین عمر اپنی بستی کے خطیب تھے اور آپ کے بڑے بھائی، شیخ عبدالوہاب ایک متاز عالم اور فقیہ تھے۔

ولادت و تعلیم و ربیت: ☆☆ آپ کی ولادت ۷۰۰ھ یا ۱۰۰۷ء میں بمقام مجدل ہوئی جو ملک شام کے مشہور شہر بصری کے اطراف میں ایک قریہ ہے۔ اس وقت آپ کے والد بیہاں کے خطیب تھے۔ ابھی آپ تیرے یا چوتھے برس میں ہی تھے کہ والد بزرگوار نے ۷۰۳ھ میں وفات پائی اور نہایت ہی کم سنی میں آپ کو قیسی کا داغ انھانا پڑا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو بڑے بھائی نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ والد کی وفات کے تین سال بعد ۷۰۶ھ میں آپ اپنے برادر بزرگوار کے ساتھ داشت چلے آئے اور پھر بیہن آپ کی نشوونما ہوئی۔ ابتدا میں اپنے بڑے بھائی سے فقه کی تعلیم پائی، بعد کو شیخ برہان الدین ابراہیم بن عبد الرحمن فزاری معروف بابن فرکاح شارح تنبیہ المتنوفی ۲۹۷ھ اور شیخ کمال الدین ابن قاضی شہبہ سے اس فن کی تتمیل کی۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ طالب علم جس فن کو حاصل کرتا اس فن کی کوئی مختصر کتاب زبانی یاد کر لیتا۔ چنانچہ آپ نے بھی فن میں "التتبیه فی فروع الشافعیہ" مصنف شیخ ابوالاسحاق شیرازی المتنوفی ۷۲۶ھ کو حفظ کر کے ۱۸۷ھ میں سنا دیا اور اصول فن میں علماء ابن حاجب والکی المتنوفی کی "مختصر" کو زبانی یاد کیا۔ اصول کی کتابیں آپ نے علامہ شمس الدین محمود بن عبد الرحمن اصفہانی شارح مختصر ابن حاجب المتنوفی ۷۲۹ھ سے پڑھی تھیں۔ فن حدیث کی تتمیل آپ نے اس عہد کے مشہور اساتذہ فن سے کی تھی۔ علامہ سیوطی "ذیل تذكرة الحفاظ" میں لکھتے ہیں: سمع

الحجار والطبقہ یعنی حجراً وراس طبقہ کے علماء سے آپ نے سامع حدیث کیا۔

حجراً کے ہم طبقہ و علماء حسن سے آپ نے علماء حدیث حاصل کیا اور جن کا ذکر خصوصیت سے آپ کے تذکرہ میں علماء نے کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ (۱) عیسیٰ بزرگ، لمطعم (۲) بہاؤ الدین قاسم بن عساکر المتنوفی ۷۲۳ھ (۳) عفیف الدین اسحاق بن تیجی الامدی المتنوفی (۴) محمد بن زراد (۵) بدر الدین محمد بن ابراہیم معروف بابن سویدی المتنوفی ۱۱۷ھ (۶) ابن الرضی (۷) حافظ مری (۸) شیخ الاسلام امام ابن تیسیہ (۹) حافظ ذہبی (۱۰) عاد الدین محمد بن الشیرازی المتنوفی ۷۳۹ھ۔

لیکن ان تمام حضرات میں سب سے زیادہ جس سے آپ کو استفادہ کا موقع ملا وہ محدث شام حافظ جمال الدین یوسف بزرگ، عبد الرحمن مزی شافعی مصنف "تهذیب الکمال" المتنوفی ۷۲۲ھ ہیں، حافظ مزی نے خصوصی تعلق کی بنا پر اپنی صاحبزادی کا آپ سے

نکاح کر دیا تھا۔ اس رشتہ نے اس تعلق کو اور زیادہ استوار کر دیا۔ سعادت مند شاگرد نے اپنے محترم استاد کی شفقت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، مدت مدید تک حاضر خدمت رہے اور ان کی اکثر تصنیف کا جس میں ”تهذیب الکمال“ بھی داخل ہے خود ان سے سارے کیا اور اس فن کی پوری تجھیل انہی کی خدمت میں رہ کر کی۔ چنانچہ سیوطی لکھتے ہیں: و تخرج بالمزی ولازمه و برع۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ المتوفی ۷۲۸ھ سے بھی آپ نے بہت کچھ علم سے حاصل کیا تھا اور عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے تھے۔  
حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ مصر سے آپ کو بدبوئی، وانی اور ختنی وغیرہ نے حدیث کی اجازت دی تھی۔

منزلت علمی: ☆☆ امام ابن کثیر کو علم حدیث کے علاوہ فقہ، تفسیر، تاریخ اور عربیت میں بھی کمال حاصل تھا۔ چنانچہ علامہ ابن العمار حنبی، جبیب سے ناقل ہیں۔ ”انتهت الیه ریاست العلم فی التاریخ والحدیث والتفسیر“  
”ان پر تاریخ، حدیث اور تفسیر میں ریاست علمی ثابت ہو گئی۔“

اور مشہور مورخ علامہ ابوالمحاسن جمال الدین یوسف ابن تغزی بر بنی حنفی ”المنهل الصافی‘ المستوفی بعد الوافی“ میں لکھتے ہیں۔ ”و كان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية۔“  
”حدیث، تفسیر، فقه اور عربیت میں ان کو بڑی معلومات تھیں۔“

اور حافظ ابوالمحاسن حنفی فرماتے ہیں: ”و برع فی الفقه والتفسير والنحو و امعن النظر فی الرجال والعلل۔“  
”فقہ، تفسیر اور نحو میں ماہر تھے اور رجال و علل حدیث میں بڑی گہری نظر پیدا کی تھی۔“

خاص طور پر علم حدیث میں تو ان کا یہ پایا ہے کہ حفاظ حدیث میں شارکے جاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابوالمحاسن حنفی اور علامہ سیوطی نے ”تذكرة الحفاظ“ پر جو ذیل لکھے ہیں اس میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اور خود امام ذہبی نے ”تذكرة الحفاظ“ کے خاتمه میں جہاں اپنے ممتاز شیخ حدیث اور رفتائے درس کا تعارف کرایا ہے وہاں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔  
شروع تھا کبھی اذوق تھا لیکن آپ کی نظم متوسط درجہ کی ہوتی تھی۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو۔

تمر بنا الایام تتری و نما  
نساق الى الا حال و العین تنظر  
 فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى  
ولا زائل هذا المشيب المكدر

(دن بیا پے گزرتے جاتے ہیں اور ہم آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہنکائے چلے جا رہے ہیں۔ سواب نہ تو وہ گزری ہوئی جو ملنی لوٹ کر آسکتی ہے اور نہ یہ کدورت بھرا بڑھا پا زائل ہونے والا ہے۔)  
تیرے مصروف میں اگر ”ذاك الشباب“ کی بجائے ”صفو الشباب“ ہوتا تو برا بیخ ہوتا۔

علماء کا آپ کی خدمت میں خراج تحسین: ☆☆☆ حافظ زین الدین عراقی المتوفی ۸۰۶ھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مغلطاً، ابن کثیر، ابن رافع اور حنفی ان چاروں معاصرین میں کون سب سے بڑا ہے؟ حافظ عراقی نے جواب دیا ان میں سب سے زیادہ وسیع الاطلاع اور انساب کے عالم تو مغلطاً ہیں اور سب سے زیادہ متون و تواریخ کے حافظ ابن کثیر ہیں اور سب سے زیادہ طلب حدیث میں مکنے والے

اور مولف مختلف کے عالم ابن رافع ہیں اور سب سے زیادہ شیوخ معاصرین سے باخبر اور تخریج کے واقف حسینی ہیں۔ اور حافظ ذہبی نے ”المعجم المختص“ میں ابن کثیر کا ذکر ان الفاظ سے شروع کیا ہے: الام الفقی الحدیث البارع فیۃ مصنفوں و محدثوں متفق مفسر اور ”تذکرة الحفاظ“ کے خاتمه میں ان القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں: الفقی الحدیث ذی الفھائل اور اس کے بعد لکھتے ہیں: وله عنایتہ بالرجال والمتون والفقہ خرج و ناظر و صنف و فسر و تقدم۔ ”ان کو رجال متون“ حدیث اور فقه کے ساتھ اختناء ہے، انہوں نے احادیث کی تخریج کی، مناظرہ کیا، تصنیف کی، تفسیر کی اور آگے بڑھ گئے۔ اور حافظ حسینی کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں: ”الشيخ الامام الحافظ المفید البارع۔“ اور حافظ سیوطی فرماتے ہیں: ”الامام المحدث ذو الفضائل“ اور علامہ ابن العماد لکھتے ہیں: الحافظ الكبير او حافظ ابن حمی المتون ۸۱۶ھ جو آپ کے نامور شاگرد ہیں، یہ رائے ظاہر کرتے ہیں۔

”احفظ من ادرکناه لمتون الاحادیث و اعرفهم بجرحها ورجالها وصحیحها و سقیمها و كان اقرانه و شیوخه یعترفون له بذلك وما اعرف انى اجتمعت به على كثرة ترددى اليه الا واستفدت منه۔“  
”هم نے جن لوگوں کو پایا ان سب میں وہ متون احادیث کے سب سے بڑے حافظ اور جرح اور رجال اور صحیح اور ضعیف کے سب سے زیادہ پہچانے والے تھے اور اس بارے میں ان کے معاصرین اور اساتذہ بھی ان کے مترقب تھے اور مجھے یاد نہیں کہ باوجود میرے کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ میں آپ سے ملا ہوں اور استفادہ نہ کر سکا ہوں۔“

اور حافظ ابن ناصر الدین الدمشقی ”الرد الوافر“ میں ان کا تذکرہ اس طرح شروع کرتے ہیں: ”الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة المورخين علم المفسرين“  
اور حافظ ابن حجر عسقلانی (جن کے متعلق صاحب ”کشف الطعون“ نے لکھا ہے کہ ”ان کا علم لوگوں کے اظہار معاصب میں بر اتحاد اور زبان اچھی تھی، کاش معاملہ الثا ہوتا کہ خوبی باتی رہتی) ان کو بھی امام ابن کثیر کے متعلق اتنا تسلیم ہے کہ: ”واشتغل بالحدیث مطالعة فی متونه ورجاله“ حدیث کے متون اور رجال کے مطالعہ میں مشغول رہے تاہم اپنی عادت کے مطابق یہ بیمار کر گئے ہیں:  
”ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالى وتميز العالى من النازل ونحن ذلك من فنونهم وانما هو من محدثى الفقهاء۔“

”یہ عالی اسانید کی تفصیل اور عالی و نازل کی تیزی اور اسی قسم کے دیگر فنون میں جو محدثین کے خاص فن ہیں، محدثین کی طرح نہ تھے بلکہ یہ تو فقهاء کے محدث تھے۔“

لیکن حافظ سیوطی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”قلت العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث و سقیمه و عللہ و اختلاف طرقہ رجاله جرحہا و تعدیلاً واما العالی والنازل و نحو ذلك فهو من الفضلات لا من الاصول المهمة۔“  
”میں کہتا ہوں اصل چیز علم حدیث میں بھیج اور سقیم کی پیچان اور علل اور اختلاف طرق کا علم اور رجال کی جرح و تعدیل سے

واقفیت ہے رہا عالی و نازل وغیرہ سو یہ زائد میں داخل ہیں نہ کہ اصول ہمہ میں۔“

”اگرچہ حافظ ابن کثیر اور علامہ محدث زادہ الکوثری لکھتے ہیں: پرمون حدیث کے حفظ کرنے کا زیادہ غلبہ تھا۔ لیکن ان کی حیثیت اتنی گری ہوئی بالکل نتھی کہ وہ طبقات رواۃ اور ان کے احوال کی معرفت کے اعتبار سے عالی و نازل کی بھی تمیز نہ کر سکتے ہوں بلکہ یہ بات تو ایسے شخص پر بھی مخفی نہیں رہ سکتی جو علم رجال میں ان سے بدر جہا کمتر ہو اور بھلا یہ کس طرح ہو سکتا تھا جب کہ وہ ایک طویل مدت تک مزدی کی خدمت میں برا بر حاضر ہے اور لشکری کے جمع کرنے پر لگ رہے، اور حافظ ابن حجر کی اندر ورنی باتیں ان لوگوں کے تذکرہ میں کھل جاتی ہیں جو فضل و کمال میں مشہور ہیں۔“

مورخین نے حافظ ابن کثیر کے حافظ اور فہم کی خاص طور پر تعریف کی ہے۔ ابن العماد لکھتے ہیں: ”کان کثیر الاستحضرار قلیل النسبان، جید الفهم۔“

درس و افتاء ذکر الہی، شَفَقَةُ مَرْأَجِي: ☆☆ حافظ ابن کثیر کی تمام عمر درس و افتاء اور تصنیف و تالیف میں بسرا ہوئی۔ حافظ ذہبی کی وفات کے بعد مدرسہ امام صالح اور مدرسہ تکنو یہ (جو اس زمانہ میں علم حدیث کے مشہور مرد سے تھے) میں آپ شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز رہے ہی بڑے ذاکر شغل تھے۔ چنانچہ ابن حبیب نے آپ کے متعلق لکھا ہے: ”امام ذی التسییح والتہلیل۔“ طبیعت بڑی شفقتہ پائی تھی،لطیف گو اور بذلہ نداز تھے۔ حافظ ابن حجر نے آپ کے اوصاف میں ”حسن الفاکہتہ“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں یعنی بڑا پر لطف مراجح کیا کرتے تھے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے خصوصی تعلق: ☆☆ اخیر میں یہ واضح کردینا ضروری ہے کہ حافظ ابن کثیر کو اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ سے خصوصی تعلق تھا جس نے آپ کی علمی زندگی پر گہرا اثر ڈالا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ بعض ان مسائل میں بھی امام ابن تیمیہ سے متاثر تھے جن میں وہ جمہور سلف سے متفرد ہیں۔ چنانچہ ابن قاضی شہہر اپنے ”طبقات“ میں لکھتے ہیں:

”کانت له خصوصية بابن تيميه ومناضلة عنه و اتباع له في كثير من اراءه و كان يفتى برأيه في مسئلة الطلاق وامتحن بسبب ذلك و اوذى۔“

”ان کو ابن تیمیہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اور ان کی طرف سے لا کرتے تھے اور بہت ہی آراء میں ان کی اتباع کرتے تھے۔ چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں بھی انہی کی رائے پر فتوی دیتے تھے جس کے نتیجے میں آزمائش میں پڑے اور ستائے گئے۔“

ایک وقت میں تین طلاقیں دینے کے بارے میں شیخ الاسلام کا مسلک یہ تھا کہ وہ ان تینوں طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کرتے تھے۔ وفات: ☆☆ آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی؛ جمرات کے دن شعبان کی چھبیس تاریخ ۷۸۷ھ میں وفات پائی (رحمہ اللہ تعالیٰ) اور مقبرہ صوفیہ میں اپنے محبوب استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن کئے گئے۔ آپ کے کسی شاگرد نے آپ کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ لکھا ہے جس کے دو شعريہ ہیں

لفقدك طلاب العلوم تاسفا وجادوا بدمع لا يبيد غزير

ولو مزجوا ماء المدامع بالدماء لكان قليلا فيك يا ابن كثير

”عما لقين علوم تھارے اٹھ جانے پر متأسف ہیں، اس کثرت سے آنسو بھار ہے ہیں کہ تھمنے ہی کو نہیں آتے اور اگر وہ

آن سوؤں کے ساتھ ہو بھی ملا دیتے تب بھی اے ابن کثیر "تمہارے لئے یہ چھوڑے تھے۔"

پسمندگان میں دو صاحبزادے بڑے نامور چھوڑے تھے، ایک زین الدین عبد الرحمن حن کی وفات ۷۹۲ھ میں ہوئی اور دوسرے بدر الدین ابوالبقاء محمد۔ یہ بڑے پایہ کے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ۸۰۳ھ میں بمقام رملہ وفات پائی ہے۔ ان دونوں کا ذکر حافظ بن فہد نے اپے ذیل میں بسلسلہ وفیات کیا ہے۔

**تصنیفات:** ☆☆ آپ نے تفسیر حديث، سیرت اور تاریخ میں بڑی بلند پایہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ یہ آپ کے اخلاص کا شہرہ اور حسن نیت کی برکت تھی کہ پارگاہ ایزدی سے ان کو قبول عام اور شہرت دوام کی مند عطا ہوئی۔ سورخین نے آپ کی تصانیف کی افادیت اور ان کی قبولیت کا ذکر خاص طور سے کیا ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں: "وله تصانیف منیدۃ" ابن حجر کہتے ہیں:

"سادت تصانیفہ فی البلاد فی حیاته وانتفع الناس بها بعد وفاته۔"

"ان کی زندگی میں ان کی تصانیف شہر شہر جا پہنچیں اور ان کی وفات کے بعد لوگ ان سے نفع اندوز ہوتے رہے۔"

اور شوکانی لکھتے ہیں: "وقد انتفع الناس بتصانیفہ لا سیما التفسیر۔"

"لوگوں نے ان کی تصانیف خصوصاً تفسیر سے فائدہ اٹھایا۔"

آپ کی جن تصانیف پر ہمیں اطلاع مل سکی وہ حسب ذیل ہیں۔

**ا۔ تفسیر القرآن العظیم:** ☆☆ جس کے متعلق حافظ سیوطی تصریح کرتے ہیں کہ "لم یوَلِفْ عَلَى نُمْطَهِ مُثْلَه" (اس طرز پر دوسری تفسیر نہیں لکھی گئی) اور حدیث کوثری فرماتے ہیں: "مَوْ مِنْ أَفِيدَ كَتَبَ التَّفْسِيرَ بِالرَّوَايَةِ"

"یہ تفسیر بالروایۃ میں سب سے زیادہ مفید کتاب ہے۔"

اور قاضی شوکانی لکھتے ہیں:

"وقد جمع فيه فاواعیٰ ونقل المذاهب والاخبار والآثار و تکلم باحسن کلام ونفسه۔"

"اس میں جمع کیا اور خوب حفظ کر دیا، مذاہب نقل کئے، حدیثیں لکھیں، آثار درج کئے اور بہت ہی عمدہ اور نہایت نیم کلام فرمایا۔"

مصنف اس کتاب میں سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول پر ایک آیت کی تفسیر ای مضمون کی دوسری آیات کی روشنی میں کرتے ہیں پھر حدیثیں کی مشہور کتابوں سے اس کے بارے میں جواحدیث مردوی ہیں ان کو نقل کر کے ان کی ای ناید و رجال پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد آثار صحابہؓ تا بعین کو لاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کا یہ سب سے بڑا علمی کارناک ہے کہ انہوں نے تفسیر اور تاریخ سے اسرائیلیات کو بہت کچھ چھانٹ کر غلیجدہ کر دیا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس اہم کام کے لئے ان جیسے بالغ نظر محدث ہی کی ضرورت تھی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر ان کی علمی خدمات میں صرف یہی خدمت ہوتی تب بھی وہ ان کے فخر کے لئے کافی تھی۔ الحمد للہ یہ کتاب متداول اور بارہ طبع ہو چکی ہے۔

**۲۔ البدایہ والنہایہ:** ☆☆ یہ فتن تاریخ میں ان کی بیش بہا تصنیف ہے اور مصر سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس میں ابتدائے کائنات سے لے کو احوال آخرت تک درج ہیں، پہلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور امام ماضیہ کا ذکر ہے پھر سیرت نبویہ کا بیان ہے اور اس

کے بعد خلافت راشدہ سے لے کر اپنے عہد تک کی مفصل تاریخ لکھی ہے۔ پھر اشراط الساعة اور احوال آخرت کا بیان ہے۔ اس تاریخ میں بھی امام موصوف نے غائب منا کیر اور اسرائیلیات کو چھانٹ دیا ہے۔ صاحب کشف الطعنون لکھتے ہیں:

”اعتمد فی نقلہ علی النص من الكتاب والسنۃ فی وقائع الالوف السالفة و میزین الصحيح والسمیع  
والخبر الاسرائیلی وغیرہ۔“

”گذشتہ ہزارہا سال کے وقائع میں کتاب و سنت کی تصریح پر اعتماد کیا ہے اور صحیح، ضعیف اور اسرائیلی روایات وغیرہ کو جدا کر دیا ہے۔“

مورخ ابن تغزی بر دی اس تاریخ کے متعلق لکھتے ہیں: ”هو فی غایته الوجودة۔“ (یہ نہایت ہی خوب ہے)۔ امام علامہ حافظ بدال الدین محمود عینی حقی شارخ بخاری نے اپنی تاریخ میں زیادہ تر اسی کتاب پر اعتماد کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کا اختصار بھی کیا ہے۔ کشف الطعنون میں ہے کہ محمود بن محمد بن دلشاو نے ”البدایہ والنہایہ“ کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس تاریخ میں واقعات اور وفیات دونوں درج ہیں۔ سیرت نبویہ کا حصہ خاص طور پر سب سے بہتر ہے، مگر بے شمار مشاہیر علماء کا تذکرہ درج کتاب ہونے سے رہ گیا ہے اس میں مصنف کی وفات سے ۲ سال قبل تک کے حالات آگئے ہیں۔

۳۔ **الملیل فی معرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل:** ☆☆☆ صاحب ”کشف الطعنون“ نے اس کتاب کا نام ”التکملہ فی اسماء الثقات والضعفاء“ لکھا ہے، لیکن خود مصنف نے ”البدایہ والنہایہ“ اور ”اختصار علوم الحدیث“ میں بھی نام لکھا ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فن رجال میں ہے اور حسب تصریح حافظ حقی پانچ جلدیوں میں ہے۔ اس میں مصنف حافظ مزدی کی ”تہذیب الکمال“ اور حافظ ذہبی کی ”میزان الاعتدال“ کو جمع کر دیا ہے اور جا بجا اپنی طرف سے اس میں مفید اضافے بھی کئے ہیں۔ خود مصنف کی رائے اس کتاب کے بارے میں یہ ہے:

”وهو انفع شئی للفقیه البارع و كذلك المحدث۔“

”یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ماہر فقیہ اور اسی طرح ایک محدث کے ساتھ بہت زیادہ فرع بخش ہے۔“

۴۔ **الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن:** ☆☆☆ یہی کتاب ہے جو ”جامع المسانید“ کے نام سے مشہور ہے۔ مصنف نے اس میں مسند امام احمد ابن حنبل، مسند بزار، مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی شیبہ اور صحابہ تکی روایات کو جمع کر کے ان کو ابواب پر مرتب کر دیا ہے۔ محدث کوثری لکھتے ہیں: ”هو من انفع كتبه۔“ (یہ ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ فرع بخش ہے)۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ ”دارالكتب المصری“ میں موجود ہے۔

۵۔ **طبقات الشافعیہ:** ☆☆☆ اس میں فقہائے شافعیہ کا تذکرہ ہے۔ اس کا قلمی نسخہ شیخ محمد بن عبد الرزاق حمزہ نے شیخ حسین باسلامہ کے پاس دیکھا ہے جو کہ کرمہ میں مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔

۶۔ **مراتق الشافعی:** ☆☆☆ یہ رسالہ امام شافعی کے حالات میں ہے، مصنف نے اس کا ذکر ”البدایہ والنہایہ“ میں امام شافعی کے تذکرہ میں کیا ہے، اس کا قلمی نسخہ بھی طبقات الشافعیہ کے ساتھ مجدد ہے۔ صاحب ”کشف الطعنون“ نے اس رسالہ کا نام ”الواضح الفیض فی مناقب الامام ابن اوریس“ لکھا ہے۔

- ۷۔ تخریج احادیث ادلة التنبیہ: ☆☆ تخریج احادیث مختصر ابن الحاچب: ☆☆ "التبیہ" اور "مختصر" یہ دونوں کتابیں وہی ہیں جن کو مصنف نے عہد طالب علمی میں حظ کیا تھا۔ ان دونوں کتابوں میں کتب حدیث سے تخریج بھی لکھی ہے۔
- ۸۔ شرح صحیح بخاری: ☆☆ اس کی تصنیف بھی شروع کی تھی مگر ناقام رہ گئی۔ "کشف الطعون" میں ہے کہ صرف ابتدائی کلوارے کی شرح ہے۔ مصنف نے اس کا ذکر "اختصار علوم الحدیث" میں کیا ہے۔
- ۹۔ الاحکام الکبیر: ☆☆ یہ کتاب بہت بڑے پیمانے پر احادیث احکام میں لکھنی شروع کی تھی، مگر کتاب انج ہجۃ اللہ سکے تمام نہ کر سکے۔ مصنف نے "اختصار علوم الحدیث" میں اس کتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔
- ۱۰۔ اختصار علوم الحدیث: ☆☆ نواب صدیق حسن عان نے "میثاق الوصول فی اصطلاح احادیث الرسول" میں اس کا نام "الباعث الحکیمیت علی معرفة علوم الحدیث" لکھا ہے۔ یہ علامہ ابن صلاح المتوفی ۲۴۳ھ کی مشہور کتاب "علوم الحدیث" معروف یہ "مقدمہ ابن صلاح" کا جو اصول حدیث میں ہے، اختصار ہے۔ مصنف نے اس میں جا بجا مفید اضافے کئے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں: "وله فیہ فوائد۔" (اس کتاب میں حافظ ابن کثیر کے بہت سے افادات ہیں۔)
- ۱۱۔ منداشین: ☆☆ اس میں شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے جو حدیثیں مردی ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ مصنف نے "اختصار علوم الحدیث" میں اپنی ایک تصنیف "منداش عرضی اللہ عنہ" کا ذکر کیا ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آیا وہ مستقل علیحدہ کتاب ہے یا اسی کا حصہ ثانی ہے۔
- ۱۲۔ السیرۃ الغنویہ: ☆☆ یہ سیرت پر بڑی طویل کتاب ہے۔
- ۱۳۔ الفضول فی اختصار سیرۃ الرسول: ☆☆ یہ سیرت پر ایک مختصر کتاب ہے۔ مصنف نے اس کا ذکر اپنی تفسیر میں سورہ احزاب کے اندر غزہ خندق کے بیان میں کیا ہے۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ مدینہ منورہ میں کتب خانہ شیخ الاسلام میں موجود ہے۔
- ۱۴۔ کتاب المقدمات: ☆☆ اس کا ذکر مصنف نے "اختصار علوم الحدیث" میں کیا ہے۔
- ۱۵۔ مختصر کتاب المدخل للتفہیقی: ☆☆ اس کا ذکر بھی "اختصار علوم الحدیث" کے مقدمہ کیا ہے۔
- ۱۶۔ الاجتہاد فی طلب الجہاد: ☆☆ جب فرنگیوں نے قلعہ "ایاس" کا حاصرہ کیا اس وقت آپ نے یہ رسالہ امیر مسجد کے لئے لکھا۔ یہ رسالہ مصر سے چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔
- ۱۷۔ رسالتہ فی فضائل القرآن: ☆☆ یہ رسالہ بھی تفسیر ابن کثیر کے ساتھ مطبع المنار مصر میں طبع ہو چکا ہے۔
- ۱۸۔ مسند امام احمد بن حنبل کوئی حروف پر مرتب کیا تھا اور اس کے ساتھ طبرانی کی "بیہقی" اور ابو یعلی کی "مسند" سے زوائد بھی درج کئے تھے۔
- ۱۹۔ امام ابن کثیرؒ کی تمام تصاویر میں یہ خوبی عیاں ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں نہایت تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں اور مفصل لکھتے ہیں، عبارت کل اور پیرا یہ بیان دلکش ہوتا ہے۔

## حضرت مولانا جونا گڑھی رحمہ اللہ علیہ کے مختصر حالات

تفیر محمدی کے مؤلف حضرت مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صیریعنی پاک دہند کے ان مایہ ناز علمائے حدیث میں ہوتا ہے جو اپنے علمی کمالات، دینی وجاہت، علمی کردار، حسن صورت و سیرت اور بجاہد ان کارنا میں سے اپنے ہم عصر علماء پر اس طرح چجائے ہوئے تھے جس طرح تمام ستاروں پر بدر (چودھویں رات کا چاند) کی روشنی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔

ابتدائی حالات: ☆ مولانا کا نام ”محمد“ والد ماجد کا نام ابراہیم سال ولادت ۱۸۹۰ء ہے۔ آپ کا وطن مالوف کاٹھیاواڑ کا مشہور شہر جونا گڑھ ہے جو صبحہ ہندوستان میں اسلامی ریاستوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ اس علاقہ کی مشہور مسلم قومیں سے تعلق رکھتے تھے۔

آپ کے والد ماجد تاجر تھا ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے۔ حضرت مولانا مرحوم سن شعور کو پہنچنے والی دینی علوم کی طرف راغب ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں مولانا عبداللہ جونا گڑھی سے حاصل کی۔ اس وقت دہلی ہندوستان کی مادر علم تھی اندرون ملک کے علاوہ دہیرون ملک سے تشنگان علم یہاں آ کر علمی پیاس بجھاتے تھے۔ خاندان ولی الہی کے علمی اثرات ابھی کچھ کچھ باقی تھے حضرت الامام سید نذر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وصال فرمائے تقریباً دس بارہ سال کا ہی عرصہ گزارا تھا، دہلی کا علمی شہر ساتو دل میں ایک زبردست اشتیاق پیدا ہوا۔ والد بزرگوار آپ کو اپنی آنکھوں سے اوچھل کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے، مگر ہونہار فرزند کا علمی اشتیاق، دن بدن ترقی پذیر تھا۔

دہلی میں تشریف آوری: ☆ چنانچہ آپ نے ۱۹۱۲ء میں دہلی کارخ کیا ”مدرسہ امینیہ“ دہلی میں مشہور اور مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ نے اپنا علمی سامان سفر سب سے پہلے میں کھولا۔ ”مدرسہ امینیہ“ کے ارباب حل و عقد چونکہ تقلیدی قیود و حدود میں گھرے ہوئے تھے اور اور عمل و بالحدیث کا جذبہ رُگ و پے میں سیما ہوا تھا۔ اس لئے ”مدرسہ امینیہ“ کے فضار اس نہ آسکی اور جلد ہی اس کو چھوڑ کر عالمین بالحدیث کے مشہور دینی و علمی مرکز، صدر بازار میں مولانا عبد الوہاب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ ”دارالکتاب والسنۃ“ میں داخل ہو گئے جہاں حاتم دوران جانب شیخ حافظ حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علماء نوازی اور غرباء پر بھری اپنی مثال آپ تھی۔ آپ نے یہاں مستقل طور پر درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت دہلی میں مولانا عبد الرحیم صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں یافتہ عالمین بالحدیث کا مرکز تھا، آپ نے اس علمی مرکز سے بھر پور استفادہ کیا۔ حدیث کی بعض کتابیں مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ (تمیم پھائک جوش خاں دہلی) اور مولانا عبد الرحیم صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ امتری سے پڑھیں۔

منطق وغیرہ علوم عقائد دہلی کے مشہور استاذ مولانا محمد اسحاق صاحب سے حاصل کی۔ مولانا محمد اسحاق صاحب کی عمر کا یہ آخری ماہ تھا۔ مولانا محمد اسحاق کی رحلت کے بعد آپ نے مولوی محمد ایوب صاحب پر اچھر تھۃ اللہ علیہ سے منطق کی تکمیل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دہلی میں مسجدِ المیں حدیث، انجیری گیٹ کو اپنی مستقل سکونت کے لئے منتخب کیا اور وہاں ”مدرسہ محمدیہ“ کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ ”مدرسہ محمدیہ“ کو شاہقین علوم نبویہ کا مرکز قرار دیا۔ مدرسہ میں آپ نہایت مستعدی سے درس و تدریس کیں کو آخری عمر تک سرانجام

دیتے رہے۔

**عدیم الشال خطیب:** ☆☆ خطیب الہند حضرت مولانا محمد صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کا ایسا ملکہ اور قدرت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر موضوع پر نہایت جامع اور مدلل و مؤثر خطافرماتے تھے۔ آپ کی آواز میں ایسی کشش اور تاثیری تھی کہ خطبہ مسنونہ شروع کرتے ہی سامنیں پر رقت طاری ہو جاتی اور بعض بے اختیار ہو کر زار و قطار آنسو پہنانے لگتے تھے اور خطبہ سے متاثر ہو کر کتنے علاویہ تائب ہوتے تھے۔ آپ کے مواعظ اور توحیدی خطاب نے ہندوستان میں تقلید جامد اور شرک و بدعتات کی بساط الٹ ڈالی اور بلا مبالغہ لاکھوں آدمی شرک و بدعتات سے تائب ہو کر سچے موحد اور حق سنت بن گئے۔

آپ کا چہرہ نورانی اور شکل و صورت ایسی موهنی اور پسندیدہ تھی کہ جس کی نظر پر تی بلایا ملک آپ کا معتقد اور گرویدہ ہو جاتا، اس پر آپ کا عمل بالددیث اور ایتیاع سنت کا جذبہ سونے پر ہماگے کا کام دیتا۔

**وفات:** ☆☆ آپ اپنی عمر کے پچاس سال پورے کر کے کیم صفر ۱۳۶۰ھ مطابق ۱۹۴۱ء پنے آبائی طین جونا گڑھ میں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال فرمائے گئے۔ (انا لله وانا اليه راجعون)۔ آپ کی وفات پر مولانا ابوالعارف شاداعظی موسیٰ نے حسب ذیل تاریخ لکھی:

آہ حضرت الحلامہ مولانا محمد جونا گڑھی

لقد مات فی الوطن المبارک وفقہ سُمی رسول الله شیخ محمد  
فقال بقلب الحزن شاد مورخا تخلی الى الله الحمیل محمد  
علامہ مرحوم کی وفات پر نصف صدی سے زیادہ طویل عرصہ گذر رہا ہے لیکن ان کے علمی برکات اور صدائے حق کی گونج پورے ہندو پاک  
میں سنائی دے رہی۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ آمين۔

**بے مثال قصینی خدمات:** ☆☆ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونا گڑھی کو درس و تدریس اور خطاب کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا نہایت عمدہ ذوق عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے قلم سے شرک و بدعت کی بیخ کنی کے لئے تکوار کا کام کیا اور بر صیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے شرکیہ مراسم اور تقییدی جو دو کو پاش پاش کردار الا حق کے اس جواب مرد سپاہی نے توحید و سنت کے ہر محاذ سے دین حق کی حمایت کی۔ آپ کے قلم امیب سے جو شاہکار علمی اور تحقیقی رسائل اور اعلیٰ کتابیں مرتب ہو کر شائع ہوئیں وہ اردو زبان میں۔ دینی علوم کا براقابل فخر سرمایہ ہیں جس کے بارہاں سے اردو دنیا کی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ آپ کی اکثر کتابوں کے نام 'لطف' 'محمدی'، 'پر بیت'، 'شامل صلوٰۃ محمدی'، 'رکوٰۃ محمدی'، 'سیام محمدی'، 'حج محمدی'، 'توحید محمدی'، 'برأت محمدی'، 'طریق محمدی'، 'فضل محمدی' وغیرہ! آپ کے چھوٹے بڑے رسائل اور کتابوں کی تعداد سو سے زیادہ ہے، لیکن آپ کی ان علمی یادگاروں میں تین شہ پارے ایسے ہیں جن پر پوری ملت اسلامیہ پاک و ہند کو بجا طور پر ہمیشہ نازر ہے گا اور یہ کتابیں تاریخ کے ہر دور میں اپنے عظیم مؤلف کے نام کو زندہ اور روشن رکھیں گی۔

**اول:-** امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور نامور کتاب "اعلام الموقعن" جو دین محمدی کے سمجھنے اور دین حق کی معرفت کے لئے ایک جامع دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے "دین محمدی" کے نام سے اس کا اردو میں تبلیغ کر کے امت محمدیہ (علی صاحبها الصلوٰۃ و اتسیم) پر ایسا احسان عظیم کیا ہے جسے بلاشبہ رہتی دنیا تک ہمیشہ علمی و ندیبی حلقوں میں یاد کیا جاتا رہے گا۔

## امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا نامہ مبارک بنام مولانا محمد جونا گڑھی

اعلام الموقعن کے ترجمہ کے بارہ میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بنام مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں والا نامہ قطر از فرمایا:

”جی فی اللہ۔“ السلام علیکم ورحمة اللہ۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے حافظ قیم کی ”اعلام الموقعن“ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ مجھے اس خبر سے نہایت خوشی ہوئی۔ عرصہ ہوا میں نے بعض عزیز دوں کو جو ترجمہ کے لئے دلچسپی رکھتے ہیں اس کام پر لگایا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم کی مصنفات اردو میں منتقل کریں۔ چنانچہ منتخب کتابوں میں اعلام بھی تھی لیکن خیم ہے اس لئے اس کی نوبت نہ آئی۔ مختصرات شائع ہو گئیں اب آپ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں کہوں گا آپ نے ایک نہایت موزوں کتاب منتخب کے لئے منتخب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق کار عطا فرمائے۔ مباحث فقه و حدیث میں متاخرین کا کافی ذخیرہ موجود ہے لیکن اس سے بہتر اور اصح کوئی کتاب نہیں، اس کا اردو میں ترجمہ کر دینا اس گوشے کی تمام ضرورت یہک دفعہ پوری کردیتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس کی ضرورت انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے ہے۔ اس طبقہ میں بہت سے لوگ مذہبی ذوق سے آشنا ہو چکے ہیں لیکن صحیح مسلک کی خبر نہیں رکھتے اور عربی سے نآشنا ہونے کی وجہ سے براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے، اگر ”اعلام الموقعن“ اردو میں شائع ہوگئی تو ان کی فہم و بصیرت کے لئے کافی مواد مہیا ہو جائے گا۔ میں نہایت خوش ہوں گا اگر اس کے ترجمہ کی اشاعت میں آپ کو کچھ مدد دے سکوں۔  
(ابوالکلام کان اللہ له از گلکتہ)

”اعلام کا ترجمہ شائع ہوا اور اکابر ملت و علمائے امت کے ہاتھوں میں پہنچا۔ مطالعہ کے بعد حضرت امام الہند نے جو والا نامہ ارقام فرمایا اس کا مطالعہ کیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ حضرت مولانا محمد مرحوم کے اس کار عظیم کی اہمیت کیا ہے۔

## امام الہند مولانا آزاد کا دوسرا نامہ مبارک بنام مولانا محمد مرحوم

”جی فی اللہ۔“ السلام علیکم۔ ”اعلام الموقعن“ کا ترجمہ دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی۔ مباحث فقه و حدیث اور حکمت تشریع اسلامی میں متاخرین کی کوئی کتاب اس درجہ محققانہ اور تائیف نہیں ہے جس درجہ یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاۓ خیر دے کہ اس مفید دینی خدمت پر متوجہ ہوئے۔ میں ان تمام لوگوں کو جو مذہبی معلومت کا شوق رکھتے ہیں اور اصل عربی کا مطالعہ نہیں کر سکتے مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں چونکہ اسلام کے اندر وہی مذاہب و مشارب کی وجہیں گیوں سے عموماً مسلمان باخبر نہیں ہیں اس لئے بسا اوقات ان کا مذہبی شفف غلط را ہوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ان پر واضح کر دے گا کہ حکمت و دانش کی حقیقی راہ کن لوگوں کی راہ ہے۔ تبعین کتاب و سنت کی یا اصحاب جدل و خلاف کی؟ خود صاحب ”اعلام الموقعن“ اپنے قصیدے ”نوئیہ“ میں کیا خوب فرمائے ہیں:

العلم قال الله قال رسوله      قال الصحابة هم اولو العرفان

ما العلم نصبك للخلاف جهالة      بين النبي وبين رأي فلان

(یعنی علم دین وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، جو معرفت خداوندی میں ڈوبے ہوئے نیضان صحبت رسول کے فیض یافتہ)

صحابہؓ کرام کی زبانوں سے ظاہر ہوا ہے، کسی کی رائے کو سنت و حدیث سے لکھا تو رائے کے غلبے کے لئے دلائل قائم کرنا اور اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے رائے کے جھنڈے کے خلاف حدیث بلند کرنے کا نام علم دین نہیں۔)

ضرورت تھی کہ اس کتاب کا ترجمہ کتاب کی شکل میں شائع کیا جاتا۔ موجودہ صورت حال کا یہ نہایت افسوسناک منظر ہے کہ اس طرح کی تیقینی اور ضروری خدمات پر اہل خیر و استطاعت کو توجہ نہیں۔ مجھے امید ہے بہت جلد ایسے حالات فراہم ہو جائیں گے کہ آپ اس کا دوسرا یہی شائن شائع کر سکیں گے۔ یہ بھی آپ نے خوب کیا کہ حافظ عمار الدین ابن کثیرؓ کی تفسیر کا ترجمہ شائع کر دیا۔ متاخرین کے ذخیرہ تفسیر میں یہ سب سے بہتر تفسیر ہے۔ امید ہے کہ اصحاب خیر و استطاعت اس کام میں بھی آپ کے مساعدہ مددگار ہوں گے۔ (ابولکلام کان اللہ له مکلتہ ۳۶-۳۷)

دوم: آپ کی محبوب کتاب "خطبات محمدی" ہے۔ آپ نے اس کتاب کو ایسے خلوص اور محنت سے لکھا کہ اس سے ہزاروں مساجد کے منبر گونج اٹھے اور لاکھوں گھرانے ترانے محمدی سے سرشار ہوئے۔ خطبات محمدی کا درس، مساجد اور دینی مجالس میں آج تک مسلسل اور باقاعدہ دیا جا رہا ہے۔

سوم اخبار محمدی: گوناں گوں تصنیفی خدمات کے علاوہ آپ نے اپنے "اخبار محمدی" کے ذریعے ملک میں توحید و سنت کی آواز بلند کی۔ "اخبار محمدی" مدت مدیہ تک بر صغر کے مطلع صافافت پر توحید و سنت کا آفتاب دماہتاب بن کر چکتا رہا، جس کی ضیاء پاش کروں سے پورا ملک روشن ہو گیا۔

چہارم تفسیر محمدی: سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

رضینا قسمته الجبار فینا لنا علم وللجهال مال  
لان المال يفني عن قریب وان العلم ليس له زوال  
(هر شخص وہی چیز پاتا ہے جو اس کی قسمت میں ہوتی ہے، علم والوں کو علم ملتا ہے اور مال والوں کو مال ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں توعیطی الہی، علم ہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا انمول خزانہ ہے اور مال و دولت تمام ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔)


حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے تحت آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دینی علوم کا جو خزانہ حضرت مولانا محمد رحمة اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں ودیعت فرمایا تھا، جس کے پیشتر حصہ کو اپنے قلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رہا گئے وہ ایک ایسا لاقافی چشمہ ہے جس سے تشنگان علم وہدایت ہمیشہ سیراب ہوتے رہیں گے۔ قبل ازیں مندرجہ بالاسطور میں آپ کی علمی یادگاریں، مخلادین محمد ترجمہ اعلام الموقعين، خطبات محمدی اور اخباری محمدی کا کچھ تعارف قارئین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب مولانا مرحوم مغفور کی اہم ترین دینی اسلامی خدمت کا تعارف طالبین دین حق کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو تفسیر محمدی کے نام سے آنے والی مسلمان نسلوں کے سامنے رکھ گئے ہیں۔ تفسیر محمد کیا ہے؟ اس کے متعلق امام البند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد صاحب مترجم تفسیر ابن کثیر کے نام پر خط لکھا:

"جی فی اللہ"، "السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ مجھے سن کر از حد خوشی ہوئی کہ جناب نے حافظ عمار الدین ابن کثیر کی عربی تفسیر کا

اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ متأخرین ک ذخیرہ تفسیر میں یہ سب سے بہتر تفسیر ہے۔ امید ہے کہ اصحاب خیر و استطاعت اس کام میں بھی آپ کے مساعد و مددگار ہوں گے۔ (ابوالکلام کان اللہ له ازکلکتہ ۲۶ فروری ۱۹۳۶ء)

مولانا محمد صاحب مرحوم کی یہ اہم ترین یادگار قرآن کریم کی اردو زبان میں ایک بے مثال نادر روزگار تفسیر سے اردو زبان میں قرآن پاک پر ایک بہترین کتاب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر یہ مبارک تفسیر و جود میں نہ آتی تو اردو داں حضرات ایک قیمتی ذخیرہ علم کے مطالعہ سے محروم رہتے۔ اس تفسیر پر مولانا کو جس قدر بھی خراج عجیب پیش کیا جائے کم ہے۔ اس تفسیر کے آنے سے ہر مسلمان کے لئے سلف صالحین کی روشنی کے مطابق قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے دہلی کی نہایت پیاری ریلی اردو زبان اختیار فرمائی ہے ترجمہ میں ایسا عام فہم اندراختیار کیا ہے کہ ترجمہ اور اصل کتاب میں فرق کرنا مشکل ہے۔ تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے آسان میں ستاروں کے مقابلہ میں چودہویں رات کے چاند کو حاصل ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ کتب احادیث میں جو مقام ”اصح الکتب بعد کتاب اللہ“ صحیح بخاری کو حاصل ہے ایسا ہی مقام کتب تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر کو حاصل ہے۔

# تفسیرِ مسلم کتبہ



## چند اہم مضمومین کی فہرست

۱  
پاہ نمبر

۶۲	۰ احمد کا تعارف و مفہوم	۲۳	۰ محمد و شاء کے حقوق کا واحد مالک
۶۳	۰ آئین اور سورہ فاتحہ	۲۲	۰ جدت تمام رسول اللہ ﷺ
۶۵	۰ اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان	۲۲	۰ بیو پاری علماء کا حشر
۶۸	۰ سات نبی سورتوں کی فضیلت	۲۵	۰ تفسیر کا بہترین طریقہ
۷۹	۰ حروف مقطعات اور ان کے معنی	۲۵	۰ اہمیت حدیث
۷۳	۰ تحقیقات کتاب	۲۸	۰ اپنی رائے اور تفسیر قرآن
۷۴	۰ مقین کی تعریف	۳۰	۰ قرآن حیم سے متعلق کچھ معلومات
۷۵	۰ ہدایت کی وضاحت	۳۱	۰ آیت کے لفظی معنی
۷۵	۰ ایمان کی تعریف	۳۳	۰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف اقوال اور سورہ فاتحہ
۷۷	۰ قیام صلوٰۃ کیا ہے؟	۳۳	۰ سورہ فاتحہ کی فضیلت
۸۰	۰ ہدایت یافتہ لوگ	۳۲	۰ بسم اللہ با آواز بلند یادی آواز سے؟
۸۳	۰ منافقت کی قسمیں	۳۳	۰ رسول اللہ ﷺ کا انداز قرات
۸۵	۰ شک و شبہ بیاری ہے	۳۳	۰ فصل بسم اللہ کی فضیلت کا بیان
۹۱	۰ شک، کفر اور رفاقت کیا ہے؟	۳۶	۰ اللہ نے اپنے تمام (صفاتی) نام خود تجویز فرمائے ہیں
۹۳	۰ منافقین کی ایک اور بیچان	۳۶	۰ اللہ کے متراوٹ امعنی کوئی نام نہیں!
۹۷	۰ تعارف الہ بزبان الہ	۳۸	۰ الرحمن اور الرحیم کے معنی
۹۹	۰ اثبات وجود الہ علیمین	۵۰	۰ الحمد للہ کی تفسیر
۱۰۱	۰ تصدیق بوت اعجاز قرآن	۵۱	۰ حمل کی تفسیر اقوال مسلف سے
۱۱۳	۰ خلافت آدم کا مفہوم	۵۳	۰ بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان!
۱۱۶	۰ خلیفہ کے فرائض اور خلافت کی نوعیت	۵۳	۰ حقیقی وارث و مالک کون ہے؟
۱۲۲	۰ تعارف ایمیں	۵۵	۰ عبادت کا مفہوم
۱۲۳	۰ اعزاز آدم علیہ السلام	۵۶	۰ عبادت اور طلب
۱۲۷	۰ جنت کے حصول کی شرائط	۵۷	۰ حصول مقصود کا بہترین طریقہ
۱۲۷	۰ بنی اسرائیل سے خطاب	۵۸	۰ صراطِ مستقیم کیا ہے؟
۱۳۰	۰ دو غلابین اور یہودی	۶۰	۰ انعام یافتہ کون؟
۱۳۰	۰ مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات	۶۰	۰ مغضوب کون؟

۲۱۱	۰ مدینہ منورہ افضل یا مکہ مکرمہ؟	۱۳۲	۰ صبر کا مفہوم
۲۲۱	۰ دعائے ابراہیم علیہ السلام کا حاصل	۱۳۳	۰ حشر کا منظر
۲۲۲	۰ توحید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر	۱۳۰	۰ یہود پر احسانات الہیہ کی تفصیل
۲۲۳	۰ ازلی اور ابدی مسْتَحْقِ عبادت اللہ وحدہ لا شریک	۱۳۳	۰ احسان فرمائیں یہود
۲۲۴	۰ الٰل کتاب کی تصدیق یا انکذیب!	۱۳۶	۰ یہود کون ہیں؟
۲۲۵	۰ شرط نجات	۱۳۸	۰ عہد شکن یہود
۲۲۶	۰ مشرکین کے اعمال سے بیزاری	۱۵۳	۰ جنت بازی کا انجام
۲۲۷		۱۵۳	۰ بلا وجه تحسیں موجب عتاب ہے
		۱۵۶	۰ یہودی کردار کا تجزیہ
		۱۵۹	۰ ای کا مفہوم اور ویل کے معنی
		۱۶۳	۰ اوس خیز رنگ اور دیگر قابل کو دعویٰ اتحاد
		۱۶۸	۰ خود پسند یہودی موردعتاب
		۱۶۹	۰ مہبلہ اور یہودی مع نصاریٰ
		۱۷۰	۰ خصوصت جبرِ مل علیہ السلام موجب جب کفر و عصيان
		۱۷۳	۰ سلیمان علیہ السلام جادو گرنیں تھے
		۱۸۲	۰ جادو کی اقسام
		۱۸۵	۰ جادو اور شر
		۱۸۷	۰ مسلمانوں کا فردیں کی صورت لباس اور زبان میں مشابہت کے بچو!
		۱۸۸	۰ تبدیلی یا تفسیخ۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے
		۱۹۰	۰ کثرت سوال جنت بازی کے متراوف ہے!
		۱۹۲	۰ قوی عصیت باعث شقاوتوں ہے
		۱۹۳	۰ شیطان صفت مفتر و یہودی
		۱۹۴	۰ نصاریٰ اور یہودی مکافات عمل کا شکار!
		۱۹۶	۰ کعبہ صرف علامت وحدت و سمت ہے اللہ کا جمال و جلال غیر محدود ہے
		۱۹۹	۰ اللہ ہی مقدارِ عالیٰ ہے کے دلائل
		۲۰۱	۰ طلب نظارہ۔ ایک حماقت
		۲۰۲	۰ آپ نصیحت کی حد تک مسؤول ہیں
		۲۰۳	۰ دین حق کا باطل سے سمجھوتہ جرم غظیم ہے
		۲۰۵	۰ امام توحید
		۲۰۵	۰ مکمل اسلام
		۲۰۷	۰ شوق زیارت اور برہننا ہے
		۲۰۹	۰ عہد جو مترادف حکم ہے

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حمد و ثناء کے حقوق کا واحد مالک: ☆☆ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا "الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحِيمُ ملِكُ يَوْمِ الدِّينِ" اور فرمایا "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ" اخ یعنی سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا اور اس میں کوئی کجھ نہیں رکھی۔ جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے اللہ کا خیر برادر گوں کو ڈراۓ اور جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کرتے ہیں انہیں ان کے بہترین اور یقینی والے بد لے کی خوش خبریاں سنائے اور جو لوگ اپنے بے علم بآپ دادوں کی سنی سانی باتوں پر اللہ کی اولاد مانتے ہیں انہیں بھی ڈراۓ۔ یہ بہت بڑی اور محض جھوٹ بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اے بنی! تم ان کے لئے اپنی جان کو روگ نہ کاؤ۔ جس طرح اس پروردگار نے اپنی کتاب کو اپنی حمد سے شروع کیا، اسی طرح اس نے اپنی مخلوق کو بھی اپنی حمد سے ہی شروع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" یعنی سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آسمان و زمین کو اور اندھیرے اجائے کو پیدا کیا لیکن کفار اس کے باوجود بھی اللہ کا شریک نہ ہراتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق کا خاتمہ بھی اپنی حمد و ثناء پر ہی کیا۔

اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے "وَتَرَى الْمَلِكَةَ حَاجِفَيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُصْدِيْنَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" یعنی تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش خداوندی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثناء تبیح و تقدیم بیان کرتے ہوں گے۔ فیصلہ حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہہ دیا گیا ہو گا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کافر مان ہے "وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" یعنی وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب تعریفیں اول و آخری کے لئے ہیں۔ اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا کر لائے جاؤ گے اور ارشاد ہے "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَرِيكُمُ الْحَبِيرُ فِلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ" یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی آسمان و زمین کی کل چیزیں ہیں۔ آخرت میں بھی حمد اسی کے لئے ہے۔ وہی حکومتوں والاسب خبریں رکھنے والا ہے۔ لہذا اول و آخری کی تعریف ہے یعنی جو کچھ اس نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کرے گا، وہی ان سب کی تعریفوں کا مستحق ہے جیسا کہ نمازی "سمع الله" اخ۔

اس کے بعد کہتا ہے اللهم ربنا لك الحمد ملائ السموم و ملائ الأرض و ملائ ماشت من شى بعد "اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں آسمان و زمین بھرجانے کے برابر اور ان کے بعد بھی جس چیز کو تو بھر دینا چاہے" اسی لئے حتیٰ لوگ بھی حمد و ثناء کا الہام کئے جائیں گے اور ان کے سانس کے ساتھ ہی بالائف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تبیح ادا ہوتی رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں اور اس کی قدرت کاملہ، اس کی زبردست سلطنت، اس کی مسلسل رحمتیں اور اس کے دائی احسان ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ يَهُدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَحْرِيْ

مِنْتَهِيَّهُمُ الْأَنْهَرُ فِي حَنْتٍ نَعِيمٍ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْخَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتْهُمْ فِيهَا سَلْمٌ وَأَخْرُدَعَوْهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” یعنی ایمان کے ساتھ یہ عمل کرنے والوں کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان نعمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں ان کی آواز ”سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ“ گونجتی ہو گی اور آپس میں سلام کا تھنہ ہو گا۔ اور گویا سب کی پاکار یہی ہو گی کہ سب تعریفیں اس الشہی کے لئے ہیں جو تمام جہاں والوں کا رب ہے۔

حَجَّتْ تَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ☆☆☆ ”الحمد لله الذي ارسل رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ لِغَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ“ یعنی اللہ ہی کے لئے تعریف ہے جس نے اپنے رسولوں کو خوش خبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنایا کہ مجھا تاک رسولوں کے آجائے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ ان رسولوں کا سلسلہ نبی ای عربی کی مدنی علیت پر ختم کیا جو سب سے زیادہ واضح راہ کی راہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک جتنے جنات اور انسان ہیں ان سب کی طرف آپ کی رسالت حکم حکم ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ”فَلْ يَأْتِيَهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ ان اے نبی! تم کہہ دو کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جو آسان وزمین دونوں کا مالک ہے۔ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو جلاتا ہے اور مرتا ہے۔ پس اے لوگو! تم سب ایمان لاو اللہ تعالیٰ اور اس کے اس رسول پر جو نی ہیں ای ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگو! انہی کی میری میں تمہاری ہدایت مضر ہے۔ ارشاد ربانی ہے ”لَا تُنذِرْ كُمْ بِهِ وَمَنْ يَلَعَ“ تاک میں تمہیں ذرا تو اور انہیں بھی جنمیں یہ اللہ کا کلام پہنچے۔ یعنی عربی، بھگی، کالے گورے، جس انسان کے بھی یہ قرآن پہنچے۔ آنحضرت ﷺ اس کے لئے ذرا نے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مُوَعِّدُهُ“ یعنی ”اس کے ساتھ کفر کرنے والا جنمی ہے۔“ پس جو کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ حکم قرآن جنمی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے۔ ”فَدَرْنَى وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهِهَا الْحَدِيثَ سَنَسْتَدِرِ رِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝“ یعنی ان جھلانے والوں کو میرے حوالے کر دو۔ میں انہیں اس طرح بتدریج پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری پیغمبری عام ہے۔ ہر سرخ دیاہ کی طرف پیغمبر ہنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جیاہؓ فرماتے ہیں یعنی کل جن و انس کی طرف۔ پس آنحضرت ﷺ تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ کے رسول پکڑیں، ایک اور جگہ فرمایا۔ ”یہ لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟“

بیو پاری علماء کا حشر: ☆☆☆ پس علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کر دیں اور اس کی صحیح تفسیر کریں اور اسے باقاعدہ اپنا گھر علم بنا کیں اور سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں (اس کے احکامات) چھپائیں نہیں لیکن ان لوگوں نے اسے پہنچے ڈال دیا اور اس کے بد لے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ بیو پار نہایت ہی برا ہے۔“ اور جگہ فرمایا ”جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے تھوڑے مول کے بد لے بیچتے پھریں، ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان سے اللہ

تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھئے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے، ”پس جو لوگ ہم سے پہلے کتاب اللہ دیئے گئے تھے اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑ دیا، پر ورودگار نے ان کی نمذمت کی۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو نمذمت کا سبب بنے۔ بلکہ انہیں چاہئے کہ احکام الہی کی تقلیل میں بدل و جان لگے رہیں اور قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے سمجھنے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”کیا ایمان والوں کے لئے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جوان کی طرف حق اترتا ہے، اس سے کانپ آئیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی۔ لیکن کچھ زمانہ گذرتے ہی ان کے دل خخت ہو گئے۔ اکثر لوگ نافرمان ہو گئے جان لوکہ مردہ زمین کو جلانا اللہ ہی کا کام ہے۔ ہم نے تو تمہاری سمجھ بوجھ کے لئے اپنی آیتیں بیان کر دیں“ ان دونوں آیتوں کے ترجمہ میں غور کرو۔ کس لطافت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ہاشم سے خشک زمین لہلہانے لگتی ہے اسی طرح ایمان اور ہدایت سے وہ دل جو نافرمانیوں اور گناہوں کے باعث خخت ہو گئے ہوں، نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔

اللہ بزرگ و برتر اور جو ادھر اُنچی سے قبولیت کی امید پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے۔ آمیں

تفسیر کا بہترین طریقہ: ☆☆ سنو! تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو۔ اس لئے کہ ایک بیان کہیں منحصر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے اس لئے کہ حدیث قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے بلکہ حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کے سمجھائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کر سکو۔ خبردار اتم خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بننا۔“ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ ”ہم نے تو تم پر اسی لئے یہ کتاب نازل فرمائی ہے کہ لوگوں کے اختلافات کا تصفیہ کر دیا کرو۔ یہ کتاب ایمان داروں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔“ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ ”ہم نے اس ذکر کو تمہاری طرف اس لئے نازل کیا کہ تم اسے لوگوں کو حرف بحرف پہنچا دوتا کہ وہ فکر کر سکیں۔“

اہمیت حدیث: ☆☆ رسول اللہ ﷺ نے فرماتے ہیں ”بھجو کی قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مانند ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے“ اس سے مراد سنت ہے۔ یہ پادر ہے کہ حدیث شیخ بھی اللہ کی وحی ہیں جس طرح قرآن پاک بذریعہ وحی اترا، اسی طرح حدیث رسول بھی وحی الہی ہے مگر قرآن وحی مکلو ہے اور حدیث وحی غیر مکلو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ نے اس حقیقت کو دلالت سے ثابت کر دیا ہے لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اولاً خود قرآن مجید سے پھر حدیث سے کرنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہیں کی طرف بھیجا تو دریافت کیا کہ حکم (فیصلہ) کس طرح کر دے گے؟ جواب دیا۔ ”کتاب اللہ سے۔“ فرمایا ”اگر اس میں نہ پاؤ تو؟“ کہا ”سنت رسول اللہ سے۔“ کہا ”اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو؟“ کہا ”اب اجتہاد کروں گا۔“ حضورؐ نے یہ جواب سن کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بھی کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے نبی کو پسند ہے۔“ یہ حدیث مند میں بھی ہے اور سنن میں بھی اور اس کی سند بھی بہت عمده ہے۔ یعنی اپنی جگہ اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ قرآن نبھی کا بہترین انداز اقوال صحابہؓ کی روشنی میں: ☆☆ اس بنا پر جب کسی آیت کی تفسیر قرآن حدیث دونوں میں نہ ملے تو اقوال صحابہؓ کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو وہ تفسیر قرآن کو بہت زیادہ جانتے تھے اس لئے کہ جو قرینے اور احوال اس وقت تھے، ان کا علم انہی

کو ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت موجود اور حاضر تھے۔ علاوہ ازیں کامل سمجھ بوجہ صحیح علم اور نیک عمل بھی انہیں حاصل تھا۔ بالخصوص ان بزرگوں کو جو ان میں بڑے مرتبہ کے اور زبردست علم تھے۔ بلاشبہ چاروں خلفاء جو راشد اور پداہت یافتہ تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی التورین، حضرت علی رضی اللہ عنہم علی حد القیاس عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد اللہ سے مردی ہے، فرماتے ہیں ”اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت اسی نہیں ہے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اور کہاں نازل ہوئی؟ میں اگر جانتا کہ کتاب اللہ کے علم سے متعلق کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہاں تک میں کسی طرح پہنچ بھی سکتا ہوں تو ضرور اس کی شاگردی میں اپنے آپ کو پیش کرتا۔“ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ”ہم میں سے ہر شخص جب تک دن آنکوں کا پورا مطلب نہ جان لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا گیا رہوں آیت نہ پڑھتا۔“ حضرت عبدالرحمن سلمی تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے جن سے قرآن سیکھا، وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے پڑھا، جب تک ہم دن آنکوں کا علم عمل حضور سے نہ سیکھ لیتے آگے نہ پڑھتے۔ غرض قرآن کا علم اور قرآن پر عمل دونوں ہی سیکھا۔ انہی میں سے ایک حبر احمد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے پھرزاد بھائی اور ترجیح القرآن ہیں۔ حضور نے ان کے لئے برکت کی دعا کی تھی اور فرمایا تھا ”اللهم فقهہ فی الدین و علّمہ الناویل“ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمادی اور قرآن کی تفسیر کا علم بھی نصیب کر۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے بہترین ترجیح حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کے اس قول کو پیش نظر کھر خیال کیجیئے کہ ان کا انتقال سن ۳۲۵ھ میں ہوا اور حضرت عبد اللہ بن عباس اس کے بعد بھی چھتیس سال تک زندہ رہے تو اس مدت میں آپ نے علم میں کس قدر ترقی کی ہو گی۔ حضرت ابو والی فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے زمانہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس امیر حج مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے تفسیر کی کہ اگر ترک و دیلم کے کفار بھی سن لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبے میں سورہ نور کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل بن عبد الرحمن سدی کیہرا پائی تفسیر میں انہی دنوں بزرگوں سے اکثر تفسیر نقش کیا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اہل کتاب سے یہ بزرگ جو روایت لیا کرتے ہیں اسے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ میں اسرائیل سے روایت لیتا مباحثہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میری طرف سے پہنچا دیا کرو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔“ میں اسرائیل سے بھی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ میں کوئی حرج نہیں، مجھ پر قصد اجھوٹ بولنے والا قطعاً جھنپھی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے جنگ یوسوک میں دو بوریاں یہودو نصاری کی کتابیں پائی تھیں ان کی باتیں بھی وہ اس حدیث کو مد نظر کر کرنے کی لیکن یہ یاد رہے کہ میں اسرائیل کی یہ روایتیں صرف مسئلہ کی مغفوظی اور اس کی گواہی کے لئے لائی جاتی ہیں، خود ان سے مسائل ثابت نہیں کئے جاسکتے۔

اسرائیلی روایات اور بے جا تھیں: ☆☆☆ روایات میں اسرائیل تین قسم کی ہیں۔ ایک توہ جن کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہے یعنی قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے، اس کا صحت میں تو کوئی کلام نہیں، دوسرے وہ جن کی تکذیب خود ہمارے ہاں موجود ہو یعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو۔ اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تیسرا وہ کہ جس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لئے کہ ہمارے پاس توہ کوئی ایسی روایت ہے جس کی تصدیق سے ہم اسے صحیح کہہ سکیں نہ کوئی ایسی روایت جو اس کے خلاف ہو اور اس پاپر ہم اسے جھوٹ یا غلط کہہ سکیں۔ لہذا یہ تیرسی قسم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں نہ انہیں غلط

کہیں نجح سمجھیں۔ البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے اور یہ روایتیں ہیں بھی ایسی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔

علاوہ ازیں ایسی باتوں کی وجہ سے خود اہل کتاب میں بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں اور انہیں کی وجہ سے ان روایتوں کو لیے والے مفسرین میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اصحاب کہف کے نام، ان کے کتنے کارگنگ، ان کی گنتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو لکڑے لکڑے کر دیا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ جی اٹھنے وہ پرندے کوں کوں سے تھے؟ اور جس مقتول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک لکڑا لگایا تھا اور اس سے اللہ نے اسے زندہ کر دیا تھا۔ وہ لکڑا کون ساختا اور کس جگہ کا تھا؟ وہ کون سا درخت تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں اللہ کا کلام سناتھا؟ وغیرہ وغیرہ پھر یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور ہمیں ان کا جانانہ جانتا، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی تہہ میں ہمیں کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیوی۔ البتہ اس اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے جیسے کہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا ہے ”سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَبْعَهُمْ كَلْبُهُمْ“، اخ یعنی ”یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور ان کا کتاب چوتھا تھا اور کہیں گے پانچ تھے اور چھٹا کتاب تھا۔ یہ سب ڈھکو سلے ہیں وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتنا۔ اے نبی! تم کہہ دو کہ ان کی گنتی میر ارب ہی بخوبی جانتا ہے۔ تم ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کرو اور اس بارے میں ان سے نہ پوچھو۔“ اس آیت نے بتا دیا کہ ہمیں ایسے مقام میں کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تین قول بیان فرمائے ہیں۔ دو کو تو ضعیف قرار دیا اور تیسرا پر ضعف کا حکم نہیں لگایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد کا علم جب تھیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، پھر تم اس کی چھان بین میں کیوں لگو؟ کیوں نہ کہہ دو کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پر مطلع فرمایا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ وہ انکل پچھا باتیں بنارہے ہیں پھر ان کے پیچھے پڑنے اور ان سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کو نقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کر دیے جائیں۔ صحیح، غیر صحیح پر تنبیہ کر دی جائے اور اس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ بیکار کام میں پڑ کر کوئی شخص کارآمد مشغل سے محروم نہ ہو جائے۔ جو شخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کرے تو یہ بھی اس کا قصور ہے۔ ممکن ہے نہیک قول وہی ہو جسے اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو شخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کئے بغیر چھوڑ دے وہ بھی تقدیر کرے گا۔ اگر غیر صحیح کو جان بوجھ کر صحیح کہدے تو پھر وہ جھوٹا ہے اور اگر جھالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہو، بہت سارے اختلافی اقوال نقل کر دے یا ایسے اختلافات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں گے مگر نتیجہ کے اعتبار سے یا تو اختلاف بالکل ہی اٹھ جاتا ہو یا یوں ہی معنوی سارہ جاتا ہو وہ بھی اپنے عزیز وقت کو بیکار کرے گا اور بے مقصد کام کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دوچھوٹے کپڑے پہن لے۔ بھلانی اور سیدھی بات کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ ہے۔

آخری طریق تفسیر: ☆☆☆ نصل: جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہؓ ہمیں میں نہ ملے تو اکثر ائمہ دین نے کہا ہے کہ ”ایسے موقع پر تابعین کی تفسیر سے مددی جائے“ جیسے مجاہد بن جبیر (جو تفسیر میں اللہ کی ایک نشانی تھے) فرماتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ اول سے آخرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک سیکھا اور سمجھا۔ ایک ایک آیت کو پوچھ پوچھ کر سمجھ کر پڑھا۔ ابن ابی ملکیہ فرماتے ہیں ”خود میں نے حضرت مجاہد کو دیکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر حضرت ابن عباس کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت

کر کے اس میں تحریر فرماتے۔ قرآن کریم کی تفسیر اسی طرح نقل فرمائی۔ حضرت سفیان ثوریؓ کا فرمان تھا کہ مجاہد جب کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو پھر اس کی مزید تحقیق کرنا بے سود ہے۔ لیں ان کی تفسیر کافی ہے۔ حضرت مجاهدؓ کی طرح حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت عمرہ جو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے مولیٰ تھے اور حضرت عطاء بن ابو رباؓ، حضرت حسن بصریؓ، حضرت مسروق بن اجدعؓ، حضرت سعید بن میتبؓ، حضرت ابو العالیؓ، حضرت ربعی بن انسؓ، حضرت قتاوہ اور حضرت نحیاؓ، بن مزاہم وغیرہ تابعین اور ان کے بعد دلوں کی تفسیریں معتبر مانی جائیں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کئے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو بے علم لوگ اسے منفی اختلاف سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کی، کسی نے اس کی نظری سے کسی نے اس چیز کو ہی بیان کر دیا۔ پس ان صورتوں میں گوا الفاظ میں اختلاف ہو لیکن معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ عقل مند کو چاہئے کہ اسی جگہ لغفرش نہ کھائے۔ والله الہادی

شعبہ بن جاج کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروعی مسائل میں جدت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیسے جدت مان لئے جائیں؟ شعبہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ان سے اختلاف کرنے والے پران کے اقوال جدت نہیں البشان کے اجمائی اقوال کے جدت ہونے میں کوئی مشکل نہیں۔ ہاں اختلاف کے وقت نہ ان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر جدت ہے نہ غیروں پر۔ ایسی صورت میں لغت قرآن، حدیث، عام لغت عرب اور اقوال صحابہؓ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اپنی رائے اور تفسیر قرآن: ☆☆ ہاں اپنی رائے سے تفسیر کرنا تو محض حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں "جو قرآن میں اپنی رائے کو دل دے یا نہ جانے کے باوجود کچھ کہہ دے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔" اہن جریءہ ترمذی ابوداؤد میں یہ حدیث ہے اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اسے حسن کہا ہے۔ یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں۔ حضرت جنوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ خطا کرے گا" (ابن جریر) ابوداؤد ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذیؓ نے اسے غریب کہا ہے اور اس کے راوی سہیل پر بعض اہل علم نے بھی کلام کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی مردی ہیں کہ "جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی ٹھیک بات کہہ دے جب بھی وہ خطا کار ہو گا" اس لئے کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا اور وہ چال چلا جس چال کے چلنے کا اسے حکم نہ تھا۔ پس اگرچہ اس کے منہ سے ٹھیک بات نکل جائے پھر بھی وہ خطا کار ہو گا۔ اس لئے کہ کام کو کام کے طریقے پر اس نے نہیں کیا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص بے علم ہو لیکن فیصلے کرنے بیٹھ جائے اسے جہنمی کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے شخص کی صحیح بات پر موافذہ کم ہو لیکن ہے خطا کار۔ والله اعلم۔ دیکھئے تھے لگا کروہ نہ پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کاذب یعنی جھوٹا فرمایا ہے۔ گویقیت میں وہ سچا ہی ہوا در جس کی نسبت وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے وہ واقعی زانی ہو لیکن چونکہ اس خبر کو بلا شہادت پھیلانا حلal نہ تھا مگر اس نے پھیلائی تو جھوٹا نہ ہے۔ والله اعلم

تفسیر قرآن اور اکثر اسلاف کا روایہ: ☆☆ یہی وجہ تھی کہ سلف کی ایک بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے "مجھے کوئی زمین اٹھائے گی اور کونسا آسان سایہ دے گا اگر میں قرآن میں وہ کہوں جو نہیں جانتا۔" آپ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَفَا كِهَةً وَ أَبْأَهْ کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں مجھے کونسا آسان سایہ دے گا اور کوئی زمین اٹھائے گی جب کہ میں قرآن میں وہ کہوں جو نہیں جانتا۔ یہ روایت منقطع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر اسی

آیت کی تلاوت کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں فاکہہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اے عمر اس نکلف میں کیوں پڑو؟ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ آپ کے غمیں کے پیچے چار یونہنگے ہوئے تھے آپ نے اس آیت و فاکہہ و آبائی کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ پھر فرمانے لگے اس نکلف کی تمہیں کیا ضرورت؟ اس کے نہ جانے میں کیا حرج؟ مطلب یہ ہے کہ انس کے معنی تو معلوم ہیں لیکن چارہ زمین کی پیداوار لیکن اس کی کیفیت کا واضح علم نہیں۔ خود اسی آیت میں موجود فَانْبَثَّنَا فِيهَا حَبًّا وَ عِنْبَلَعْنِیْنَ ہم نے زمین میں انماج اور انگورا گائے۔

ابن جریر میں صحیح سند کے ماتحت مروی ہے کہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی غمیں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے کچھ بیان نہ فرمایا حالانکہ اگر اس کی تفسیر تم میں سے کسی سے پوچھی جاتی تو فوراً جواب دے دیتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ قرآن میں ایک ہزار سال کے برابر ایک دن کا ذکر ہے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اور پچاس ہزار سال کے برابر کے دن کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ خیال فرمائیے کہ اتنے بڑے مفسر قرآن نے قرآن کی تفسیر میں کس قدر احتیاط برقراری کہ جس بات کا علم نہ تھا، اس کے بیان سے صاف انکار کر دیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حضرت جندب بن عبد اللہؓ سے ایک مرتبہ طلق بن جبیب نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو فرمانے لگے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں تم ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یا فرمایا یہاں بیٹھے رہو۔ حضرت سعید بن میتب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے ہم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جو کچھ معلوم ہوتا، اسی کو قرآن کی تفسیر میں بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے سوال پر آپ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھو۔ قرآن کی تفسیر اس سے پوچھو جو کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں لیکن حضرت عکبر مد رحمۃ اللہ علیہ۔

یزید بن ابو زید کہتے ہیں، ہم حضرت سعید بن میتب سے حلال و حرام کے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ ان سب سے زیادہ عالم نظر آتے۔ لیکن قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ضرور تھجھکتے تھے جیسے حضرت سالم بن عبد اللہ، قاسم بن محمد، سعید بن میتب، نافع رحمہم اللہ وغیرہ۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد عروہ کو کبھی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نہیں سن۔ عبد اللہ سلمانی سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے "جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے کہ کس بارے میں نازل ہوئیں، وہ اس دنیا کو خالی کر گئے۔ اب تم ٹھیک ٹھاک اور سیدھے سادے رہو۔" حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں "جب تم کتاب اللہ کی تفسیر میں کچھ کہنا چاہو تو آگے پیچھے دیکھ لو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بات کہنی ہے۔" حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، ہمارے سب ساتھی قرآن کی تفسیر کو بڑی چیز جانتے تھے اور اس میں سخت احتیاط کرتے تھے۔ شعی فرماتے ہیں، گوئیں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا علم حاصل کر لیا ہے تاہم میں یہ کہتے ہوئے تھجھکتے ہوں اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ حضرت مسروق کا قول ہے کہ تفسیر میں بے حد احتیاط کرو۔ تفسیر تو اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ ان تمام اور ان جیسے دیگر آثار صحیحہ کا جاؤ آئے سلف سے منقول ہیں، یہ مطلب ہے کہ یہ علماء کرام ہرگز ہرگز بغیر علم کے قرآن کے معنی و مطلب بتانے میں لب کشانی نہیں کرتے تھے۔ ہاں لفت کی رو سے یا شریعت کی رو سے جو تفسیر معلوم ہوا اس کے پیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لئے خود ان بزرگوں کے پاکیزہ احوال قرآن کریم کی تفسیر میں بکثرت مروی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جب یہ بزرگ اس طرح کا پتہ رہا کرتے تھے اور تفسیر بیان نہیں فرماتے تھے پھر ان سے تفسیر منقول کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چپ دہاں رہتے تھے جہاں نہیں جانتے

تھے اور کہتے وہاں جہاں کا علم ہوتا اور یہ دونوں ہی باتیں ہر ایک پرواجب ہیں۔ بے علمی کے وقت چپ رہنا اور علم کی صورت میں بیان کرنا۔ قرآن فرماتا ہے **لَيَسْتُنَّةِ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُنَّهُ لِيَعْنِي** اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو اور چھپاو نہیں۔ حدیث شریف میں ہے جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ جانے کے باوجود دادے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام چڑھائی جائے گی۔ ابن جریر میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ قرآن کی ان ہی آیتوں کی تفسیر فرمایا کرتے تھے جن کی تفسیر جبراہیل علیہ السلام سمجھا جاتے لیکن یہ حدیث مکار اور غریب ہے اور اس کے راوی جعفر محمد بن خالد بن زید بن عوام قریشی لڑکے ہیں۔ ان کی بابت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی حدیث میں متابعت نہیں کی جاتی۔ حافظ ابوالفتح ازوی فرماتے ہیں یہ مکار الحدیث ہیں اور اگر یہ حدیث صحیح ہو تو بھی اس کا صحیح مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتیں۔ ایسی آیتوں کے مطلب حضور ﷺ کو بذریعہ جبراہیل علیہ السلام معلوم کرا دیئے جاتے تھے۔ امام ابو جعفر نے اس روایت کے جو معنی بیان فرمائے ہیں ان کا ماحصل بھی یہی ہے اور بھی معنی درست بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم محض اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم علماء کو ہے اور ایسی آیتیں بھی ہیں جو عرب کے لوگ اپنی لغت سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایسی بھی ہیں کہ جن کے معنی مطلب اس طرح واضح ہیں کہ کسی کا کوئی

عذر باتی نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

اقسام تفسیر: ☆☆ تفسیر کی چار تسمیں ہیں ایک تو کلام عرب سے معلوم ہو جاتی ہے دوسرا جس کی جہالت میں کوئی معدود نہیں۔ تیسرا وہ جسے ذی علم لوگ جان سکتے ہیں۔ چوتھی وہ جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس بارے میں مروی ہے لیکن اس کی اسناد میں کلام ہے۔ اس کا مبنی یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا قرآن کا نزول چار طریق پر ہوا ہے۔ حلال حرام آیتیں جن سے اگر کوئی ناواقف رہے تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا اور وہ تفسیر جسے عرب بیان کریں اور وہ تفسیر جو ذی علم جان سکے۔ اور وہ مشابہ آیتیں جن کا حقیق علم بجز ذات ہماری تعالیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ جو لوگ اس کے جانے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن سائب کبھی ہیں وہ متعدد الحدیث ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو مرفوع حدیث سمجھ لیا ہو۔ واللہ اعلم

قرآن حکیم سے متعلق کچھ معلومات: ☆☆ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نسا، سورہ مائدہ، سورہ برآ، سورہ رعد، سورہ فصل، سورہ حج، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ جمrat، سورہ رجم، سورہ حمید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ تہذیف، سورہ صاف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ زلزال اور سورہ نصر یہ سب سورتیں تو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں اور باتی تمام سورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی تمام آیتیں چھپہ ہزار ہیں۔ اس سے زائد پر اختلاف ہے۔ بعض اس سے زیادہ نہیں بتاتے مگر بعض دو سو چار آیتیں چھپہ ہزار سے زائد بتاتے ہیں۔ بعض دو سو چودہ آیتیں۔ بعض دو سو ایک، بعض دو سو چھیس، ابو عمر دانی نے کتاب البیان میں یہی تفصیل لکھی ہے۔ قرآن شریف کے کلمات کی نسبت حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ متنتر ہزار چار سو ایک لیس کلمات ہیں۔ حروف کی تکنی کی نسبت حضرت مجاهد سے مروی ہے کہ کل قرآن شریف کے حروف تین لاکھ اکیس ہزار ایک سوا ہیں۔ فضل بن عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ کل حروف تینیں ہزار پندرہ ہیں۔

جاج نے اپنے زمانے میں قاریوں جانفلوں اور کتابوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ قرآن کریم کے حروف کی تکنی کر کے مجھے تاؤ تو سب نے حساب کر کے بالاتفاق کہا کہ تین لاکھ چالیس ہزار سات سو چالیس حروف ہیں۔ پھر جاج نے کہا، اچھا حروف کے اعتبار سے

آدھا قرآن شریف کہا ہوتا ہے؟ تو حساب سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں وَلَيْتَ أَطْلُفُ کی "ف" پڑھیک آدھا قرآن ہوتا ہے اور سورہ برآئت کی سو آیتوں پر قرآن کریم کا بہلا تھائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے اور دوسری تھائی سورہ شعراہ کی سو آیت کے سرے پر یا ایک سو ایک آیت کے سرے پر ختم ہوتی ہے اور تیسرا تھائی آخر تک اور اگر منزلوں کا شمار کیا جائے یعنی سات حصے قرآن کریم کے کئے جائیں تو پہلی منزل "صد" کی د پر ختم ہوتی ہے جو اس آیت میں ہے فِيمَنْهُمْ مَنْ يَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَهُ اور دوسری منزل حجۃت کی "ت" پر ختم ہوتی ہے جو سورہ اعراف کی آیت اول نک حجۃت میں ہے اور تیسرا منزل أَكُلُّهَا کے آخری "ا" پر جو میں آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ میں ہے اور چھٹی منزل السُّوءَ کی "و" پر جو سورہ فتح کی آیت (۶) الظَّاهِنَ بِاللَّهِ ظَنَ السُّوءَ میں ہے اور ساتوں منزل قرآن پاک کے خاتمه پر ہے۔ ابو محمد سلام حملی کا بیان ہے کہ ہم نے چار مہینے کی متواتر محنت سے یہ سب باقی معلوم کر کے جان جو بتائیں۔ جان ج کا معمول تھا کہ ہرات پاؤ قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ اس لحاظ سے پاؤ قرآن پر اور اپورے قرآن پر۔ شیخ ابو عمر دانی نے اپنی کتاب البیان میں ان باتوں میں بھی اختلاف نقل کیا ہے۔

**منازل تلاوت:** ☆☆ رہے قرآن شریف کے پڑھنے کے اعتبار سے حصے اور اجزا تو مشہور ترین پارے ہیں اور ایک حدیث میں صحابہ کرامؓ کا قرآن کریم کو سات منزلیں کر کے پڑھنے کا بیان ہے۔ منداحمد سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضورؐ کی حیات میں صحابہؓ سے پوچھا گیا کہ قرآن کے وظینے کس طرح کرتے ہیں تو فرمایا۔ پہلی تین سورتوں کی ایک منزل پھر ان کے بعد کی پانچ سورتوں کی دوسری منزل، پھر ان کے بعد کی سات سورتوں کی تیسرا منزل۔ پھر ان کے بعد کی نو سورتوں کی چوتھی منزل، پھر ان کے بعد کی گیارہ سورتوں کی پانچیں منزل، پھر ان کے بعد کی تیرہ سورتوں کی چھٹی منزل اور غصل کی یعنی سورہ "ق" سے لے کر آخر تک کی ایک منزل۔

**سورت کے لفظی معانی:** ☆☆ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی علیحدگی و بلندی کے ہیں چنانچہ نابغہ کے ایک عربی شعر میں سورۃ کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے تو اس معنی کا تعلق قرآن کی سورتوں کے ساتھ اس طرح ہو گا کہ گویا قرآن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتا رہتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرافت اور اونچائی کے معنی میں ہے اسی لئے شہر بناہ کو عربی میں سور کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ برلن میں جو حصہ باقی رہ جائے اسے عربی میں اسارہ اور سورۃ کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے چونکہ سورہ بھی قرآن کا ایک حصہ اور ایک لکڑا ہوتی ہے ہمزہ کی تخفیف کردی گئی پھر ہمزہ کو داؤ سے بدلتا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ کے معنی تمام کمال کے ہیں۔ پوری اونٹی کو عربی زبان میں سورہ کہتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح قلعہ کو عربی میں اس لیے سور کہتے ہیں کہ محلوں اور گھروں کا احاطہ کر لیتا ہے اور انہیں جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح چونکہ آیتوں کو سورت جمع کر لیتی ہے اور ان کا احاطہ کر لیتی ہے اس کو بھی سورۃ کہتے ہیں۔ سورت کی جمع سور آتی ہے اور کبھی سورات بھی آتی ہے۔

**آیت کے لفظی معنی:** ☆☆ آیت کو آیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت کے لفظی معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ چونکہ آیت پر کلام ختم ہوتا ہے اور اول آخر سے جدا ہو جاتا ہے اس لئے اسے آیت کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیت علامت اور نشان کے معنی میں ہے۔ ارشاد ہے اُن آیتے مُلْكَةٌ یعنی اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت۔ اسی طرح نابغہ کے شعر میں بھی آیت اسی معنی میں ہے اور آیت کے معنی

جماعت اور گروہ کے بھی آتے ہیں۔ عرب کے شعروں میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے۔ چونکہ آیت میں بھی حروف کی ایک جماعت اور ایک گروہ ہے اس رعایت سے اسے بھی آیت کہتے ہیں اور آیت کے معنی عجیب کے بھی ہیں۔ چونکہ یہ عجیب چیز ہے، مجذہ ہے، تمام انسان اس جیسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے بھی اسے آیت کہتے ہیں۔ سیبو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت تھا جیسے اکمَّة اور شَجَرَةٌ پہلی "ی" عربی قاعدہ کے مطابق الف بن گئی۔ کسانی کا قول ہے کہ آیت کی اصل آیتتھے تھی جیسے امتنہے الف ہو گئی اور التباہ کی وجہ سے گئی۔ فراء کہتے ہیں کہ پہ اصل میں آیتتھا پھر یا کو تشدید کی وجہ سے الف سے بدلتا گیا آیۃ ہو گیا۔ آیت کی جمع ایت ایتی اور ایات آتی ہے۔

کلمہ کے کہتے ہیں؟ ☆☆ کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو۔ بھی تو اس کے دو ہی حرف ہوتے ہیں جیسے ما اور لا وغیرہ اور کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دس حرف ایک کلمہ میں ہوتے ہیں جیسے لیست حلوفنهم اور انلزمکمومہ اور فاسقینا کمومہ اور ایک ہی کلمہ کی ایک آیت ہوتی ہے جیسے والفسر اور والضھر اور والعصر اور اسی طرح الہ اور طہ اور یس اور حم۔ کوفیوں کے قول ہیں اور حم۔ عسق ان کے نزدیک دو کلمے ہیں اور ان کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں نہیں بلکہ سورتوں کے شروع ہیں۔ ابو عمرو دانی فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ کی آیت قرآن کریم میں سوائے مدھا مтан کے جو سورہ حم ہے اور کوئی نہیں۔

**فصل =** قریبی فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے سوا عجمی ترکیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں البتہ عجمی نام ضرور ہیں جیسے ابراہیم، نوح، لوط اور اس اختلاف کے جواب میں کہ کیا قرآن میں اس کے سوا بھی عجمی زبان کے الفاظ ہیں؟ تو بالقلانی اور طبری نے صاف انکار کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی عجمی لفظ ہے بھی تو بھی وہ حقیقت میں عربی ہی ہے۔

## تفسیر سورہ فاتحہ

اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو۔ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے اس لئے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ نمازوں میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام اُمُ الْکِتَاب بھی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں۔ حسن اور ابن سیرین اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے۔ حسن کا قول ہے کہ حکم آتوں کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ“ پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سیع مثنی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورت الحمد اور سورۃ الصلوٰۃ بھی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے صلوٰۃ (یعنی سورۃ فاتحہ) کو اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی پوری حدیث تک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام صلوٰۃ بھی ہے، اس لئے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ داری میں حضرت ابوسعید سے مرفع عاروایت ہے کہ سورت فاتحہ ہر کی شفایہ اور اس کا نام سورۃ الرقیب ہے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سائب کے کائے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا تب حضور ﷺ نے ان سے فرمایا ”تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیب ہے یعنی پڑھ کر پھونکنے کی سورت ہے؟“ ابن عباسؓ اسے اساس القرآن کہتے تھے یعنی قرآن کی جزا یا بنیاد اور اس سورت کی بنیاد آیت ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ ہے۔ سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں۔ اس کا نام واقیہ ہے۔ بنیج بن کثیر کہتے ہیں اس کا نام کافی بھی ہے اس لئے کہ یہ اپنے علاوہ سب کی کفائیت کرتی ہے اور دوسرا سورت اس سورت کی کفائیت نہیں کرتی۔ بعض مرسل حدیثوں میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے غیر کامگراں کا غیر اس کا بدل نہیں۔ اسے سورۃ الصلوٰۃ اور سورۃ الکنز بھی کہا گیا ہے زمخشری کی تفسیر کشاف دیکھئے۔ ابن عباسؓ تقادہ ابوالعالیٰہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت کی ہے، حضرت ابوہریرہ جابید عطا بن یسار اور زہری فرماتے ہیں یہ سورت مدینی ہے اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ کہ میں اور دوبارہ مدینہ میں لیکن پہلا قول ہی زیادہ ٹھیک ہے اس لئے کہ دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ أَتَيْنَاهُ سَيْعًا مِنَ الْمَثَانِیَ یعنی ہم نے تمہیں سیع مثنی سات آیتیں دی ہیں۔ وَاللّٰهُ أَعْلَم۔ ابواللیث سرقندی کا ایک قول قرطبی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکہ شریف میں نازل ہوا اور آخری نصف حصہ مدینہ شریف میں نازل ہوا لیکن یہ قول بالکل غریب ہے۔ ان آتوں کی نسبت اتفاق ہے کہ سات ہیں لیکن عمرو بن عبید نے آٹھا اور حسینؑ نے چھ بھی کہا ہے اور یہ دونوں قول شاذ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اور مختلف اقوال اور سورۃ فاتحہ ☆☆☆ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ یہ سورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ تمام کوئی قاری اور صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک جماعت اور پچھلے بہت سے بزرگ تو اسے سورۃ فاتحہ کے اول کی ایک پوری اور مستقل آیت کہتے ہیں، بعض اسے اس کا جزو مانتے ہیں اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہیں۔ جیسے کہ مدینے شریف کے قاریوں اور فقیہوں کے یہ تینوں قول ہیں۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔ اس سورت کے کلمات پچیس ہیں اور حروف ایک سو تیرہ ہیں۔ امام بخاری کتاب التفسیر کے شروع میں صحیح بخاری میں لکھتے ہیں ”ام الکتاب اس سورت کا نام اس لئے ہے کہ قرآن شریف کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے اور نماز کی قراءت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔“ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن شریف کے مضامین اجتماعی طور سے اس میں ہیں اس لئے اس نام ام الکتاب ہے۔ عرب کی عادت ہے کہ ہر ایک جامع کام اور کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اسی

کے تالیع ہوں ام کہتے ہیں۔ دیکھئے ام الراس اس جلد کہتے ہیں جو دماغ کی جامع ہے اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں ام کہتے ہیں۔ شاعروں میں بھی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ مکہ شریف کوام القری کہنے کی بھی بیکی ہے کہ یہ سب سے پہلے اور سب کا جامع ہے زمین و ہیں سے پھیلائی گئی ہے چونکہ اس سے نماز کی قراءت شروع ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو لکھتے وقت بھی صحابہ نے اسی کو پہلے لکھا اس لئے اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام سعی مثنی بھی ہے اس لئے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے اور مثنی کے معنی اور بھی ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بیان ہوں گے واللہ اعلم۔ مند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ ام القرآن کے بارے میں فرمایا، یہ ام القرآن ہے۔ یہی سعی مثنی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ ایک اور حدیث میں یہی ام القرآن ہے۔ یہی فاتحہ الکتاب ہے اور یہی سعی مثنی ہے۔ تفسیر مردویہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا الحمد لله رب العلمین کی سات آیتیں ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم بھی ان میں سے ایک آیت ہے اسی کا نام سعی مثنی ہے۔ یہی قرآن عظیم ہے۔ یہی ام الکتاب ہے۔ یہی فاتحہ الکتاب ہے دارقطنی میں بھی اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے اور بقول امام دارقطنی اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ یہیں میں ہے کہ حضرت علیؓ "حضرت ابن عباس" حضرت ابو ہریرہؓ نے سعی مثنی کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور بسم اللہ اس کی ساتویں آیت ہے۔ بسم اللہ کی بحث میں یہ بیان پورا آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابن مسعود سے کہا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے لکھے ہوئے قرآن شریف کے شروع میں کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا اگر میں ایسا کرتا تو پھر ہر سورت کے پہلے اس کو لکھتا۔ ابو بکر بن ابو داؤد فرماتے ہیں، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پڑھے جانے کی حیثیت سے اور چونکہ تمام مسلمانوں کو حفظ ہے اس لئے لکھنے کی چند اس ضرورت نہیں۔ ولائل العبودۃ میں امام یہیں نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی باقلانی نے نقل کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ "یَا أَيُّهَا الْمُدَّبِرُ" سب سے پہلے نازل ہوئی جیسا کہ صحیح حدیث حضرت جابر سے مروی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے "إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" نازل ہوئی اور یہی صحیح ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ان شاء اللہ۔

سورہ فاتحہ کی فضیلت: ☆☆ مسند احمد میں حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلا بیا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا حضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نہیں سن؟ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلَّهِ سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ" اے ایمان والو! اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں، تم جواب دو اچھا سنو! میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کوئی ہے؟ پھر میرا تھوڑے پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا سورت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ یہی سعی مثنی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری شریف، ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔

واقعی نے یہ واقعہ حضرت ابی بن کعب کا بیان کیا ہے۔ موطا مالک میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب کو آواز دی وہ نماز میں مشغول تھے فارغ ہو کر آپ سے ملے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، اس وقت مسجد سے باہر نکل یہی رہے تھے کہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے ایسی سورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے مثل نہیں۔ اب میں نے

اپنی چال سست کر دی اور پوچھا، حضور وہ سورت کون ہی ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمد لله رب العالمین پوری سورت تک۔ آپ نے فرمایا میں وہ سورت ہے، سمع مثانی اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے آخری راوی ابوسعید ہیں۔ اس بنا پر ان اشیاء اور ان کے ساتھ والے یہاں دھوکا کھانے ہیں اور وہ انہیں ابوسعید بن معلی سمجھ بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ابوسعید خواجہ ہیں اور تابعین میں سے ہیں اور وہ ابوسعید انصاری صحابی ہیں۔ ان کی حدیث متصل اور صحیح ہے اور یہ حدیث بظاہر منقطع معلوم ہوتی ہے۔ اگر ابوسعید تابعی کا حضرت ابی سے سننا ثابت ہے ہو اور اگر سننا ثابت ہو تو یہ حدیث شرط مسلم پر ہے۔ واللہ اعلم۔

اس حدیث کے اور بھی بہت سے انداز بیان ہیں۔ ”مثلاً مسند احمد میں ہے کہ حضور نے جب انہیں پکارا تو یہ نماز میں تھے اتفاقات کیا مگر جواب نہ دیا، آپ نے پھر پکارا، حضرت ابی نے نماز مختصر کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے حاضر خدمت ہوئے السلام علیکم عرض کیا۔ آپ نے جواب دے کر فرمایا ابی تم نے مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا حضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا کیا تم نے پڑھ آیت نہیں سنی؟ کہا حضور غلطی ہوئی اب ایسا نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں کہ توارات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نہ ہو۔ میں نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتاؤں گا، پھر حضور میرا ہاتھ تھامے ہوئے اور باتیں کرتے رہے اور میں نے اپنی چال دھیکی کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے اور آپ بابر چلے جائیں۔ آخ جب دروازے کے قریب پہنچ گئے تو میں نے آپ کو وہ وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن پڑھ کر سنائی آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو رات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت نہیں یہ سمع مثانی ہے۔ ترمذی میں مزید یہ بھی ہے کہ بھی وہ بڑا قرآن ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انسؓ سے بھی اس باب میں ایک حدیث مردی ہے مسند احمد کی ایک مطول حدیث میں بھی اسی طرح مردی ہے۔ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

مسند احمد میں حضرت عبد اللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتب رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ اس وقت استنبج سے فارغ ہوئے ہی تھے میں نے تم مرتبتہ سلام کیا لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور میں غم و رنج کی حالت میں مسجد میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد طہارت کر کے تشریف لائے اور تم مرتبتہ ہی میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا ”اے جابر بن عبد اللہ سنوا تمام قرآن میں بہترین سورت ”الحمد لله رب العالمین“ آخڑتک ہے۔“ اس اسناد بہت عمدہ ہے۔ این عقیل جواس کار اوی ہے، اس کی حدیث بڑے بڑے آئندہ روایت کرتے ہیں اور عبد اللہ بن جابر سے مراد ”عبدی صحابی“ ہیں، این الجزوی کا بھی یہی قول ہے۔ واللہ اعلم۔ حافظ ابن عساکر کا قول ہے کہ یہ عبد اللہ بن جابر انصاری و بیاضی ہیں یہ حدیث اور اس جیکی اور احادیث سے استدلال کر کے اسحاق بن راہو یہ ابو بکر بن عربی این الحصار وغیرہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ بعض آیتیں اور بعض سورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہی ایک دوسری جماعت کا بھی خیال ہے کہ کلام اللہ کا کل فضیلت میں ایک سا ہے۔ ایک کو ایک پر فضیلت دینے سے یہ قباحت ہوتی ہے کہ دوسری آیتیں اور سورتیں اس سے کم درجہ کی نظر آئیں گی حالانکہ کلام اللہ سارے کا سارا فضیلت والا ہے۔ قرطبی نے اشعری اور ابو بکر باقلانی اور ابو حاتم این جوان یعنی اور ابو جان اور یحییٰ سے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک سے بھی یہی روایت ہے۔ یہ مذہب منقول ہے (لیکن صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم)

سورہ فاتحہ کے فضائل کی مندرجہ بالا حدیثوں کے علاوہ اور حدیثوں کے علاوہ ابوسعید بن محبی ہیں۔ صحیح بخاری شریف فضائل القرآن میں حضرت ابوسعید

حدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ اترے ہوئے تھے۔ ناگہاں ایک لوٹی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سردار کو سانپ نے کاٹ کھایا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کر دیا خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا تھا میں بکریاں اس نے دیں اور ہماری مہمانی کے لئے دودھ بھی جب وہ اپس آئے تو ہم نے پوچھا، کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا، اس آئے ہوئے مال کو بھی نجھیڑو پہلے رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ پوچھ لوا۔ مدینہ میں آ کر ہم نے حضور سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی سوت ہے؟ فرمایا، اس مال کے حصے کرو میرا بھی ایک حصہ لگانا۔ صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔

مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زور دار دھماکے کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے دنوور آپ کو ایسے دیئے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرفاً پر فور ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو؟ فرمایا پھر بھی چیکے پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنائے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمد نی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ فرماتا ہے مجدد نی عبدی یعنی میرے بندے نے میری ثابتیاں کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ملیک یوْمَ الدِّيْنِ اللّٰهِ تعالیٰ فرماتا ہے، فوض الی عبدی یعنی میرے بندے نے خود کو میرے پس کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایا کُنْ نَعْبُدُ وَ ایا کُنْ نَسْتَعْنُ اللّٰهِ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا، میں دوں گا۔ پھر بندہ وَ لَا الصَّابِرُونَ تک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لئے ہے اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لئے ہے۔ نسائی میں یہ روایت ہے۔ بعض روایات کے الفاظ میں کچھ تبدیلی بھی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابو زرع نے اسے صحیح کہا ہے۔ مند احمد میں بھی یہ حدیث مطول موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن جریر کی ایک روایت میں حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لئے ہے اور جوابی ہے وہ میرے بندے کے لئے ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

اب اس حدیث کے فائدوں پر نظر ڈالئے۔ اول اس حدیث میں لفظ صلوٰۃ یعنی نماز کا اطلاق ہے اور مراد اس سے قراءۃ ہے جیسے کہ قرآن میں اور جگہ پر ہے وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ لَخُ، یعنی اپنی نماز (یعنی قراءۃ) کو نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھونہ بہت پست آواز سے بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کرو۔ ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں صراحت سے مروی ہے کہ یہاں صلوٰۃ سے مراد قراءۃ ہے اور اسی طرح مندرج بالا حدیث میں بھی قراءۃ کو صلوٰۃ کہا ہے۔ اس سے نماز میں قراءۃ کی جو عظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ قراءۃ نماز کا اعلیٰ

رکن ہے اس لئے کہ عبادت کا مطلق نام لیا گیا اور اس کے ایک جزو یعنی قراۃ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قراۃ کا اطلاق کیا گیا اور مراد نمازی گئی۔ فرمان ہے وَقُرْآنُ الْفَصْحَرِ إِلَّا يُعْنِي صَحْرَ كَمَا فُصْحِرَتْ حِجْرَةُ قُرْآنٍ فَإِنَّمَا نَذَرَهُ مَنَازِلَ مُحَمَّدٍ کے وقت رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان آیات و احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قراۃ کا پڑھنا ضروری ہے اور علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے۔

دوم اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یعنی ضروری ہے؟ یا قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے وہی کافی ہے۔ امام ابوحنینؓ اور ان کے ساتھی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اسی کا پڑھنا متعین نہیں۔ بلکہ قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے گا کافی ہو گا۔ ان کی دلیل آیت فَأَقْرَءْتُكُمْ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا تَعِينَنِي کے لیے قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھ لو اور صحیحین کی حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک شخص کو جو نماز جلدی پڑھ رہا تھا، فرمایا جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ۔ پھر جو قرآن میں سے تجھے آسان نظر آئے پڑھو کہتے ہیں کہ حضور کا اس شخص کو یہ فرمانا اور سورہ فاتحہ کا تعین نہ کرتا تھا ہے، جو کچھ قرآن پڑھ لے کافی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ضروری ہے اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہ ہو گی۔ ان کے علاوہ اور سب آخر کرام کا بھی قول ہے امام مالک امام شافعیؓ امام احمد ابن حنبلؓ اور ان کے سب کے سب شاگرد وغیرہ اور جمہور علماء کرام کا بھی فرمان ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ ان پر درود رحمت سمجھیے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے خواہ کوئی نماز ہوا اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے پوری نہیں۔ اسی طرح ان بزرگوں کی یہ دلیل بھی ہے جو صحیحین میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیس اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا۔ وہ نماز نہیں ہوتی جس میں ام القرآن نہ پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ یہاں پر مناظر ان پہلو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بہت بھی بخشن ہیں۔ ہم نے تو محقر ازان بزرگوں کی دلیلیں بیان کر دیں (صحیح اور مطابق حدیث دوسرا قول ہی ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم)

اب یہ بھی سن لیجئے کہ امام شافعی وغیرہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا تو یہ مذهب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اکثر رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ حسن اور اکثر بصیرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں سے کسی ایک رکعت میں اس کا پڑھ لیتا واجب ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں نماز کا ذکر مطلق ہے۔ ابوحنینؓ ان کے ساتھی ثوری اور اوزاعی کہتے ہیں اس کا پڑھنا متعین ہی نہیں بلکہ اور کچھ بھی پڑھ لے تو کافی ہے کیونکہ قرآن میں مَا تَيِّسَرَ (سورہ مزمل: ۲۰) کا لفظ ہے۔ واللہ اعلم لیکن یہ خیال رہے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض وغیرہ نماز کی ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں نظر ہے اور ان سب باتوں کی تفصیل کا موقعہ احکام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ واللہ اعلم (صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم) سوم مقتدى پر سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے مسئلہ میں علماء کے تین قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس طرح امام پر واجب ہے اسی طرح مقتدى پر بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل وہ عام حدیثیں ہیں جو ابھی ابھی دوسرے فائدے کے بیان میں گذر چکیں۔ دوسرا یہ کہ سرے سے مقتدى کے ذمہ قراۃ واجب ہی نہیں نہ یہ سورت نہ کچھ اور نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں۔ ان کی دلیل مند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ جس کا امام ہو تو امام کی القراءات اس کی القراءات ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور پہ خود حضرت جابر کے قول سے مردی ہے۔ گواں مرفوع حدیث کی اور سندیں بھی ہیں لیکن کوئی سند صحیح نہیں (واللہ اعلم)

تیرا قول یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام آئنگل سے قراءہ پڑھے، ان میں تو مقتدى پر قراءۃ واجب ہے لیکن جن نمازوں میں اوپھی قراءۃ پڑھی جاتی ہے ان میں واجب نہیں۔ ان کی دلیل صحیح مسلم والی حدیث ہے جس میں ہے کہ امام اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس کی تکمیل کرنے کے لئے اس کی حدیث ہے۔ امام مسلم نے اس کی صحیحیت کی ہے۔ امام شافعی کا پہلا قول بھی یہی ہے اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے۔ (صحیح اور مطابق حدیث اول قول ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مقتدیوں کو فرمایا کہ تم سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو۔ اس کے پڑھنے بغیر نمازوں ہوتی۔ مترجم) ہماری غرض ان مسائل کو یہاں پر بیان کرنے سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قدر تعلق ہے کسی اور سورت کے ساتھ نہیں۔ مندرجہ ذیل میں حدیث ہے۔ حضور قریب میں ہے جب تم بستر پر لیٹھو اور سورہ قلن حوالہ اللہ پر ہو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں آ جاؤ گے۔

اعوذ باللہ کی تفسیر اور اس کے احکام: ☆☆ قرآن پاک میں ہے **خُذِ الْعَفْوَ أَعْلَمْ** یعنی درگذر کرنے کی عادت رکھو۔ بھلانی کا حکم کیا کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی دوسرا آجائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جانے والے کے ذریعہ پناہ طلب کر لیا کرو۔ اور جگہ فرمایا اذْفَعْ بِالْتَّقْوَى إِلَّا بِرَبِّي سے ٹال دو۔ ہم ان کے بیانات کو خوب جانتے ہیں۔ کہا کرو کہ اللہ شیطان کے دوسروں کے ساتھ درفع کر دتم میں اور جس دوسرے شخص میں عداوت ہو گئی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست یہ کام صبر کرنے والوں اور نصیب والوں کا ہے جب شیطانی دوسرا آجائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جانے والے کے ذریعہ پناہ چاہتے ہیں اور اس معنی کی کوئی اور آیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آجتوں میں حکم فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے اس کی دشمنی کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک و احسان کروتا کہ اس کی انصاف پسند طبیعت خودا سے شرمندہ کرے اور وہ تمہاری دشمنی سے نہ صرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ اور شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے اس نے اپنے ذریعہ پناہ لئی سکھائی۔ کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک اور احسان سے بھی قبضہ میں نہیں آتا۔ اسے تو انسان کی تباہی اور بر بادی میں ہی مزہ آتا ہے اور اس کی پرانی عداوت بادا آدم کے وقت سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے بنی آدم دیکھو کہیں شیطان جنمیں بھی بہکاندے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اور جگہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو گئی اپنی جماعت کو اس لئے بلا تا ہے کہ وہ جنمی ہو جائیں اور جگہ فرمایا، کیا تم اس شیطان سے اور اس کی ذریيات سے دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے یاد رکھو ظالموں کے لئے بر ابدل ہے۔ یہی ہے جس نے قسم کما کر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہو گا؟ ہمارے لئے تو وہ حلف انھا کر آیا ہے کہ اللہ جلالہ کی عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں سے جو مغلص بندے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ** جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذریعہ پناہ طلب کر لیا کرو۔ شیطان راند ہے ہوئے سے ایمان دار توکل والوں پر اس کا کوئی زور نہیں۔ اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھیں اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کریں۔ قاریوں کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اعود پڑھنی چاہئے اس میں دو فائدے ہیں ایک تو قرآن کے طرز بیان پر عمل دوسرے عبادت کے بعد کے غرور کا توڑ۔ ابو حاتم جہنمی نے اور ابن فلوفا نے حمزہ کا بھی نہب نقل کیا ہے۔ جیسے کہ ابو القاسم یوسف بن علی بن جنادہ نے اپنی کتاب العبادۃ کا مل میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہی مردی ہے لیکن مندرجہ ذیل کے امور میں اپنی تفسیر میں اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابراہیم ختمی داؤ دنیا اور ظاہری کا بھی یہی قول ہے۔ قرطبی نے امام مالک کا مذہب بھی بھی

بیان کیا ہے لیکن ابن العربی اسے غریب کہتے ہیں۔ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ اول و آخر دونوں مرتبہ اعوذ پڑھنے تاکہ دونوں دلیلیں جمع ہو جائیں اور جمہور علماء کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہئے تاکہ وسو سے دور ہو جائیں تو ان بزرگوں کے نزدیک آیت کے معنے ”جب پڑھے“ تاکہ ”جب پڑھنا چاہے تو“ ہو جائیں گے جیسے کہ آیت ادا قُمْتُمْ اَنْ يَعْنِي جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو دفعہ کر لیا کرو) کے معنی جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو کے ہیں۔ حدیثوں کی رو سے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔

مند احمد کی حدیث میں ہے جب رسول اللہ ﷺ رات کو نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ پھر سبحانک اللهم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک ولا الله غيرك پڑھ کر تین مرتبہ لا الله الا الله پڑھتے۔ پھر فرماتے اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه۔ سنن اربعہ میں بھی یہ حدیث ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں، اس باب میں سب سے زیادہ مشہور بھی ہے۔ ہمز کے معنی گلا گھوٹنے کے اور نفخ کے معنی تکبر اور نفثہ کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں بھی معنی بیان کئے گئے ہیں اور اس میں ہے کہ حضور ﷺ نماز میں داخل ہوتے ہی تین مرتبہ اللہ اکبر کبیرا تین مرتبہ الحمد لله کثیرا اور تین مرتبہ سبحان اللہ بکر و اصیالا پڑھتے پھر یہ پڑھتے اللهم انی اعوذ بک من الشيطان من همزہ و نفخہ و نفثہ ابن ماجہ میں اور مند کے ساتھ یہ روایت مختصر بھی آئی ہے۔ مند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ پہلے تین مرتبہ تکبیر کہتے۔ پھر تین مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتے پھر اعوذ بالله آخر تک پڑھتے۔ مند ابو عطیلی میں ہے کہ حضور کے سامنے دفعہ نہ جھٹکنے لگے۔ غصہ کے مارے ایک کے نتھنے پھول گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم کہہ لے تو اس کا غصہ بھی جاتا رہے۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ مند احمد ابو داؤد ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس کی ایک روایت میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ حضرت معاذؓ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا یکین اس نے نہ پڑھا اور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ امام ترمذیؓ فرماتے ہیں۔ یہ زیادتی والی روایت مرسلا ہے اس لئے کہ عبد الرحمن بن ابو لیثؓ حضرت معاذؓ سے اسے روایت کرتے ہیں، ان کا حضرت معاذؓ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں بلکہ معاذ ان سے میں برس پہلے فوت ہو چکے تھے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عبد الرحمن نے حضرت ایں ابن کعبؓ سے سنا ہو۔ وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور اسے حضرت معاذؓ تک پہنچایا ہو کیونکہ اس واقعہ کے وقت تو بہت سے صحابہ موجود تھے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مردوی ہے۔ استغاثہ کے متعلق اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں یہاں سب کو جمع کرنے سے طول ہو گا۔ ان کے بیان کے لئے اذکار و وظائف، فضائل و اعمال کے بیان کی کتابیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر حضور کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا کہا۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے پہل جب حضرت جبریل علیہ السلام محمد ﷺ پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھنے۔ آپ نے فرمایا استعیذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم پھر جبریل علیہ السلام نے کہا۔ کہنے بسم اللہ الرحمن الرحيم پھر کہا اقراً باسم ربکَ الذی خلقَ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے سورت جواہد تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمائی، یہی ہے۔ لیکن یہ اثر غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ معلوم رہے۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: ☆ جمہور علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں کہ اس کے نہ پڑھنے سے گناہ ہو۔ عطا بن ابو رباح کا قول ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھنے سے استغاثہ کا پڑھنا واجب ہے۔ خواہ نماز میں ہو خواہ غیر نماز میں امام رازی نے یہ قول نقل کیا ہے۔ این سیرین فراتے

ہیں کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت عطاء کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں کیونکہ اس میں فاسعدؑ امر ہے اور عربیت کے قواعد کے لفاظ سے امر و جوب کے لئے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضورؐ کا اس پرمیکی کرنا بھی وجوب کی دلیل ہے اور اس سے شیطان کا شردوہ ہوتا ہے اور اس کا دور کرنا واجب ہے اور جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے اور استعاذه زیادہ اختیاط والا ہے۔ وجوب کا طریقہ یہ بھی ہے بعض علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا حضورؐ پر واجب تھا، آپؐ کی امت پر واجب نہیں۔ امام مالکؓ سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہفرض نماز میں اعوذ نہ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے۔

**مسئلہ:** ☆☆ امام شافعیؓ ("اما") میں لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھے اور اگر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں اور "ام" میں لکھتے ہیں کہ بلند اور آہستہ پڑھنے میں اختیار ہے اس لئے کہ حضرت ابن عمرؓ سے پوشیدہ پڑھنا اور حضرت ابو ہریرہؓ سے اوپری آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعیؓ کے دوقول ہیں۔ ایک مستحب ہونے کا اور دوسرا مستحب نہ ہونے کا اور تریجیح دوسرے قول کوہی ہے۔ واللہ اعلم۔ صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کہہ لینا امام شافعیؓ اور امام ابو حنیفؓ کے نزدیک تو کافی ہے لیکن بعض کہتے ہیں اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم ان الله هو السميع العليم پڑھے۔ ثوری اور اوزاعی کا بھی مذہب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ بالله من الشیطان الرجیم پڑھتے تاکہ آیت کے پورے الفاظ پر عمل ہو جائے اور ابن عباسؓ کی حدیث پر عمل ہو جائے جو پہلے گزر چکی۔ لیکن جو صحیح حدیث میں پہلے گزر چکیں وہی ابیاع میں اولی ہیں۔ واللہ اعلم۔ نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابو حنیفؓ اور محمدؐ کے نزدیک تو تلاوت کے لئے ہے اور ابو یوسفؓ کے نزدیک نماز کے لئے ہے۔ تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہئے اگرچہ وہ قرأت نہیں پڑھے گا اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہئے۔ جمہور کا مذہب ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امد اطلب کرنی ہے اور اس کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ احسان اور سلوک سے اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے جیسے کہ قرآن پاک کی ان تین آیتوں میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور جگہ ارشادِ الہی ہے ان عبادی لیس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ لَّغُنَّیٌ مِّيرَ خاص بندوں پر تیر کوئی غلبہ نہیں۔ رب کی وکالت (ذمہ داری) کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلہ میں اپنے پاک فرشتے بیجے اور انہیں نیچا دکھایا۔ یہ یاد رکھنے کے قبل امر ہے کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ راندہ درگاہ ہے۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک و بر باد ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، اس لئے قرآنی تعلیم ہوئی کہ تم اس کے شر سے اس کی یاد کے ذریعہ پناہ چاہو جو اسے دیکھتا ہے اور یہاں سے نہیں دیکھ سکتا۔ **فصل:** ☆☆ آعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التقدیر کرتا ہے اور ہر برائی والی کی برائی سے اس کے دامن میں پناہ طلب کرتا ہے "عیاذہ" کے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں اور "لیاذه" کے معنی بجلائی حاصل کرنے کے ہیں متنبی کا شعر ہے۔

یا من الود به فی ما او ملہ و من اعوذ به مما احاذره

لا یجبر الناس عظمما انت کاسره و لا یهینون عظمما انت جابرہ

اے وہ پاک ذات جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں اور اے وہ پروردگار قائم برائیوں سے میں اس کی مدد کے ذریعہ پناہ لیتا ہوں جسے وہ توڑے اسے کوئی جو زہین سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے کوئی توڑنیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ

پناہ لیتا ہوں کہ شیطان رجیم مجھے دین و دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ جن احکام کی بجا آ دری کا مجھے حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں اور جن کاموں سے مجھ کو منع کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ بد افعال سرزد ہو جائیں۔

یہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اسی لئے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو ترکیب سلوک و احسان وغیرہ بتلائی اور شیطان کے شر سے بچنے کی صورت یہ بتلائی کہ ہم اس ذات پاک کے ذریعہ پناہ طلب کریں۔ اس لئے کہ نہ تو اسے رشوت دی جاسکے نہ وہ بھلائی اور سلوک کے سبب اپنی شرارت سے باز آئے۔ اس کی برائی سے بچانے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تینوں پہلی آیتوں میں یہ مضمون گذر چکا ہے۔ ”سورہ اعراف“ میں ہے خُذِ الْعَفْوَ أَخْ و سورہ ”مومنون“ میں ہے إذْ فَعْ بِالْتَّقْيَا الخ اور سورہ حم سجدہ میں ہے وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ إِلَّا مَا تَنْهَى آیتوں کا مفصل بیان اور ترجیح پہلے گذر چکا ہے۔ لفظ شیطان خطاں سے بنا ہے۔ اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں چونکہ یہ مردوں میں انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے اس لئے اسے شیطان کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطے مشتقت ہے اس لئے کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے اور شاطے کے معنی بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی کی رو سے تو دونوں ٹھیک ہیں لیکن اول زیادہ صحیح ہے۔ عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں کہنے گئے ہیں۔ امیہ بن ابوصلت اور نابغہ کے شعروں میں بھی یہ لفظ خطاں سے مشتق ہے جو دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبوبیہ کا قول ہے کہ جب کوئی شیطان کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشبیط فلان یہیں کہتے کہ تشبیط فلان اس سے ثابت ہوتا ہے یہ لفظ شاطے سے نہیں بلکہ خطاں سے ماخوذ ہے اور اس کے صحیح معنی بھی دوری کے ہیں، جو جن و انس و حیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہدیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَذُونَا شَيَّطِينَ الْأَنْسِ وَالْجِنِّ اَلْيَعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جن و انس کے ہیں جو آپ میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بادوی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ حضور نے انہیں فرمایا، اے ابوذر! جنات اور انسان کے شیطاناں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا کیا انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم شریف میں ان ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا تو زردیتا ہے۔ میں نے کہا حضور سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ ناز و خرام سے چلتا ہے حضرت عمر اسے مارتے پیٹنے بھی ہیں لیکن اس کا اکڑنا اور بھی بڑھ جاتا ہے آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تو میری سواری کے لئے کسی شیطان کو کپڑا لائے میرے نفس میں تکبر آنے لگا، چنانچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ رجیم فعلیں کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے یعنی وہ محروم ہے یعنی ہر بھلائی سے دور ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اَلْحَمْ نے دنیا کے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطاناں کے لئے رجم بنایا انا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اَلْيَعنی ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر کرش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لئے اور لازمی عذاب ان کے لئے ہے جو ان میں سے کوئی بات اچک کر جھاگتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک چکیلا شعلہ لگ جاتا ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اَلْيَعنی ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لئے زینت دی اور اسے ہر رانے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر لیا مگر جو کسی بات کو چالے جائے اس کے پیچھے چکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور آیتیں بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنے راجم کے بھی کئے گئے ہیں۔ چونکہ شیطان لوگوں کو دوسروں سے اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے اس لئے اسے رجیم یعنی راجم کہتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحيم کی تفسیر سنئے۔

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے ۰

کیا بسم اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے؟ ☆☆ صحابہؓ نے اللہ کی کتاب کو اسی سے شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ (بسم اللہ الرحمن الرحيم) سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں خود مستقل آیت ہے؟ یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے؟ ہر سورت کی آیت کا جزو ہے یا صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں؟ صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لئے لکھی گئی ہے؟ اور خود آیت نہیں ہے؟ علماء سلف اور متاخرین کا ان آراء میں اختلاف چلا آتا ہے۔ ان کی تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہے۔

سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک آپ پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث متدرک حاکم میں بھی ہے۔ ایک مرسل حدیث میں یہ روایت حضرت سعید بن جبیر سے بھی مردوی ہے چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے شروع میں نماز میں پڑھا اور اسے ایک آیت شمار کیا لیکن اس کے ایک راوی عمر بن ہارون بلجی ضعیف ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مردوی ہے۔ حضرت علیؓ، حضرت ابن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم حضرت عطاؓ، حضرت طاؤس، حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت مکحول اور حضرت زہری رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ برات کے۔ ان صحابہ اور تابعین کے علاوہ حضرت عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور الحنفی بن راہو یہ اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے البتہ امام مالکؓ امام ابو حنفیہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰهِ شَتُّوْ سورة فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن کسی اور سورہ کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر سورت کے اول کی آیت عبا حصہ ہے لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے۔ سورت میں داخل نہیں۔ امام احمد بن حنبلؓ سے بھی یہی روایت ہے۔ ابو بکر رازیؓ نے ابو حسن کرخیؓ کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے جو امام ابو حنفیہؓ کے بڑے پایہ کے ساتھی تھے۔ یہ تو تھی بحث بِسْمِ اللّٰهِ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے یا نہ ہونے کی۔ (صحیح مذہب بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں یہ آیت شریفہ ہے وہاں مستقل آیت ہے۔ واللہ اعلم (متجم)

بِسْمِ اللّٰهِ بَا آواز بلند یاد بی آواز سے؟ ☆☆ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا سے با آواز بلند پڑھنا چاہئے یا پست آواز سے؟ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ بھی اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہنے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے اول سے ہے۔ ان میں اختلاف ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اسے اوپر جو آواز سے پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہؓ مسلمانوں کے الگے اور مچھلے اماموں کی جماعتوں کا یہی مذہب ہے۔ صحابہؓ میں سے اسے اوپر جو آواز سے پڑھنے والے حضرت ابن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں پہلی این عبدالبرّؓ نے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے بھی روایت کیا اور امام خطیب

بغدادیؒ نے چاروں خلیفوں سے بھی روایت کیا لیکن بعد غریب بیان کیا ہے۔

تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت عکرمؓ، حضرت ابو قلابةؓ، حضرت زہریؓ، حضرت علی بن حسنؓ ان کے لئے محمد، سعید، بن مسیب، عطا طاؤس، مجابہ سالم، محمد بن کعب قرقی، عبید، ابو بکر بن محمد، بن عمر و بن حزم، ابو والل، ابن سیرین کے مولیٰ زید، بن اسلم، عمر بن عبد العزیز، ارزق، بن قیس، حبیب، بن ابی ثابت، ابو عثمان، کھول، عبد اللہ بن معلق، بن مقرن اور روایت بہلی، عبد اللہ بن صفوان، محمد بن حفیہ اور روایت ابن، عبدالبر، عمر و بن دینار رحمہم اللہ سب کے سب ان نمازوں میں جن میں قرات اوپنجی آواز سے پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرَّحْمَن الرَّحِيم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اوپنجی آواز سے ہی پڑھنی چاہئے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، متدرک حاکم میں مردی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرات میں اوپنجی آواز سے بسم اللہ الرَّحْمَن الرَّحِيم بھی پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز میں مشاہد ہوں۔ اس حدیث کو دارقطنی، خطیب اور یقینی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کو بسم اللہ الرَّحْمَن الرَّحِيم سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں۔ متدرک حاکم میں انہی سے روایت ہے کہ حضور بسم اللہ الرَّحْمَن الرَّحِيم کو اوپنجی آواز سے پڑھتے تھے۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا انداز قرات: ☆☆ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی قرات کس طرح تھی۔ فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ لما کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرَّحْمَن الرَّحِيم پڑھ کرستا۔ بسم اللہ پر مد کیا۔ الرحمن پر مد کیا۔ الرحمن پر مد کیا۔ مند احمد، سن ابو داؤد صحیح ابن خزیمہ اور متدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر ہر آیت پر رکتے تھے اور آپ کی قرات الگ الگ ہوتی تھی جیسے بسم اللہ الرَّحْمَن الرَّحِيم پھر پھر کر الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر پھر کر الرحمن الرَّحْمَن الرَّحِيم پھر پھر کر ملیک یوم الدین و اقطنی اسے صحیح بتاتے ہیں۔ امام شافعیؓ امام حاکم نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ پڑھی تو جو ہمارا جو اصحابؓ وہاں موجود تھے انہوں نے تو کا۔ چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ غالباً اتنی ہی احادیث و آثار اس مذہب کی جدت کے لئے کافی ہیں۔ باقی رہے اس کے خلاف آثار روایات اُن کی سندیں اُن کی تعلیل اُن کا ضعف اور ان کی تقاریر وغیرہ ان کا دوسرا مقام پر ڈکراور ہے۔

دوسرانہ مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ کو زور سے نہ پڑھنا چاہئے۔ خلفاء اور بعد از رسول اللہ بن معلق، تابعین اور بعدہ الہوں کی جماعتوں سے ہی ثابت ہے۔ ابو حنفیہ، ثوریؓ، احمد بن حنبل، مکہ بھی یہی مذہب ہے۔ امام مالک کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں نہ تو آہستہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تصحیح مسلم و ای تحریت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کو بکیر سے اور قرات کو الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے ہی شروع کیا کرتے تھے۔ صحیحین میں ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں نے بنی علیؓ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے پیچھے نماز پڑھی یہ سب الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے شروع کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے نہ قرات کے شروع میں نہ اس قرات کے آخر میں۔ سنن میں حضرت معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مردی ہے۔ یہ ہے دلیل ان ائمہ کے بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ ہر ایک فرقہ دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے فالحمدہ

للہ (بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو نحیک نہیں۔ بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح تطہیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں گو پست پڑھنے کی احادیث قدر رے زور دار ہیں۔ واللہ عالم) (مترجم)

فصل پنجم اللہ کی فضیلت کا بیان: ☆☆ تفسیر ابن الہیم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، "یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر رزد دیکی ہے جیسے آئندہ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مردویہ میں بھی یہی روایت ہے۔ ابن مردویہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بھایا تو اس نے کہا، "لکھنے بسم اللہ" حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، "بسم اللہ کیا ہے؟" استاد نے جواب دیا، "میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا" ب "سے مراد اللہ تعالیٰ کا" بھا، "یعنی بلندی ہے اور" س "سے مراد اس کی نالیعینی نور اور روشنی ہے اور" م "م سے مراد اس کی مملکت یعنی باادشاہی ہے اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو اور رحم کہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو" رحیم "کہتے ہیں آخرت میں کرم و رحم کرنے والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے لیکن سند کی رو سے یہ بے حد غریب ہے۔ ممکن ہے کسی صحابی وغیرہ میں مردوی ہوا ورنہ بھی ممکن ہے کہ نبی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو۔ مرفوع حدیث نہ ہو۔ واللہ عالم۔

ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، "مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت" بسم اللہ الرحمن الرحیم " ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف تھپٹ گئے۔ ہوا میں ساکن ہو گئیں۔ سمندر شہر گیا۔ جانوروں نے کان لگائے۔ شیاطین پر آسان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کا کفرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا، اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی انہیں حروف ہیں۔ ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا، میں نے تمیں سے اور فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَبَيْرَا طَبَيْرَا مُبَارَكًا فِيهِ بُهْرَاتَا۔ اس میں بھی تمیں سے اور حروف ہیں۔ اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی انہیں حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔

مند احمد میں ہے آنحضرت ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور کی اونٹی ذرا بھسلی تو میں نے کہا، شیطان کا سنتیاناں ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کہ ہواں سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ کمھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے مٹاٹی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے اور صحابی کا نام امام بن عییر بتایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کہہ لیتا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہہ کہ چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتا ہوتا ہے۔

پا گانہ میں جانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ دفعو کے وقت بھی پڑھ لے۔ مند احمد اور سمن میں ابو ہریرہؓ سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے مردوی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، "جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا ضونبیں ہوتا"۔ یہ

حدیث حسن ہے۔ بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھنا واجب بتاتے ہیں۔ بعض مطلق و جوب کے قال ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا بھی خیال ہے۔ بعضوں نے یاد آنے کے وقت اور بعضوں نے مطلاقاً سے واجب کہا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقش کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ ”جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور خدا کوئی اولاد بخشنے تو اس کے اپنے اور اس کی اولاد کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی“، لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے، میں نے تو یہ کہیں معتبر کتاب میں نہیں پائی۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر بن ابو سلمہؓ سے فرمایا (جو آپ کی پرورش میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہؓ کے اگلے خادند سے تھے) کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔“ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کہنا واجب بتلاتے ہیں۔

بیوی سے ملنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَنِينَا الشَّيْطَانُ وَجَنِيبُ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْنَا لَيْنِي اے خدا“ ہیں اور جو ہمیں تودے اسے شیطان سے بچا۔“ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماع سے حمل ٹھہر جائے تو اس پر کوشی شیطان کی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی ”ب“ کا تعلق کس سے ہے۔ خوبیوں کے اس میں دوقول ہیں اور دونوں ہی تقریباً ہم خیال ہیں۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل۔ ہر ایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے جو لوگ اس کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتداء ہے۔ قرآن میں ہے ارْكُوْا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمُرْسَلَهَا لَنِّي اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا ہے اور جو لوگ فعل مقدر بتاتے ہیں چاہے وہ امر ہو یا خبر جیسے کہ ابتدأ بِسْمِ اللَّهِ اور ابتدأث بِسْمِ اللَّهِ ان کی دلیل آیت افرا با نسیم دراصل دونوں ہی تقریباً اس لئے کہ فعل کے لئے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کو مطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے۔ کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لئے امداد چاہئے کہ لئے اور قبولیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے واللہ اعلم۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جریل علیہ السلام محمد ﷺ پر وحی لے کر آئے تو فرمایا۔ محدث کہنے استَعْدَدَ بِاللَّهِ السَّمِيعَ الْعَلِيمَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر کہا، کہنے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔“

بے معنی بحث: ☆☆☆ اسم یعنی نام ہی مسکنی یعنی نام والا ہے یا کچھ اور۔ اس میں اہل علم کے تین قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسم ہی مسکنی ہے۔ ابو عییدہ کا اور سیبیویہ کا بھی یہی قول ہے۔ باقلانی اور ابن نور کی رائے بھی یہی ہے۔ ان خطیب رازی اپنی تفسیر کے مقدمات میں لکھتے ہیں۔ حشویہ اور کرامیہ اور اشعریہ تو کہتے ہیں، اس نفیں مسکنی ہے اور نفس تسمیہ کا غیر ہے اور مفتر له کہتے ہیں کہ اسم مسکنی کا غیر ہے اور نفس تسمیہ ہے ہمارے نزدیک اسم مسکنی کا بھی غیر ہے اور تسمیہ کا بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد لفظ ہے جو واژوں کے لکڑوں اور حروف کا مجموعہ ہے تو بالہدابت ثابت ہے کہ یہ مسکنی کا غیر ہے اور اگر اس سے مراد ذات مسکنی ہے تو یہ وضاحت کو ظاہر کرتا ہے جو حضن بیکار ہے۔ ثابت ہوا کہ اس بیکار بحث میں پڑنا ہی افضل ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اسم اور مسکنی کے فرق پر اپنے دلائل لائے ہیں ان کا کہنا ہے محض اسم ہوتا ہے مسکنی ہوتا ہی نہیں جیسے معدوم کا لفظ۔ کبھی ایک مسکنی کے کئی اسم ہوتے ہیں جیسے مشترک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اور جیز ہے اور جیز ہے یعنی

نام الگ ہے اور نام والا الگ ہے اور دلیل سنئے کہتے ہیں اسم تو لفظ ہے دوسرا عرض ہے۔ مسلکی بھی ممکن یا واجب ذات ہوتی ہے۔ اور سنئے اگر اسم ہی کو مسلکی مانا جائے تو چاہئے کہ آگ کا نام لیتے ہی حرارت محسوس ہو اور بر ف کا نام لیتے ہی ٹھنڈک۔ جبکہ کوئی عقل منداں کی قدیق نہیں کرتا۔ اور دلیل سنئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے بہت سے بہترین نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں تو خیال کیجئے کہ نام کس قدر بکثرت ہیں حالانکہ مسلکی ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک له ہے۔ اسی طرح اسماء کو اللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرنا، اور جگہ فرمانا فَسَيَّعَ يَاسِمُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَغَيْرِهِ يَا ضَافَتْ بِهِ اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ اس اور ہوا مسلکی اور۔ کیونکہ اضافت کا مقصد مغایرت ہے۔ اسی طرح یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَظَلَّهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ نام اور ہے اور نام والا اور۔ اب ان کے دلائل بھی سنئے جو اسمی کو ایک ہی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ دُوَالْجَلَلِ وَ الْأَكْرَامِ وَالْتَّيْرَ رے رب کا بابرکت نام ہے۔ تو نام برکتوں والا فرمایا حالانکہ خود اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس مقدس ذات کی وجہ سے اس کا نام ہی عظمتوں والا ہے۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ زینت پر طلاق ہے تو طلاق اس کی بیوی جس کا نام زینت ہے ہو جاتی ہے۔ اگر نام اور نام والا میں فرق ہوتا تو نام پر طلاق پڑتی، نام والا پر کیسے پڑ جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ اس ذات پر طلاق ہے جس کا نام زینت ہے۔ تسمیہ کا اسم سے الگ ہونا اس دلیل کی بنابر ہے کہ تسمیہ کہتے ہیں کسی کا نام مقرر کرنے کا اور ظاہر ہے یہ اور چیز ہے اور نام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول یہی ہے یہ سب کچھ لفظ "باسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ "الله" کے متعلق سنئے۔ اللہ خاص نام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ کہا جاتا ہے کہ اسم عظیم یہی ہے اس لئے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ ہی موصوف ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي يَسْمِي وَهِيَ اللَّهُ ہے جس کے سوا کوئی معبد نہیں جو ظاہر و باطن کا جانے والا ہے جو حرم کرنے والا ہمیں ہے۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بادشاہ ہے پاک ہے سلامتی والا ہے امن دینے والا ہے محفوظ ہے غلبہ والا ہے۔ زبردست ہے بڑائی والا ہے وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے وہی اللہ پیدا کرنے والا مادہ کو بہانے والا صورت بخششے والا ہے۔ اس کے لئے بہترین پاکیزہ نام ہیں۔ آسان وزمین کی تمام چیزیں اس کی شیع بیان کرتی ہیں۔ وہ عز توں اور حکمتوں والا ہے۔ ان آئتوں میں تمام نام صفاتی ہیں۔ نام اور لفظ اللہ ہی کی صفت ہیں یعنی اصلی نام اللہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ ہی کے لئے ہیں پاکیزہ اور عمدہ نام۔ اللہ نے اپنے تمام (صفاتی) نام خود تجویر فرمائے ہیں: ☆☆ پس تم اس کو ان ہی ناموں سے پکارو۔ اور فرماتا ہے اللہ کو پکارو۔ یا حسن کو پکارو؛ جس نام سے پکارو؟ اسی کے پیارے پیارے اور اپنے اچھے نام ہیں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں۔ ایک کم ایک سو جو انہیں یاد کر لے جلتی ہے تمذی اور ابن الجیج کی روایت میں ان ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے اور دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی کچھ تبدیلی کچھ کمی زیادتی بھی ہے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار نام ہیں۔ ایک ہزار تو قرآن شریف اور صحیح حدیث میں ہیں اور ایک ہزار تو رواۃ میں اور ایک ہزار انجیل میں اور ایک ہزار زبور میں اور ایک ہزار لوح محفوظ میں۔

اللہ کے متراوف المعنی کوئی نام نہیں! ☆☆ اللہ تعالیٰ وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ میکی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اختلاف کیا ہے۔ اس کا باب کیا ہے بلکہ ایک بہت بڑی تھوڑیوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اختلاف ہے نہیں۔ قرطیں نے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے جن میں حضرت امام شافعیؓ امام خطابیؓ امام

الحر میں امام غزالی بھی شامل ہیں۔ خلیل اور سیبوبیہ سے روایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔ امام خطابی نے اس کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ یا اللہ اصل کلمہ کانہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ ”یا“ داخل نہ ہو سکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا الف لام والے اسم پر داخل نہ ہو سکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا لفظ لام والے اسم میں داخل ہوتا جائز نہیں۔

بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے اور اس پر روبہ بن جماح کا ایک شعروالیں لاتے ہیں جس میں مصدر تَالَّهُ کا بیان ہے جس کا ماضی مضارع الْهَ يَالَّهُ، الْهَ اُور تَالَّهَا ہے جیسے کہ ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ وَيَدْرُكُ الْهَتَّكَ پڑھتے تھے۔ مراد اس سے عبادت ہے۔ یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مجاهد وغیرہ کہتے ہیں۔ بعض نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ یعنی وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہی ہے جو آسمان میں معبد ہے اور زمین میں معبد ہے۔ سیبوبیہ خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ تھا جیسے فعال پھر ہمزہ کے بدال الف ولام لایا گیا جیسے ”النَّاسُ“ کہ اس کی اصل ”أَنْاسٌ“ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس لفظ کی اصل الْأَلْهَ ہے الف لام حرف تقطیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ سیبوبیہ کا بھی پسندیدہ قول ہے جسے عرب شاعروں کے شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ کسانی اور فرا کہتے ہیں کہ اس کی اصل الْأَلْهَ ہے ہمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرا میں ادغام کیا جیسے کہ لِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّنَا میں لیکن آنا کا لِكِنَّا ہوا ہے چنانچہ حسن کی قرات میں لیکن آنا ہی ہے اور اس کا اشتھاق وَلَهُ سے ہے اور اس کے معنی تھے ہیں وَلَهُ عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ جب وہ جنگل میں بھیج ڈیا جائے۔ چونکہ ذات پاری تعالیٰ میں اور اس کی صفتون کی تحقیق میں عقل جیران و پریشان ہو جاتی ہے اس لئے اس پاک ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس پاک اصل میں یہ لفظ وَلَهُ تھا۔ وَلَهُ کو ہمزہ سے بدال دیا گیا جیسے کہ وَشَاحُ اور وَسَادَةٌ میں اشاح اور اسادہ کہتے ہیں۔ رازی کہتے ہیں کہ یہ لفظ الْهَتُّ الی فَلَان سے مشتق ہے جو کہ معنی میں ”سَكْنَتُ“ کے ہے یعنی میں نے فلاں سے سکون اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات پاری تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور روح کی حقیقی خوشی اسی کی معرفت میں ہے اس لئے کہ علی الاطلاق کامل وہی ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اُخْرُجَنِي ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لَاهَ يَلُوُهُ سے ماخوذ ہے جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الْفَصِيلُ سے ہے چونکہ بندے اسی کی طرف تضرع اور زاری سے جھکتے ہیں اسی کے دامن رحمت کا پله ہر حال میں تھامتے ہیں اس لئے اس اللہ کہا گیا، ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب إِلَهُ الرَّجُلُ يَا لَهُ اس وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک امر سے کوئی گھبرا اٹھے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچا لے۔ چونکہ تمام مخلوق کو ہر صیبیت سے نجات دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس لئے اس کو اللہ کہتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُعَجَّلُ عَلَيْهِ یعنی وہی بچا تا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی نہیں بچایا جاتا (وَهُوَ مُنْعَمٌ) حقیقی منعم وہی ہے۔ فرماتا ہے تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ وہی مطعم ہے۔ فرمایا وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ وہی موجود ہے۔ فرماتا ہے ہر چیز کا وجہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رازی کا مختار نہ ہب بھی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ خلیل سیبوبیہ اکثر اصولیوں اور فقہاء کا بھی قول ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں بھی ہیں۔ اگر یہ مشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی حالانکہ ایسا نہیں۔

پھر اس لفظ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور بہت سی اس کی صفتیں آتی ہیں جیسے حُنْ، رَجِيمٌ، مَالِكٌ، قَدُوسٌ وغیرہ تو معلوم ہوا کہ یہ مشتق نہیں؛ قرآن میں ایک جگہ عَزِيزُ الْحَمِيدُ لِلَّهِ اُخْرُجَنِی ہے۔ وہاں یہ عطف بیان ہے۔ ایک دلیل اس کے مشتق نہ ہونے کی بھی ہے ہل تعلُّم

لہ سَمِيَّاً یعنی کیا اس کا ہم نام بھی کوئی جانتے ہو؟ لیکن یہ غور طلب ہے واللہ عالم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے لیکن رازیؒ نے اس قول کو ضعیف کہا ہے اور فی الواقع ضعیف ہے بھی۔ رازیؒ فرماتے ہیں کہ ”ملحق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو معرفت خداوندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ دوسرے وہ جو اس سے محروم ہیں۔ جو حیرت کے اندر ہیروں میں اور جہالت کی پر خار وادیوں میں پڑے ہیں۔ وہ تو عقل کو رو بیٹھے اور رو حافی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں لیکن جو ساحل معرفت پر پہنچ چکے ہیں، جو نورانیست کے وسیع باغوں میں جا ٹھہرے جو کبیریٰ اور جلال کی وسعت کا اندازہ کر چکے ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچ کر خیزان دشمنوں کو شکست دے سکے گئے ہیں۔

غرض ساری مخلوق اس کی پوری معرفت سے عاجز اور سرگشته و حیران ہے۔ ان معانی کی بناء پر اس پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج اس کے سامنے جھکنے والی اور اس کی تلاش کرنے والی ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے اسے اللہ کہتے ہیں جیسا کہ خلیل کا قول ہے، عرب کے محاورے میں ہرا و نجی اور بلند چیز کو ”لاہ“ کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں لاهٰت الشَّمْسُ چونکہ پروردگار عالم بھی سب سے بلند و بالا ہے اس کو بھی اللہ کہتے ہیں اور الہ کے معنی عبادت کرنے اور تالہ کے معنی حکم برداری اور قربانی کرنے کے ہیں اور رب عالم کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس لئے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ابن عباس کی قرأت میں ہے وَيَذَرَكَ وَإِهْتَكَ اس کی اصل الالہ ہے پس صرف کلمہ کی جگہ جو همزہ ہے وہ حذف کیا گیا۔ پھر نفس کلمہ کلام زائد لام سے جو تعریف کے لئے لایا گیا ہے ملادیا گیا پھر ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا تو ایک لام مشدودہ گیا اور تقطییم اللہ کہا گیا۔ یہ تفسیر لفظ ”اللہ“ کی تھی۔

الرَّحْمَنُ اور الرَّحِيمُ کے معنی: ☆☆ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کا بیان آئے گا۔ یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں۔ دونوں میں مبالغہ ہے الرحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ علامہ ابن حجرؓ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی ان معنوں سے مشتق ہیں گویا اس پر اتفاق ہے بعض سلف کی تفسیروں نے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ان معنوں پر بنی حضرت علیہ السلام کا قول بھی پہلے گزر چکا ہے کہ الرحمن سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الرحمن مشتق نہیں ہے اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ ملتا حالاً نکلنا چاہیے آن میں بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا آیا ہے۔ مبرد کہتے ہیں الرحمن عربانی نام ہے عربی نہیں۔ ابوسحاق زجاج معانی القرآن میں کہتے ہیں کہ احمد بن یحییٰ کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے۔ اور الرحمن عربانی ہے۔ دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے لیکن ابوالحق فرماتے ہیں ”اس قول کو دون نہیں مانتا۔“ قرطی فرماتے ہیں ”اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں الرحمن ہوں۔ میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا۔ اس کے ملائے والے کوئی ملاؤں گا اور اس کے توڑے والے کو کاش دوں گا۔

اس صورت حديث کے ہوتے ہوئے مختلف اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انکار کرتا یہ محض ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطیؓ کہتے ہیں کہ ”الرحمن اور الرحيم کے ایک ہی معنی ہیں اور جیسے نَدَمَانٌ اور نَدِيْمٌ“۔ ابو عبید کا بھی یہی خیال ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فَعَلَانَ فَعَيْنَ کی طرح نہیں۔ فعلان میں مبالغہ ضروری ہوتا ہے جیسے غضبان اسی شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی غصہ والا ہوا اور فعل صرف فعل کے لئے بھی آتا ہے جو مبالغہ سے خالی ہوتا ہے۔ ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ الرحمن عام اس میں ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحیم باعتبار مونوں کے ہے۔ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا مونوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ”یہ دونوں رحمت و رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت درج ہے۔“

حضرت ابن عباس کی اس روایت میں لفظ ارق ہے۔ اس کے معنی خطابی وغیرہ ارفق کرتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ رفق یعنی نزی اور مہربانی والا ہے۔ وہ ہر کام میں نزی اور آسانی کو پسند کرتا ہے۔ وہ دوسروں پر نزی اور آسانی کرنے والے کو وہ نعمتیں حالت فرماتا ہے جوختی کرنے والے پر عطا نہیں فرماتا۔“ ابن المبارک فرماتے ہیں، ”جس اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو ماٹا جائے عطا فرمائے اور رحیم ہے کہ جب اس سے نہ ماٹا جائے وہ غلبناک ہو۔“ ترمذی کی حدیث میں ہے ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ ماٹے اللہ تعالیٰ اس پر غلبناک ہوتا ہے۔“ بعض شاعروں کا قول ہے۔

الله یغضب ان ترکت سوالہ      و بنی ادم حين یسئال یغضب

یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگ تو وہ نارا ض ہوتا ہے اور بنی ادم سے مانگ تو وہ بگوتے ہیں۔ عزیزی فرماتے ہیں کہ رحمٰن کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی موننوں پر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھئے قرآن کریم کی دو آیتوں نئی استویٰ علی العرش اور الرَّحْمَن علی العرش استویٰ میں استویٰ کے ساتھ رحمٰن کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے اور موننوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اپس معلوم ہوا کہ رحمٰن میں مبالغہ نسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے لیکن حدیث کی ایک دعائیں یا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا بھی آیا ہے۔ رحمٰن یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام نہیں۔ جیسے کہ فرمان ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمٰن کو۔ جس نام سے چاہو اسے پکارو۔ اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے وَسَلَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ يَعْنِي ان سے پوچھ لو۔ تھوڑے پہلے ہم نے جو رسول یسوع تھے کی انہوں نے رحمٰن کے سوا کسی کو معبدوں کہا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے۔ جب مسیلمہ کذاب نے بڑھ چڑھ کر دعوے شروع کئے اور اپنا نام رحمٰن العیامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہار سوا اور بر باد کیا، وہ جھوٹ اور کذب کی علامت مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے اور ہر جھوٹے دعویدار کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر دیہاتی اور شہری ہر کچھ کے گھر والا اسے بخوبی جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رحیم میں رحمٰن سے زیادہ مبالغہ ہے اس لئے کہ اس لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کی تاکید کی گئی ہے اور تاکید بنت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاکید ہے نہیں بلکہ یہ تو صفت ہے اور صفت میں یہ قاعدہ نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ اس نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، سب سے پہلے اس کی صفت رحمٰن بیان کی گئی اور یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو منوع ہے جیسے فرمادیا کہ اللہ کو یا رحمٰن کو پکارو؛ جس نام سے چاہو پکارو اس کے لئے اسماء حسنی بہت سارے ہیں۔ مسیلمہ نے بدترین جرأۃ کی لیکن بر باد ہوا اور اس کے گراہ ساتھیوں کے سوا اس کی کسی کے دل میں نہ آئی۔ رحیم کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے۔ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ أَنْجَلُنَا آیت میں اپنے نبی کو رحیم کہا، اسی طرح اپنے بعض ایسے ناموں سے دوسروں کو بھی اس نے دا بستہ کیا ہے جیسے آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ إِنَّمَا لئے ہیں کہ نبی ہو سکتا جیسے اللہ اور رحمٰن، خالق اور رزاق وغیرہ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام اللہ پھر اس کی صفت رحمٰن سے کی۔ اس لئے کہ رحیم کی نسبت یہ زیادہ خاص ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ قاعدہ ہے کہ اول سب سے زیادہ بزرگ نام لیا جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے سب سے زیادہ خاص نام لیا گیا پھر اس سے کم۔ پھر اس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمٰن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے پھر اسی پر اتفاقاً کیوں نہ کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عطا خراسانی کا یہ قول پیش کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ کافروں نے رحمٰن کا نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا، اس لئے رحیم کا لفظ بھی ساتھ رکھ لیا گیا تاکہ کسی قسم کا وہم نہ رہے۔

رحمٰن و رحیم صرف اللہ تعالیٰ کی کا نام ہے۔ ابن جریر نے تاہم اس قول کی تصدیق کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمٰن سے واقعہ میں تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت قُلْ ادْعُوَ اللَّهَ أَوِ ادْعُوَ الرَّحْمَنَ اخْ نازل فما کر ان کی تردید کی۔ حدیبیہ والے سال جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحيم لکھو تو کفار نے کہا تھا کہ ہم رحمٰن اور رحیم کو نہیں جانتے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمٰن یہاں کو جانتے ہیں۔ کسی اور رحمٰن کو نہیں جانتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِرَحْمَنِ الْعِزِيزِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کے سامنے سجدہ کرو تو وہ حیران زدہ ہو کر جواب دیتے ہیں کہ رحمٰن کون ہے جسے ہم تیرے قول کی وجہ سے سجدہ کریں۔ درحقیقت یہ بدکار لوگ صرف عناد، تکبر، کرشی اور دشمنی کی ہنا پر رحمٰن سے انکار کرتے تھے نہ کہ وہ اس نام سے نا آشنا تھے۔ اس لئے کہ جاہلیت کے زمانے کے پرانے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحمٰن موجود ہے جو انہی کے سلامہ اور دوسرے شعرا کے اشعار میں ملاحظہ ہو۔ تفسیر ابن جریر میں ہے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے کہ رحمٰن فعلان کے وزن پر رحمت سے ماخوذ ہے اور کلام عرب سے ہے۔ وہ اللہ فیق اور رفیق ہے جس پر حرم کرنا چاہے اور جس سے غصے ہو اس سے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے۔ اسی طرح اس کے تمام نام ہیں۔ حسن فرماتے ہیں، رحمٰن کا نام دوسروں کے لئے منع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لوگ اس نام پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ ام سلہ وابی حدیث، جس میں ہے کہ ہر آیت پر حضور مصہرا کرتے تھے، پہلے گذر بھی ہے اور ایک جماعت اسی طرح بسم اللہ کو آیت قرار دے کر آیت الحمد کو الگ پڑھتی ہے اور بعض ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کو دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں۔ جمہور کا بھی یہی قول ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ بعض عرب میم کے زیر سے پڑھتے ہیں، ہمزہ کی حرکت زبر میم کو دیتے ہیں جیسے اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِنَ عَطِيَّہ کہتے ہیں کہ زبر کی قرات کسی سے بھی میرے خیال میں مردی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم کی تفسیر ختم ہوئی۔ اب آگے سنئے۔

## الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سب تعریفین اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ۰

الحمد للہ کی تفسیر: ☆☆ (آیت: ۱) ساتوں قاری الحمدُ کو دال پر پیش سے پڑھتے ہیں اور الحمدُ لِلَّهِ کو مبتدا خبر مانتے ہیں۔ سفیان بن عینہ اور وہب بن عجیج کا قول ہے کہ دال پر زبر کے ساتھ ہے اور فعل یہاں مقدر ہے۔ ابن ابی عبد اللہ الحمدُ کی دال کو اور اللہ کے پہلے لام دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس لام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں اگرچہ اس کی شہادت عربی زبان میں ملتی ہے مگر اس کی شہادت زبان عرب سے ملتی ہے شاذ ہے۔ حسن اور زید بن علی ان دونوں حروف کو زیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع دال کو کرتے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو۔ اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنمیں ہم گن بھی نہیں سکتے، اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، اسی کی طرف سے ہیں۔ اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب میں عطا فرمائے۔ اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لئے تمام جسمانی نعمتیں نہیں بخشیں۔ پھر بے شمار دنیاوی نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر نہیں بن مانگے بخشیں۔ اس کی یہیکی والی نعمتیں، اس کے تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اس نے نہیں سکھا دیا۔ پس ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخراںی مالک کی پاک ذات بر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے لائق ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ يٰ شٰكِرَةَ الْكَلَمٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شاخودا آپ کی ہے اور اسی ضمن میں یہ فرمادیا ہے کہ تم کو الْحَمْدُ لِلّٰہ۔ بعض نے کہا الْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند و بالا صفتیوں سے اس کی شاکرنا ہے۔ اور الشُّكْرُ لِلّٰہ کہنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسان کا شکر یہ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ قول بھی نہیں۔ اس نے کہ عربی زبان کو جانتے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں۔ جعفر صادقؑ ابن عطاء صوفی بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الْحَمْدُ لِلّٰہ ہے۔ قرطبیؑ نے ابن حجر یزیر کے قول کو معتبر کرنے کے لئے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الْحَمْدُ لِلّٰہ شُكْرًا کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن حجر یزیر کے اس دعویٰ میں اختلاف ہے، پچھلے علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں ذبابی تعریف بیان کرنے کو خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازم صفتیوں پر ہو یا متعدد صفتیوں پر اور شکر صرف متعدد صفتیوں پر ہوتا ہے اور وہ دل زبان اور جملہ ارکان سے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پر دلیل ہیں۔

ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حمد کا لفظ عام ہے یا شکر کا اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے خصوص ہے کہ حمد کا لفظ جس پر واقع ہو، وہ عام طور پر شکر کے معنوں میں آتا ہے اس نے کہ وہ لازم اور متعدد دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ شہ سواری اور کرم دونوں پر حَمْدُهُ کہہ سکتے ہیں لیکن اس حیثیت سے وہ صرف زبان سے ادا ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ خاص اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول، فعل اور نیت تینوں پر بولا جاتا ہے اور صرف متعدد صفتیوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ شہ سواری کے حصول پر شَكْرَتُهُ نہیں کہہ سکتے البتہ شَكْرَتُهُ عَلَى كَرَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ متاخرین کے قول کا ماحصل۔ واللہ اعلم۔

ابو نصر اسماعیل بن حماد جوہری کہتے ہیں، حمد مقابل ہے ذم کے لہذا یوں کہتے ہیں "حَمْدُ الرَّجُلِ أَحَمَدُهُ حَمْدًا وَمَحْمَدَهُ فَهُوَ حَمِيدٌ وَمَحْمُودٌ" تَحْمِيد میں حمد سے زیادہ مبالغہ ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شاکرنا کرنے کو۔ عربی زبان میں شَكْرَتُهُ اور شَكْرُ لَهُ دونوں طرح کہتے ہیں لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ صحیح ہے۔ مدح کا لفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے اس نے کہ زندہ مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کا لفظ بول سکتے ہیں کھانے اور مکان کی اور ایسی اور چیزوں کی مدح کی جاتی ہے۔ احسان سے پہلے احسان کے بعد لازم صفتیوں پر متعدد صفتیوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا۔ واللہ اعلم۔

حمد کی تفسیر اقوال سلف سے: ☆☆ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ اور لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللّٰهُ أَكْبَرُ کوتاہم جانتے ہیں لیکن یہ الْحَمْدُ لِلّٰہ کا کیا مطلب؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پسند فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا اللہ کو بھلا لگتا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہ کہ شکر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا۔ اس کلمہ میں شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں ہدایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔ کعب احبارؓ کا قول ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی شاہی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں یہ اللہ کی چادر ہے۔ ایک حدیث میں بھی ایسا ہی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جب تم الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ لو گے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرلو گے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اسود بن سرلیعؓ ایک مرتبہ حضورؐ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات پاری تعالیٰ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو شاہی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ (مسند احمد و نسائی)

ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ افضل ذکر لآ إِلٰهٗ إِلَّا

اللہ ہے اور افضل دعا الحمد لله ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی اور وہ اس پر الْحَمْدُ لِلّٰہِ پکھے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی سے افضل ہوگی۔ فرماتے ہیں، اگر میری امت میں کسی کو اللہ تعالیٰ تمام دنیادے دے اور وہ الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہوگا۔

قرطیٰ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساری دنیادے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہنے کی توفیق دینا ہے اس لئے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمہ کا ثواب باقی ہی باقی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے الْمَالُ وَالْبَنُونُ اخْيَرُ عِنْدِ مَا اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ثواب والے اور نیک امید والے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِحَلَالٍ وَجَهَلٍ وَعَظِيمٌ سُلْطَانِكَ تو فرشتے گمراگے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے، اسے کس طرح لکھیں پروردگار نے باوجود جانے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے، فرمایا تم یونہی اسے لکھ لو۔ میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دے دوں گا۔

قرطیٰ ایک جماعت علماء سے نقل کرتے ہیں کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے بھی الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ افضل ہے کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں اور علماء کا خیال ہے کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ افضل ہے اس لئے کہ ایمان و کفر میں بھی فرق کرتا ہے، اسی کے کھلوانے کے لئے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام عَلَيْہِمُ السَّلَامُ نے کہا ہے ان میں سب سے افضل لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔ حضرت جابرؓ کی ایک مرفوع حدیث پہلے گذر چکی ہے کہ افضل ذکر لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور افضل دعا الْحَمْدُ لِلّٰہِ ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

حمد میں الف لام استغراق کا ہے یعنی حمد کی تمام ترقی میں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک ہے۔ تیرے ہی ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مالک اور مترصرف کو۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لئے تبدیلیاں کرنے والے پر بھی ہوتا ہے اور ان سب معانی کے اعتبار سے ذات باری کے لئے یہ خوب چلتا ہے۔ رب کاظم بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرا پر نہیں کہا جا سکتا ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے جیسے رَبُّ الدَّارِ يَعْنِي گُورَالا وَغَيْرَه۔ بعض کا توقول ہے کہ اسم عظیم بھی ہے۔

عالیین سے مراد: ☆☆ عَالَمِينَ جب ہے عَالَمُ کی۔ اللہ تعالیٰ کے سواتمام خلق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے یعنی نہیں۔ آسمان کی خلائق، خلکی اور تری کی خلائقات کو بھی عالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانے ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں مردی ہے کہ اس سے مراد کل خلق ہے خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی خواہ ہمیں اس کا علم ہو یانہ ہو۔ علی ہذا القیاس۔ ان سے جنات اور انسان بھی مراد لئے گئے ہیں۔ سعید بن جبیرؓ، مجاهدؓ اور ابن جریرؓ سے بھی یہ مردی ہے۔ حضرت علیؓ سے بھی غیر معتبر مندوں سے بھی منقول ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لِيَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرٌ بھی لی جاتی ہے یعنی تا کہ وہ عالیین یعنی جن اور انس کے لئے ڈرانے والا ہو جائے۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ سجادہ رکو عالم کہا جاتا ہے ہذا انسان جنات فرشتے شیاطین کو عالم کہا جائے گا۔ جانوروں کو نہیں کہا جائے گا۔ زید بن اسلمؓ ابو حمیصؓ فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ قادہؓ کہتے ہیں، ہر قوم کو ایک عالم کہتے ہیں۔ ابن مروان بن حمّ عرف جعد حن کا القب حمار تھا جو بزمیہ میں سے اپنے زمانے کے خلیفہ تھے کہتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے سترہ ہزار عالم پیدا کئے ہیں۔ آسمانوں والے ایک عالم زمینوں والے سب ایک عالم اور باقی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابوالعالیہ قرأتے ہیں انسان کل ایک عالم ہیں سارے جنات کا ایک عالم ہے اور ان کے سوا اٹھاڑہ ہزار یا چھوڑہ ہزار عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے چار کونے ہیں، ہر کونے میں ساڑھے تین ہزار عالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے اور اسی باتیں جب تک کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہوں مانے کے قابل نہیں ہوتیں۔

جبیری کہتے ہیں ایک ہزار اشیں ہیں چھوڑتی میں اور چار سو خلکی میں۔ سعید بن میتب سے یہ بھی مردی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت عمر قاروq کی خلافت کے زمانے میں ایک سال مذیاں نظر آئیں بلکہ تلاش کرنے کے باوجود پتہ نہ چلا۔ آپ غمگین ہو گئے، میں شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی مذیاں نظر آتی ہیں یا نہیں تو یہنے سوار تھوڑی تی مذیاں لے کر آئے اور امیر المؤمنین کے سامنے پیش کیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر بکیر کی اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار اشیں پیدا کی ہیں جن میں سے چھوڑتی میں ہیں اور چار سو خلکی میں، ان میں سے سب سے پہلے جو امت ہلاک ہو گی وہ مذیاں ہوں گی۔ بس ان کی بلاکت کے بعد پر درپے اور سب اشیں ہلاک ہو جائیں گی جس طرح کہ تسبیح کا دھماکا ثبوت جائے اور ایک کے بعد ایک سب موتنی جھجز جاتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی محمد بن عیینی ہلالی ضعیف ہیں۔ سعید بن میتب رحمہ اللہ سے بھی یہ قول مردی ہے۔

وہب بن معبد فرماتے ہیں اٹھاڑہ ہزار عالم ہیں۔ دنیا کی ساری کی مخلوق ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چالیس ہزار عالم ہیں۔ ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اس لئے کہ تمام عالمین پر مشتمل لفظ ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے؟ موئی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں زمینوں اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب۔ عالم کا الفاظ علامت سے مشتق ہے اس لئے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے جیسے کہ ابن مطر شاعر کا قول ہے۔۔۔

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعَصِّي إِلَهٌ أَمْ كَيْفَ يَحْجَدُهُ الْحَاجِدُ  
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ أَيْةٌ تَدْلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

یعنی تعجب ہے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے انکار کیا جاتا ہے حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ الحمدُ کے بعد اب الرَّحْمَن الرَّحِيم کی تفسیر سنئے۔

## الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَهُمْ

بہت بخشش کرنے والا براہم بریان ○

بہت بخشش کرنے والا براہم بریان! ☆☆ (آیت ۲: ) اس کی تفسیر پہلے پوری گز رچکی ہے۔ اب اعادہ کی ضرورت نہیں۔ قرطی فرماتے ہیں رَبُّ الْعَالَمِينَ کے وصف کے بعد الرَّحْمَن الرَّحِيم کا وصف تہیب یعنی ذرا وے کے بعد تغیب یعنی امید ہے جیسے فرمایا نبی ﷺ عبادی اخ یعنی میرے بندوں کو خرد کر میں ہی بخششے والا براہم بریان ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں اور فرمایا تیراب جلد سزا کرنے والا اور بریان اور بخشش بھی کرنے والا ہے دلب کے لفظ میں ذرا وہی اور رحمٰن اور رحیم کے لفظ میں امید ہے۔ صحیح مسلم شریف میں برداشت

حضرت ابو ہریرہؓ مرضیٰ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اگر یہاں داراللہ کے غصب و غصہ سے اور اس کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی طبع ہٹ جاتی اور اگر کافر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو بھی ناممید نہ ہوتا۔

## مِلْكٍ يَوْمَ الدِّينِ

بدلے کے دن (یعنی قیامت) کا مک ۵۰

حقیقی وارث و مالک کون ہے؟ ☆☆ (آیت: ۳) بعض قاریوں نے ملک پڑھا ہے اور باقی سب نے ملک و ردوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں اور سات قراتوں میں سے ہیں اور مالک کے لام کے زیر اور اس کے سکون کے ساتھ۔ اور ملیک اور ملکی بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلے کی دنوں قراتیں معانی کی رو ترجیح ہیں اور دنوں صحیح ہیں اور اچھی بھی۔ زختری نے ملک کو ترجیح دی ہے۔ اس لئے کہ حرمین والوں کی یہ قرأت ہے۔ اور قرآن میں بھی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اور قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی حکایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ملک پڑھا اس بنا پر کہ فعل اور فعل اور مفعول آتا ہے لیکن یہ شاذ اور بے حد غریب ہے۔ ابو بکر بن داؤدؓ نے اس بارے میں ایک غریب روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے تینوں خلفاء اور حضرت معاویہ اور ان کے لڑکے مالک پڑھتے تھے۔ ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ملک پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قرات کی صحت کا علم تھا۔ راوی حدیث ابن شہاب کو علم نہ تھا۔ و اللہ اعلم۔

ابن مردویہ نے کئی سندوں سے بیان کیا ہے کہ آنحضرت مالک پڑھتے تھے۔ مالک کا الفاظ ملک سے ماخوذ ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے اِنَا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ اَنْ يَعْلَمُ زِمِنَ اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹا کر لائے جائیں گے۔

اور فرمایا قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِلْكِ النَّاسِ یعنی کہہ کے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی۔ اور ملک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے جیسے فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اَنْ يَعْلَمُ آج ملک کس کا ہے، صرف اللہ واحد غلبہ والے کا۔ اور فرمایا قَوْلُهُ الْحَقُّ اُنْ اَنِی کافرمان ہے اور اسی کا سب ملک ہے۔ اور فرمایا آج ملک رحمن ہی کا ہے اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لئے کہ پہلے اپنا وصف رَبِّ الْعَالَمِينَ ہونا یہاں کر چکا ہے۔ دنیا اور آخرت دنوں شامل ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعویدار بھی نہ ہوگا۔ بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ جیسے فرمایا جس دن روح القدس اور فرشتہ صرفستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ رحمن اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ دوسرا جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمن کے سامنے پست ہوں گی اور گنتا ہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گے۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص نہ بول سکے گا۔ بعض ان میں سے بدجنت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہو گا جیسے کہ دنیا میں عجائز تھے۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگذر کرنے یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ تابعینؓ اور سلف صالحینؓ سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ این جریئے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن بظاہر ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں، ہر ایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں پہلا قول مطلب پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ فرمان ہے **الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لَّغُورُهُ** اور دوسرا قول اس آیت کے مشابہ ہے جیسا کہ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ يعنی جس دن کہے گا ”ہو“ جا، بس اسی وقت ہو جائے گا واللہ اعلم۔

حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جیسے فرمایا **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ** ان صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلاتے۔ حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضہ میں لے گا اور آسمان اس کے دائیے ہاتھ میں لپٹھے ہوئے ہوں گے، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں گئے زمین کے بادشاہ کہاں ہیں تکبیر والے۔ قرآن عظیم میں ہے، کس کی ہے آج بادشاہی؟ فقط اللہ اکیل غلبہ والے کی۔ اور کسی کو ملک کہہ دینا یہ صرف مجاز ہے جیسے کہ قرآن میں طالوت کو ملک کہا گیا اور وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكٌ کا الفاظ آیا اور سخاری و مسلم میں ملوک کا لفظ آیا ہے اور قرآن کی آیت میں اذ جَعَلَ فِينَكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا یعنی تم میں انبیاء کے اور تمہیں بادشاہ بنایا آیا ہے۔ دین کے معنی بدلتے جزا اور حساب کے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدل دے گا اور وہ جان لیں گے۔ اور جگہ انا لَمْ يَنْبُوْئُ کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا؟ حدیث میں ہے، دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ جیسے کہ حضرت فاروق عظیم کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو۔ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لواں سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں اور اس بڑی پیشی کے لئے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کئے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ جیسے خود رب عالم نے فرمایا، جس دن تم پیش کئے جاؤ گے، کوئی چیزیں دھکی پات چھپی گی نہیں۔

## إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تھہی سے ہم مدد چاہتے ہیں ۰

عبادت کا مفہوم: ☆☆ (آیت: ۳) ساتوں قاریوں اور جمہور نے اسے ”**إِيَّاكَ**“ پڑھا ہے۔ عمر بن فائد نے **إِيَّاكَ** پڑھا ہے۔ لیکن یہ قراءۃ شاذ اور مردود ہے اس لئے کہ ”**إِيَّاكَ**“ کے معنی سورج کی روشنی کے ہیں اور بعضوں نے **إِيَّاكَ** پڑھا ہے اور بعضوں نے **إِيَّاكَ** پڑھا بعض نے **هَيَّاكَ** پڑھا ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی **هَيَّاكَ** ہے۔ **نَسْتَعِينُ** کی سیکھی قرات تمام کی ہے۔ رائے تیجی بن وہاب اور ہے اور اعمش کے۔ یہ دونوں پہلے نوں کوزیر سے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ نبواسہ زریجہ بنت تمیم کی لغت اسی طرح پر ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو۔ طریق معداں راستے کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو۔ اسی طرح بغیر معداں اونٹ کو کہتے ہیں جو بہت دبا اور جھکا ہوا ہو اور شریعت میں عبادت نام ہے محبت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کا۔ لفظ **إِيَّاكَ** کو جو مفہول ہے پہلے لائے اور پھر اسی کو دہرا یا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے اور عبادت اور طلب مدد اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہو جائے۔ تو اس جملہ کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حل صرف بھی دو چیزیں ہیں۔ بعض سلف کافرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز اس آیت **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** میں ہے۔ آیت کے پہلے حصہ میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملہ میں اپنی طاقتون اور قوتون کے کمال کا انکار ہے اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کی پروردگی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا **فَأَعْبُدُهُ**

وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ إِنْ يُعِينَ اللَّهُ بَنِی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو تھا را ب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الْغَافِلُ کہ وہے کہ وہی رحمان ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ فرمایا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكَبِيْلًا یعنی مشرق مغرب کارب وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کار ساز سمجھ۔ یہی مضمون اس آیہ کریمہ میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تو خطاب نہ تھا لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے اس لئے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و شایان کی تو قرب خداوندی میں حاضر ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ ہم تو تیرے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہیحتاج ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام جلوں میں خبر تھی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی شانہ آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ”شانہ“ انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لئے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس سورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے۔ جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان (نصف نصف) بانٹ لیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب کہتا ہے الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شاکی۔ جب وہ کہتا ہے ملک بیوْم الدِّيْنِ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔

عبادت اور طلب: ☆☆ جب وہ ایاًكَ نَعْبُدُ وَ ایاًكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو دو ماں گئے۔ پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مائلے، اس کے لئے ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایاًكَ نَعْبُدُ کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب ہم خاص تیری ہی تو حیدر مانتے ہیں اور تجھ سے ہی ڈرتے ہیں اور تیری اسی ذات سے امیر رکھتے ہیں۔ تیرے سوا کسی اور کی نہ ہم عبادت کریں نہ ڈریں نہ امیر کیں۔ اور ایاًكَ نَسْتَعِينُ سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قادہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو ایاًكَ نَعْبُدُ کو پہلے لانا اس لئے ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے اور مد کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام اور اس پر پختگی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے اور اس سے کمزور کو اس کے بعد لا جایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہاں جمع کے صیغہ کولانے کی یعنی ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ جمع کے لئے ہے تو کہنے والا تو ایک ہے اور اگر تعظیم کے لئے ہے تو اس مقام پر نہایت نامناسب ہے کیونکہ یہاں تو مسکینی اور عاجزی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گویا ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خردے رہا ہے بالخصوص جبکہ وہ جماعت میں کھڑا ہو یا امام بنا ہو اپنے گویا وہ اپنی اور اپنے سب مومن بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب اس کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور یہ ان کی طرف سے بھلائی کے لئے آگے بڑھا ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تعظیم کے لئے ہے گویا کہ بندہ جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ تو شریف ہے اور تیری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے تو اب ایاًكَ نَعْبُدُ وَ ایاًكَ نَسْتَعِينُ کہا یعنی اپنے تین عزت سے یاد کر۔ ہاں اگر

عبدات سے الگ ہو تو اس وقت ہم نہ کہہ چاہے ہزاروں لاکھوں میں ہو کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج اور اس کے دربار کے فقیر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ ایا کَ نَعْبُدُ میں جو تواضع اور عاجزی ہے وہ ایا کَ عَبَدَنَا میں نہیں۔ اس لئے کہ اس میں اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی عبادت کی الہیت پائی جاتی ہے حالانکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہئے ویسی شاد صفت بیان کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ کسی شاعر کا قول ہے (ترجمہ) کہ مجھے اس کا غلام کہہ کر ہی پکارو کیونکہ میر اس سے اچھا نام یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کا نام عبدِ یعنی غلام ان ہی جگہوں پر لیا جہاں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جیسے قرآن نازل کرنا، نماز میں کفرے ہونا، معراج کرنا وغیرہ۔ فرمایا اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْذَلَكَ عَلَى عَبْدِكَ إِنَّمَا قَاتَكَ اللَّهُ إِنَّمَا قَاتَكَ فرمایا سُبْحَنَ اللَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ إِنَّمَا تَاهَ هَذِهِ قُرْآنًا پاکَ نَفْعًا يَعْلَمُ دِينَ كَوَافِرَ نَفْعًا لَمَّا قَاتَكَ اللَّهُ إِنَّمَا قَاتَكَ فرمایا ہو تو تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ بِعِنْهُ هُمْ جَانِتُهُ ہیں کہ خلائق کی باشیں تیرا دل دکھاتی ہیں تو ایسے وقت اپنے رب کی شیخ اور حمد بیان کر اور سجدہ کر اور موت کے وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگا رہ۔ رازیؒ نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ عبودیت کا مقام رسالت کے مقام سے افضل ہے کیونکہ عبادت کا تعلق مخلوق سے خالق کی طرف ہوتا اور رسالت کا تعلق حق سے حق کی طرف ہوتا ہے اور اس دلیل سے بھی کعبد کی کل اصلاح کے کاموں کا متولی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے اور رسول اپنی امت کی مصلحتوں کا دالی ہوتا ہے لیکن یہ قول غلط ہے اور اس کی یہ دونوں دلیلیں بھی بودی اور لاحصل ہیں۔ افسوس رازیؒ نے نہ تو اس کو ضعیف کہا، نہ اسے رد کیا۔ بعض صوفیوں کا قول ہے کہ عبادت یا تو ٹو اب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے یا عذاب دفع کرنے کے لئے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی فائدے کی بات نہیں اس لئے کہ اس وقت مقصود خدا پی مرا دکا حاصل کرنا نہیں۔ اس کی تکالیف کے لئے آدمی کرنا یہی ضعیف ہے۔ اعلیٰ مرتبہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان اس مقدس ذات کی جو تمام کامل صفتیں سے موصوف ہے محض اس کی ذات کے لئے عبادت کرے اور مقصود کچھ نہ ہو۔ اسی لئے نمازی کی نیت نہ نماز پڑھنے کی ہوتی ہے اگر وہ ٹو اب پانے اور عذاب سے بچنے کے لئے ہو تو باطل ہے۔ دوسرا گروہ ان کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبادت کا اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا کچھ اس کے خلاف نہیں کہ ٹو اب کی طلب اور عذاب کا بچاؤ مطلوب نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک امرابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور میں نہ تو آپ جیسا پڑھنا جانتا ہوں نہ حضرت معاویہ جیسا میں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی کے قریب قریب ہم بھی پڑھتے ہیں۔

## إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ لَا

ہمیں سیدی (اور پی) راہ دکھا۔

حصول مقصود کا بہترین طریقہ: ☆☆ (آیت: ۵) جمہور نے صراط پڑھا ہے۔ بعض نے سرکاط کہا ہے اور زے کی بھی ایک قراءہ ہے۔ فرا کہتے ہیں، بھی عذرہ اور بھی کلب کی قراءۃ میں ہے چونکہ پہلے شاد صفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے۔ جیسے کہ پہلے حدیث میں گذر پکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لئے ہے اور آدھا میرے بندے کے لئے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر رطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی۔ پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ طیف انداز ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پالینے کے لئے تیر بہدف ہے۔ اس کامل طریقہ کو پسند فرمائے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے جیسے مویں علیہ السلام نے کہا

تھا رَبِّ اَنْتَ لِمَا اَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَبِيرٌ پُر و دگار جو بھلائیاں تو میری طرف نازل فرمائے، میں اس کا تھاج ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعائیں کہا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اَنْتَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ الَّتِي تَيَّرَ سَوَاكُنَّ مَعْبُودُنَّ بَلْ تُوَّاَكَ هے۔ میں ظالموں میں سے ہوں۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مہر بانیوں بھری بخشش مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دادو داش تیری پاک عادتوں میں داخل ہے لیکن تیری پاکیزگی بیان کر دینا، تیری حمد و شکر کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ کبھی تو ہدایت نفس متعبدی ہوتی ہے جیسے یہاں ہے۔ تَعْنِي الْهِمُّنَا وَفَقَنَا أَرْزُقُنَا اور آغْطَنَا یعنی ہمیں عطا فرمائے ہوں گے۔ اور جگہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ یعنی ہم نے اسے دونوں راستے کھادیئے بھلائی اور برائی دونوں کے اور کبھی ہدایت "الی" کے ساتھ متعبدی ہوتی ہے جیسے فرمایا اِجْتَبَاهُ وَهَذَهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اور فرمایا فَأَهْدُوْهُمُ إِلَى صِرَاطِ الْحَسَنِیْمِ یہاں "ہدایت" ارشاد اور دلالت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِيُ إِلَيْهِ لِمَنِ اهْتَدَ یعنی الہ کا شکر ہے کہ اور کبھی ہدایت لام کے ساتھ متعبدی ہوتی ہے جیسے جنتیوں کا قول قرآن کریم میں ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا لِمَنِ اهْتَدَ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کی راہ دھائی یعنی توفیق دی اور ہدایت والا بنایا۔ صراط مستقیم کے معنی سنئے۔ امام ابو جعفر ابن جریر قرمتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے میڑھانے ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بے شمار شواہد موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے اور پھر اس کا وصف استقامت اور یہ پن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ سلف اور متاخرین مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ اور رسول کی ایجاد اور تابع داری ہے۔

صراط مستقیم کیا ہے؟ ☆☆ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے بھی روایت کی ہے۔ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گذر جگلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط ری، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم یہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مسند احمد، ترمذی، حضرت علیؓ کا قول بھی یہی ہے اور مرفوع حدیث کا بھی موقف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت عبد اللہ سے بھی یہی روایت ہے۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ جبراًیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد ﷺ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہئے یعنی ہمیں ہدایت والے راستہ کا الہام کر اور اس دین قیم کی سمجھو دے جس میں کوئی کجھ نہیں۔ آپ سے یہ قول بھی مردوی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباسؓ ابن مسعودؓ اور بہت سے صحابہؓ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو ہر اس چیز سے جاؤ سماں اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلمؓ کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی مردوی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہاے لوگو تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ۔ نیز ہمی ترجیھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے، خبردار اسے نہ

کھونا۔ اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ نبیم ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد حسن صحیح ہیں۔ واللہ اعلم۔

مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد حق ہے۔ ان کا قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور مذکورہ اقوال کا کوئی مخالف نہیں۔ ابوالعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے مراد بنی آتیلہ اور آپ کے بعد کے آپ کے دونوں خلیفہ ہیں۔ ابوالعالیٰ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ نبی کریم ﷺ اور آپ کے دونوں خلفاء صدیقؓ و فاروقؓ کا تابع دار حق کا تالیع ہے اور حق کا تالیع اسلام کا تالیع ہے اور اسلام کا تالیع قرآن کا مطبع ہے اور قرآن اللہ کی کتاب اس کی طرف کی مضبوط رسمی اور اس کی سیدھی راہ ہے۔ لہذا صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ فالمحمد لله۔

حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولیٰ یہ ہے کہ ہم کو توفیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرضی کی ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے اس لئے کہ جس شخص کو اس کی توفیق مل جائے جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، جو نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ تھے انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی، کتاب اللہ کو مضبوط حتم رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالائے، اس کے منع کے ہوئے کاموں سے رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل جائے گی تو یہی صراط مستقیم ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو جکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدی اور رسولخواہ اور پیغمبر اور ہمیشہ کی طلب ہے۔ اس لئے کہ بندہ ہر ساعت اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہحتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں بلکہ دن رات اپنے اللہ کا ہحتاج ہے۔ اسی لئے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنالے۔ وہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کافیل ہے بالخصوص بے قرار ہحتاج اور اس کے سامنے اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے یا ائمہا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا بِاللَّهِ الْخَاتِمُ ایمان واللہ پر اس کے رسولوں پر اس کی اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں، سب پر ایمان لا اؤ۔

اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا اور ہدایت والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کرنے کا حکم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدی اور استمار ہے اور ایسے اعمال پر یعنی کرنا جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچا میں۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور دیکھئے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان دار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں رَبَّنَا لَا تُرْغِبْنَا بَعْدَ اَذْهَبْنَا وَهَبْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

راہ ان لوگوں کی جن سرتونے انعام کیا نہ ان کی جن پر غصب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی ۰

انعام یافتہ کون؟ ☆☆ اس کا بیان پلے گذر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر خداوند کریم فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ یہ آیت صراط مستقیم کی تفسیر ہے اور نجیوں کے نزدیک یہ اس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتی ہے واللہ اعلم۔ اور جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا بیان سورہ نساء میں آچکا ہے۔ فرمان ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا يُنَزَّلُ لِلشَّادِرِ اس رسول کے کہے پر عمل کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ جو نبی اور صدیق، شہید صاحب لوگ ہیں، یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ربانی ہے اور اللہ جانتے والا کافی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شاء تو مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، اور صالحین کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ یہ آیت تھیک وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ كی طرح ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں، اس سے مراد انہیاں ہیں۔ ابین عباس اور مجاہد فرماتے ہیں، موسن ہیں۔ کوئی کہتے ہیں مسلمان۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ مراد ہیں۔ ابین عباس کا قول زیادہ معقول اور قابل تسلیم ہے۔ واللہ اعلم۔

جبور کی قرأت میں غیرے کی زیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ محشری کہتے ہیں، رے کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور حضرت عمر بن خطابؓ کی قرأت بھی ہے اور ان کی شیرؓ سے بھی بھی روایت کی گئی ہے علیہم میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور آنعمت عامل ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اللہ جل شانہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ رسولؐ کے اطاعت گذرا اس کے حکموں پر عمل کرنے والے اس کے منع کئے ہوئے کاموں سے رک رہے والے تھے۔

مغضوب کون؟ ☆ (آیت: ۲) ان کی راہ سے بچا جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ کئے اور کم گثیرہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لے جو سرے سے علم نہیں رکھتے، مارے مارے پھرتے ہیں راہ سے بھلے ہوئے جیران و سرگردان ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کئے جانے کو دوبارہ لا کر کلام کی تاکید کرنا اس لئے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دوغلط راستے ہیں۔ ایک یہود کا دوسر انصاری کا بعض خوی کہتے ہیں کہ غیر کاظم یہاں پر استثناء کے لئے ہے تو استثناء منقطع ہو سکتا ہے کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہونا تو درست ہے کہر یہ لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔ لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے یہ بہت اچھی ہے عرب شاعروں کے شعر میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کر دیا کرتے ہیں اسی طرح اس آیت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف حذف ہے۔ **غَيْرُ الظِّرَاطِ الْمَغْضُوبِ** سے مراد **غَيْرُ الظِّرَاطِ** **الْمَغْضُوبِ** ہے۔ مضاف الیہ کے ذکر

سے کفایت کی گئی اور مضاف بیان نہ کیا گیا۔ اس لئے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے دو مرتبہ یہ لفظ آچکا ہے۔ بعض کہتے ہیں وَلَا الْضَّالُّینَ میں لَا زائد ہے اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالُّينَ اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعر سے بھی ملتی ہے لیکن صحیح بات وعی ہے جو تم پہلے لکھے چکے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرُ الضَّالُّينَ پڑھنا صحیح سند سے مروی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب سے بھی روایت ہے اور یہ محوال ہے اس پر کہ ان بزرگوں سے یہ بطور تفسیر صادر ہوا۔ تو ہمارے قول کی تائید ہوئی کہ لأنفی کی تائید کے لئے ہی لا یا گیا ہے تا کہ یہ وعی نہ ہو کہ یہ آنعمت عَلَيْهِمْ پڑھطف ہے اور اس لئے بھی کہ دونوں را ہوں کافر ق معلوم ہو جائے تا کہ ہر شخص ان دونوں سے بھی پچھا رہے۔ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہوا و حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں عمل نہیں اور نصاریٰ کے ہاں علم نہیں۔ اسی لئے یہودیوں پر غصب ہوا اور نصرانیوں کو گمراہی ملی۔ اس لئے کہ علم کے باوجود عمل کو غصب کا چھوڑنا سب ہے اور نصرانی گواہ یک چیز کا قصد کرنے کے باوجود حق راستہ کو نہیں پاسکتے اس لئے کہ ان کا طریقہ کارغلط ہے اور اتباع حق سے بہت ہوئے ہیں۔ یوں تو غصب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصہ میں ہے لیکن یہودی غصب کے حصہ میں پیش پیش ہیں۔ جیسے کہ اور جگہ قرآن کریم میں ہے مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ اور نصرانیٰ خلافت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمان الہی ہے قَدْ ضَلَّوْ مِنْ قَبْلٍ وَاضَّلُّوْ كَثِيرًا وَضَلَّوْ أَعْنَ سَوَاءِ السَّبِيلِ یعنی یہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھلکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی حدیثیں اور روایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

سنہ احمد میں ہے۔ حضرت عذری بن حامٰمؓ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے شکر نے میری پھوپھی اور چند اور لوگوں کو گرفتار کر کے حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا تو میری پھوپھی نے کہا۔ میری خبر گیری کرنے والا گائب ہے اور میں عمر سیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کرے گا۔ حضورؐ نے دریافت کیا کہ تمیری خبر جریئے والا کون ہے؟ اس نے کہا عذری بن حاتم۔ آپؐ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگتا پھرتا ہے؟ پھر آپؐ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپؐ آئے تو آپؐ کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً وہ حضرت علیؓ تھے۔ آپؐ نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے ان سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حضورؐ کی سعادت نے تیرے باپ حاتم کی سعادت کو بھی ماند کر دیا، آپؐ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑھیا عورتیں بھی آپؐ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپؐ ان سے بھی تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپؐ قیصر و کسری کی طرح بادشاہت اور وجاهت کے طلب کرنے والے نہیں۔ آپؐ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عذری لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ نے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ أَكْبَر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عزوجل سے بھی بڑا کوئی ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے آپؐ کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا جس سے آپؐ بہت خوش ہوئے اور فرماتے لگے مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود ہیں اور الضاللین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عذریؓ کے سوال پر حضورؐ نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کی بہت سی حدیثیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بونین کے ایک شخص نے وادی القریٰ میں حضور سے یہی سوال کیا آپؐ نے جواب میں یہی فرمایا۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبد اللہ ابن عمرؓ ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن مارویہ میں ابوذرؓ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ حضرت ابن مسعودؓ اور بہت سے صحابیوں سے بھی یہ تفسیر منقول ہے۔ ریچ بن انس عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں بلکہ ابن ابی حاتم تو فرماتے ہیں کہ مفسرین میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان ائمہ کی اس تفسیر کی دلیل ایک تدوہ حدیث ہے جو پہلے گذری۔ دوسری سورہ بقرہ کی یہ آیت جس میں نبی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے یعنی شَرُّ الْأَعْنَامِ میں کہ اس پر غضب پر غضب نازل ہوا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت قُلْ هَلْ أَنْشِكُمْ بِشَرَّ الْأَعْنَامِ میں بھی ہے کہ ان پر غضب اللہ نازل ہوا۔ اور جگہ فرمانِ اللہ ہے لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلْأَعْنَامِ میں سے جن اگوں نے کفر کیا، ان پر لعنت کی گئی۔ داؤ و علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی زبانی یہ یوچان کی نافرمانی اور حد سے گذر جانے کے ہے یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے یقیناً ان کے کام بہت بڑے تھے اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل جبکہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک غضب اللہ کا ایک حصہ نہ پالو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے بچنے کے لئے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ پھر نصرانیوں سے ملے انہوں نے کہا جب تک خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ نہ لیں تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے۔ بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی۔ البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قول کر لیا۔ اس لئے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا انہی میں حضرت ورقہ بن نوفل تھے۔ انہیں نبی کریم ﷺ کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایتِ اللہ نے ان کی رہبری کی اور یہ حضور پر ایمان لائے اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

مسئلہ: ☆☆ ضاد اور ظلی کی قرأت میں بہت باریک فرق ہے اور ہر ایک کے بس کا نہیں۔ اس لئے علمائے کرام کا صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ فرق معاف ہے، ضاد کا صحیح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کا اول کنارہ اور اس کے پاس کی دائرہ میں اور ظل کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دو دائیں کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجبورہ اور رخوہ اور مطبیقہ ہیں۔ پس اس شخص کو جسے ان دونوں میں تیز کرنی مشکل معلوم ہو اسے معاف ہے کہ ضاد کو ظل کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں ضاد کو سب سے زیادہ صحیح پڑھنے والا ہوں لیکن یہ حدیث بالکل بے اصل اور لاپتہ ہے۔

الحمد کا تعارف و مفہوم: ☆☆ یہ مبارک سورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان سات آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی شناور صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں کا اور اس کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک سے سوال کریں۔ اس کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی اور بے بسی کا اقرار کریں اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی توحید الوہیت کا اقرار کریں۔ اسے شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں۔ صراط مستقیم اور اس پر ثابت تدبی اس سے طلب کریں تاکہ یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتا رے اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے پڑوں میں جنت الفردوس میں جگہ دلائے۔ ساتھ ہی اس سورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے اور باطل را ہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہوتا کہ قیامت کے دن بھی یہ باطل پرست یہود و نصاریٰ کی جماعت سے دور ہی رہیں۔

اس باریک نکتہ پر بھی غور کیجئے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور انعمت کہا گیا لیکن غضب کی اسناد اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ یہاں فاعل حذف کر دیا اور مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کہا گیا۔ اس میں پر و دگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ دراصل حقیقی

فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے جیسے اور جگہ ہے غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اسی طرح مذالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی گئی جو گراہ ہیں حالانکہ اور جگہ ہے مَنْ يَعْهِدُ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهْتَدٌ وَمَنْ يُضْلَلُ إِنَّ يَعْنِي اللَّهَ حِينَ رَاهُ دَكْهَانَ دَرَاهِيَةَ ہے اور جسے دَگْرَاهَ کر دے اس کا رہنمای کوئی نہیں۔ اور جگہ فرمایا مَنْ يُضْلَلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ایں یعنی جسے اللہ گراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ وہ تو اپنی سرکشی میں بہکے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والا گراہ کرنے والا صرف سجان و تعالیٰ ہی ہے۔

قدر یہ فرقہ جو ادھر ادھر کی متشابہ آیتوں کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ بندے خود مختار ہیں۔ وہ خود پسند کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ صرف اور صاف صاف آیتیں ان کے رو میں موجود ہیں لیکن باطل پرست فرتوں کا بھی قاعدہ ہے کہ صراحت کو چھوڑ کر تشبیہ کے پیچے کا کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو تشبیہ آیتوں کے پیچے لگتے ہیں تو سمجھ لوا کہ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے۔ تم ان کو چھوڑ دو۔ حضورؐ کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت شریف کی طرف ہے فَإِنَّمَا الظَّنِّ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ إِنَّ يَعْلَمُ جِنْ وَلَوْكَوْنَ کے دل میں کجی ہے وہ تشبیہ کے پیچے لگتے ہیں۔ فرتوں اور تاویل کو ڈھونڈنے کے لئے الحمد للہ بدھیوں کے لئے قرآن پاک میں صحیح دلیل کوئی نہیں۔ قرآن کریم توحید و مذالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تفاصل اور اختلاف نہیں۔ یہ تو حکم وحید اللہ کا نازل کردہ ہے۔

آمین اور سورہ فاتحہ: ☆☆ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین مثل یا ایس کے ہے اور آمین بھی کہا گیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو قبول فرم۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں واہل بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے نار رسول اللہ ﷺ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہہ کر آمین کہتے تھے اور آواز دراز کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے آواز بلند کرتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی آمین پہلی صفت اے لوگ جو آپ کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونخ اٹھتی تھی۔ دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے اور دارقطنی بتاتے ہیں کہ حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے تھے۔ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا تیکھے (ابوداؤد) حسن بصریؓ اور جعفر صادقؑ سے آمین کہنا مردی ہے جیسے کہ آمینَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ قرآن میں ہے۔

ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہئے۔ ہاں جو نماز میں ہو اس پر تاکید زیادہ ہے۔ نمازی خود اکیلا ہو خواہ مقتدی ہو خواہ امام ہو ہر حالت میں آمین کہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب امام آمین کہے، تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسروں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے تمام پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو اللہ قبول فرمائے گا۔

ابن عباسؓ نے حضورؐ سے دریافت کیا، آمین کے کیا معنی ہیں۔ آپؓ نے فرمایا اے اللہ تو کر۔ جو ہریؓ کہتے ہیں اس کے معنی "اسی طرح ہو" ہیں۔ ترمذی کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑ۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی "اے اللہ تو ہماری دعا قبول

فرما" کے ہیں۔ مجاہد جعفر صادق ہلال بن سیاف فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباسؓ سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالکؓ کے اصحاب کا نام ہب ہے کہ امام آمین نہ کہنے مقتدى آمین کہے کیونکہ موطا مالک کی حدیث میں ہے کہ جب امام وَالضَّالِّيْنَ کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم وابی ابو موسیٰ اشعریؓ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جب امام وَالضَّالِّيْنَ کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن بخاری و مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ پڑھ کر آمین کہتے تھے۔

"آمین" با آواز بلند: ☆☆ جہری نمازوں میں مقتدى اوپنجی آواز سے آمین کہے یا نہ کہئے اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدى با آواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اوپنجی آواز سے آمین کہی ہو تو یہ قول یہ ہے کہ مقتدى با آواز بلند نہ کہیں۔ امام ابوحنیفہؓ کا یہی مذهب ہے اور ایک روایت میں امام مالکؓ سے بھی مروی ہے اس لئے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے تو نہ وہ صرف بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؓ کا بھی یہی مذهب ہے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذهب ہے۔ اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں پر ایک تیرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدى با آواز بلند آمین نہ کہیں اس لئے کہ وہ امام کی قرأت سننے ہیں اور اگر بڑی ہو تو اوپنجی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کو نہیں ملکھی جائے۔ واللہ اعلم۔ (صحیح مسلم) یہ ہے کہ جن نمازوں میں اوپنجی آواز سے قرأت پڑھی جاتی ہے، ان میں اوپنجی آواز سے آمین کہنی چاہئے۔ خواہ مقتدى ہو خواہ امام ہو خواہ منفرد۔ مترجم)۔

مسنون احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپؐ نے فرمایا کہ ہماری تین چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمع کو اللہ نے ہمیں اس کی بہایت کی اور یہ بہک گئے دوسرا قبلہ تیسرا ہے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ابن ماجہؓ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑھتی ہے، اتنی کسی اور چیز پر نہیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا جس قدر حسد یہودی آمین پر کرتے ہیں اس قدر حسد اور امر پر نہیں کرتے۔ تم بھی آمین بکثرت کہا کرو۔ اس کی اسناد میں طلحہ بن عمر و راوی ضعیف ہیں۔ ابن مرودیہ میں برداشت حضرت ابو ہریرہؓ مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا، آمین اللہ تعالیٰ کی مہر ہے اپنے مومن بندوں پر۔ حضرت انسؓ وابی حدیث میں ہے کہ نماز میں آمین کہنی اور دعا پر آمین کہنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ تم اپنی دعاؤں کو آمین پر ختم کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے حق میں قبول فرمایا کرے گا۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم کے ان الفاظ کو دیکھئے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنِّيَ فَرُعَوْنَ لَنْ يَهْتَدِيْ لِمَنْ يَعْبُدُ تُوْلِيْ فَرَأَيْتَ اُنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِنِيْ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْنَا وَلَمْ يَكُنْ مَّاْ يَعْمَلُ مَعْلُومًا۔ اس حدیث کے ان الفاظ کو دیکھئے جن میں عطا فرمایا ہے جس سے وہ تیری راہ سے دوسروں کو بہکارہے ہیں۔ اللہ ان کے مال بر باد کراور ان کے دل سخت کرئیے ایمان لا کیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہ لا کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان ان الفاظ میں ہوتا ہے قَدْ أَجِيَّتْ دُعَوَتُكُمَا لَعْنَتْ قَوْنُوكُمَا کی دعا قبول کی گئی۔ تم مضبوط رہو اور بے علموں کی راہ نہ جاؤ۔ دعا صرف حضرت موسیٰؓ کرتے تھے اور حضرت ہارون صرف آمین کہتے تھے لیکن قرآن نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی۔

اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص کسی دعا پر آمیں کہنے وہ کویا خود وہ دعا کر رہا ہے۔ اب اس استدلال کو سامنے رکھ کروہ قیاس کرتے ہیں کہ مقتدى قرأت نہ کرے اس لئے کہ اس کا سورہ فاتحہ کے بعد آمیں کہنا پڑھنے کے قائم مقام ہے اور اس حدیث کو ہم دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا امام ہوتا اس کے امام کی قرأت اس کی قرأت ہے (مند احمد) حضرت بلالؓ کہا کرتے تھے کہ حضور آمیں میں مجھ سے سبقت نہ کیا سمجھئے۔ اس سمجھنا تانی سے مقتدى پر جہری نمازوں میں الحمد کا نہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ (یہ یاد رہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب امام عَيْرُ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ کہہ کر آمیں کہتا ہے آسمان والوں کی آمیں زمین والوں کی آمیں سے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام پہلے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ آمیں نہ کہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کرنے غالب آئے۔ مال غیمت جمع کرے اب قرعہ ال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام قرعہ نکلے ہیں اور کوئی حصہ نہ ملے وہ کہئے ”یہ کیوں؟“ تو جواب ملے کہ تیرے آمیں نہ کہنے کی وجہ سے۔

## تفسیر سورہ البقرہ

اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان: ☆☆ حضرت معقل بن یسیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”سورہ بقرہ قرآن کی کوہاں ہے اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اسی اسی (۸۰) فرشتے نازل ہوتے تھے اور بالخصوص آیت الکریٰ تو خاص عرش تک نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئی۔ سورہ نیمیں قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخوند طلبی کے لئے پڑھنے سے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔“ (مند احمد) اس حدیث کی سند میں ایک جگہ عن رحل ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ لیکن مند احمد ہی کی دوسری روایت میں اس کا نام ابو عثمان اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آنکوں کی سردار ہے اور وہ آیت ”آیت الکریٰ“ ہے مند احمد صحیح مسلم ترمذی اورنسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترمذی کی ایک ضعیف سند والی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے آیا ہے یہ حدیث اسی طرح ابو داؤد ونسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس حدیث کے ایک ضعیف سند والی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آنکوں کی سردار ہے اور وہ آیت ”آیت الکریٰ“ ہے مند احمد صحیح مسلم ترمذی اورنسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی کو امام ترمذی بن عین تو نقہ بتلاتے ہیں لیکن امام احمد وغیرہ ان کی حدیث کو منکر کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول مقول ہے۔ اسے نمائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

امن مردویہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ بیرون پر پیرو چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو! جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے سب گھروں میں بذریعن اور ذمیں ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے امام نمائی نے عمل الیوم واللیلہ میں بھی اسے وارد کیا ہے مندداری میں حضرت اس مسعودؓ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا حصل ہوتا ہے اور قرآن کا حصل مفصل سورتیں ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا

فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی بھلی چار آسمیں اور آسیں اس کے بعد کی اور تین آسمیں سب سے آخر کی یہ سب دس آسمیں رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اسے اور اس کے گھروں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز سنا نہیں سکتی۔ یہ آسمیں مجذون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں ”جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔“ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تین راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو تین دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔“ (طبرانی۔ ابن حبان۔ ابن مردویہ) ترمذی۔ نسائی اور ابن الجہن میں ہے کہ حضور نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھجا اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ دیا دے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا، میں بھی اسے یاد کر لیتا لیکن ذرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور نے فرمایا، قرآن یک گھوڑہ قرآن پڑھو جو شخص اسے سیکھتا ہے پڑھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برلن جس کی خوبیوں ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برلن کی کسی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ (امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں اور مرسل روایت بھی ہے) و اللہ عالم۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، ان کا گھوڑا جوان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا، کوڈنا اور بد کنا شروع کیا۔ آپ نے قرأت چھوڑ دی۔ گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ گھوڑے نے بھی پھر بد کنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک شاک ہو گیا۔ تیسرا مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے تجھی گھوڑے کے پاس ہی لیٹھے ہوئے تھے اس لئے ذر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوت نہ آجائے، قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھایا۔ آسان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ صحیح حضور کی خدمت میں آ کرو اقدبیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں پھر ”اسید پڑھتے چلے جاؤ“ حضرت اسید نے کہا حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو تجھی کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے اور اس میں چاغوں کی طرح کی روشنی ہے بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اور پر کوٹھگی۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے جو تمہاری آواز کوں کر قریب آگئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقف نہ کرتے تو وہ صح تک یونہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ و اللہ عالم۔

اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ گذشتہ رات ہم نے دیکھا، ساری رات حضرت ثابت کا گھر نور کا بقہ بنا رہا اور چکدار روشن چاغوں سے جگگا تارہا۔ حضور نے فرمایا شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہو گی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ”بچ ہے۔ رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔“ اس کی اتنا وقتو بہت عمدہ ہے کہ راس میں ابھاام ہے اور یہ مرسل بھی ہے۔ و اللہ عالم۔

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت: ☆☆ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ”سورہ بقرہ یکھوڑا کو حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادو گر اس کی طاقت نہیں رکھتے“ پھر کچھ درج چہ رہنے کے بعد فرمایا ”سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یک گھوڑی دنوں نورانی سورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈی کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی، قرآن پڑھنے والا جب قبرتے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں تو وہ جواب

دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسار کھا تھا اور ان توں کو بستر سے دور بیدار کھا تھا، ہر ترا جراپنی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں اب اس کے رہنے کے لئے سلطنت دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے باسیں ہاتھ میں اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے بیچ ہو گی وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخراں رحم و کرم اور اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے پیچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر یقینت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنث کے درجے پر چڑھتا جا، چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے پر ہتھا جائے گا خواہ ترتیل سے پڑھے یا بے ترتیل۔

ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مردی ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے اور شرط مسلم ہے۔ اس کے راوی بشیر ابن مجہ سے امام مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معینؓ اسے ثقہ کہتے ہیں۔ نسائیؓ کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد سے مذکور الحدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجب عجب حدیثیں لاتا ہے۔ امام بخاریؓ فرماتے ہیں، اس کی بعض احادیث سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ ابو حاتم رازیؓ کا فصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں لیکن ان سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔ ابن عدیؓ کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی متابعت نہیں کی جاتی۔ دارقطنیؓ فرماتے ہیں، یہ تو ہی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی اس روایت کے بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔

مسند احمد میں ہے۔ قرآن پڑھا کر کوئی اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دونوں اسی سورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو۔ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا یہ دوسرا بیان ہیں یا دوسرے ہیں یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر حضورؐ نے فرمایا "سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حرمت ہے۔ اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں، صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے "قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پرور ڈگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔" مسلم اور ترمذیؓ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذیؓ اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعبؓ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں اللہ کا دہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعبؓ سے عرض کی کہ مجھے بتائیے وہ نام کونسا ہے؟ حضرت کعبؓ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا، اگر میں بتاؤں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعائیہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دھکلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر دوسرا بزرگ درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آرہی ہیں کہ کیا تم میں کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی سورہ آل عمران کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ "ہاں" تو وہ دونوں درخت اپنے چکلوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر اٹھایتے ہیں۔

حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوی کو مارڈا۔ پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا۔ پس قرآن کریمؓ ایک ایک سورت ہو ہو کر الگ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ رہ گئیں۔ ایک جمہ

کے بعد سورہ آل عمران چلی گئی۔ پھر ایک جمع گذر آتو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتیں اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا جنا چھپے مبارک سورت یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں اس کی طرف سے بلااؤں اور عذابوں کی آڑ بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی دلبوچی کرتی رہیں اور سب سے آخر اس کے گناہوں کی زیادتی کے سبب ان کی سفارش نہ چلی۔ یہید بن اسود جرشی کہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کو دون میں پڑھنے والا دون بھر میں نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت یزید اپنے معمولی وظیفہ قرآن کے علاوہ ان دونوں سورتوں کو صح شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ان دونوں سورتوں کو رات پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نزد یہکہ وہ فرمانبرداروں میں شامل ہو گا۔ اس کی سند منقطع ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں سورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا۔

سات لمبی سورتوں کی فضیلت: ☆☆☆ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: مجھ کو سات لمبی سورتیں توریت کی جگہ دی گئی ہیں اور انہیں کی جگہ مجھ کو دوہ سو آیتوں والی سورتیں ملی ہیں اور زبور کے قائم مقام مجھ کو دو سو سے کم آیتوں والی سورتیں دی گئی ہیں اور پھر مجھے فضیلت میں خصوصاً سورۃ قی سے لے کر آخونک کی سورتیں ملی ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی سعید بن ابو شیر کے بارہ میں اختلاف ہے۔ ابو عبید نے اسے دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص ان سات سورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ یہ روایت بھی غریب ہے۔ سند احمد میں بھی یہ روایت ہے ایک مرتبہ حضور نے ایک لشکر بھیجا اور ان کا امیر انہیں بنیاء جنہیں سورہ بقرہ یا واقعی حلال نکل وہ ان سب میں چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر تو وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُتَنَاثِرِ کی قفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی سات سورتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ النساء سورہ نکدہ سورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد مکھوں عطیہ بن قبیل، ابو محمد فارسی، شداد بن اوس، سعید بن حارثہ ذماری سے بھی یہی مقول ہے۔

مقام نزول: ☆☆☆ سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور شروع شروع جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے البتہ اس کی ایک آیت وَأَنْقَوْا يَوْمًا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ سب سے آخر نازل شدہ بتائی جاتی ہے یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ نازل بعد میں ہوئی ہو لیکن اسی میں ہے۔ اور اسی طرح سو دی حرمت کی آیتیں بھی آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت خالد بن معدان سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمه کہا کرتے تھے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں ایک ہزار خبریں ہیں اور ایک ہزار حکم ہیں اور ایک ہزار کاموں سے ممانعت ہے، اس کی آیتیں دو سو تاسی ہیں۔ اس کے کلمات چھ ہزار دو سو ایکس ہیں۔ اس کے حروف ساڑھے بچیکس ہزار ہیں۔ واللہ اعلم۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے ○

اہن عہد فرماتے ہیں یہ سورت مدینی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر اور حضرت یزید بن ثابت اور بہت سے ائمہ علماء اور مفسرین سے بھی بلا اختلاف بھی مردی ہے۔ اہن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء وغیرہ نہ کہا کرو بلکہ یوں کہو کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے وہ سورت جس میں آل عمران کا بیان ہے اور اسی طرح قرآن کی سب سورتوں کے نام لیا کرو۔ لیکن یہ حدیث

غیریب ہے بلکہ اس کا فرمان رسول ہونا ہی صحیح نہیں۔ اس کے راوی عیسیٰ بن میمون ابوسلمہ خواص ضعیف ہیں۔ ان کی روایت سے سند نہیں لی جاسکتی۔ اس کے برخلاف بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنکر پھیکئے۔ بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور منی دائیں طرف۔ اور فرمایا اسی جگہ سے کنکر پھیکئے تھے رسول اللہ ﷺ نے جن پر سورہ بقرہ اتری ہے۔ گواں حدیث سے صاف ثابت ہو گیا ہے کہ سورہ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے۔ لیکن مزید سنتے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب آنحضرت نے اپنے اصحاب میں کچھ سستی دیکھی تو انہیں یا اصحاب سورہ بقرہ کہہ کر پکارا۔ غالباً یہ غزوہ حنین والے دن کا ذکر ہے جب لشکر کے قدم الکھڑے تھے تو حضور کے حکم سے حضرت عباس نے انہیں درخت والو اور اے سورہ بقرہ والو کہہ کر پکارا تھا تاکہ ان میں خوشی اور دلیری پیدا ہو۔ چنانچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ ہر طرف سے دوڑ پڑے۔ مسیلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ لڑنے کے وقت بھی جب قبیلہ بنو حنفیہ کی جیروں دستیوں نے پریشان کر دیا اور قدم ڈگ کا گئے تو صحابہ نے اسی طرح لوگوں کو پکارا۔ یا اصحاب سورہ البقرہ اے سورہ بقرہ والو اس آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے اور جم کر لڑے یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو قُتْلَہ دی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے سب صحابہ سے خوش ہو۔

حروف مقطعات اور ان کے معنی: ☆☆ (آیت: ۱) اللّم جبے حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے اول میں آئے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں اور کسی کو معلوم نہیں۔ اس لئے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطیٰ نے حضرت ابو بکر، حضرت عز، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین سے ہی نقل کیا ہے عامر، عُسُنی، سفیان ثوری، رجع بن خشم، حبیم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن جبان کو بھی اسی سے اتفاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں، یہ سورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشیری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیبو یہ نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں اللہ السجدہ اور هل اتنی علی الانسان پڑھتے تھے۔ حضرت مجاهد فرماتے ہیں اللّم اور حم اور المض اور ض یہ سب سورتوں کی ابتداء ہے جن سے یہ سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی مقول ہے کہ اللّم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبدالرحمن بن زید اسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ اس لئے کہ ہر سورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام المض ہو کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورہ المض پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورہ اعراف پڑھی نہ کہ پورا قرآن۔ واللہ اعلم۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت شعب سالم بن عبد اللہ اسماعیل بن عبد الرحمن سدی کبیر بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ام اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے اور روایت میں ہے کہ حم، طس اور الم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے یہ مردی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں، یہ قسم ہے۔ ابن عباس سے یہ بھی مردی ہے کہ اس کے معنی انّا اللّه أَعْلَم میں یعنی میں ہی ہوں اللہ زیادہ جانتے والا۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔ ابوالعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تین حرف الف اور لام اور میم انتیس حروف میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے

ہر ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلاتھا کے اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے۔ ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے اور لام سے اس کا نام طیف شروع ہوتا ہے اور نیم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے اور الف سے مراد الاء یعنی نعمتیں ہیں اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا الطف ہے اور نیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد ایک سال ہے۔ لام سے تیس سال اور نیم سے چالپس سال (ابن الی خاتم)

امام ابن جریرؓ نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ ہو سکتا ہے یہ سورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے شروع کے الفاظ بھی ہوں اور ان میں سے ہر ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ اور اس کی صفتیں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہو۔ ایک ایک لفظ کئی کئی معنی میں آتا ہے۔ جیسے لفظ اُمّة کے اس کے ایک معنی ہیں دین جیسے قرآن میں ہے اَنَا وَجَدْنَا اَبَانَا عَلَى اُمَّةٍ هم نے اپنے باپ دادوں کو اسی دین پر پایا۔ دوسرے معنی ہیں۔ اللہ کا اطاعت گزار بندہ جیسے فرمایا اَنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً يَعْنِي حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار اور مخلص بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیرے معنی ہیں جماعت جیسے فرمایا اَنَّ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً يَعْنِي ایک جماعت کو اس کنوں پر پانی پلاتے ہوئے پایا اور جگہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا یعنی ہم نے ہر جماعت میں کوئی رسول یقیناً بھیجا۔ چوتھے معنی ہیں مدت اور زمانہ فرمان ہے وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةً يَعْنِي ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ پس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوئے، اسی طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطوعہ کے بھی کئی معنی ہوں۔ امام ابن جریر کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابوالعلائیؓ نے تجویز کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ، ان سب معنی میں ہے اور لفظ امت وغیرہ جو کئی کئی معنی میں آئے ہیں جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشترک کہتے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں جو عبارت کے قرینے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے اور سب کو ایک ہی جگہ محو کرنے کے مسئلہ میں علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے اور ہمارے تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے۔ واللہ اعلم۔ دوسرے یہ کہ امت وغیرہ الفاظ کے معنی ہی بہت سارے ہیں اور یہ الفاظ اسی لئے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اور نشت الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے جو دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو نہ تو مقدار ماننے سے نہ ضمیر دینے سے نہ وضع کے اعتبار سے اور نہ کسی اور اعتبار سے۔ ایسی بات علمی طور پر تو نہیں سمجھی جاسکتی البتہ اگر منقول ہو تو اربات ہے لیکن یہاں اختلاف ہے۔ اجماع نہیں ہے۔ اس لئے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔ اب بعض اشعار عرب کے جو اس بات کی دلیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔ ایک کلمہ کو بیان کرنے کے لئے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے۔ ایک حرف کے بولنے کی پورا کلمہ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن یہاں ایسا بھی نہیں۔ واللہ اعلم۔ قرطی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان قتل پر آدھے کلمہ سے بھی مدد کرے مطلب یہ ہے کہ قتل پورا نہ کہے۔ بلکہ صرف اق کہے۔ مجاہد کہتے ہیں۔ سورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں مثلاً ق، ص، حَمْ، طَسَّمْ، الْرَّ وغیرہ یہ سب حروف ہجاء ہیں۔ بعض عربی دان کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو اٹھائیں ہیں ان میں سے چند ذکر کر دیئے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے جیسے کوئی کہہ کہ میرا بیٹا بست لکھتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام اٹھائیں حروف لکھتا ہے لیکن ابتداء کے چند حروف ذکر کر دئے باقی کو چھوڑ دیا۔ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل چودہ حروف آئے ہیں ال م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نَصَّ

حکیم قاطع لہ سر تعداد کے لفاظ سے یہ حروف چودہ ہیں اور جملہ حروف اٹھائیں ہیں۔ اس لئے یہ آدھے ہوئے۔ بقیہ حروف کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ حروف ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور یہ صناعت تصریف ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ ختنی قسم کے حروف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں آگئیں یعنی مہوسہ مجبورہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے یہ یقینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغوی یہودہ بیکار بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں وہ بالکل خطا پر ہیں۔ اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی مصوم ﷺ سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے ورنہ جہاں کہیں حضور نے کچھ معنی بیان نہیں کئے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لا سیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضورؐ سے تو اس میں یہیں کچھ نہیں ملا اور علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی پر کسی قول کی دلیل محل جائے تو خیر وہ اسے مان لے ورنہ بہتر یہ ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوئے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے سورتوں کی ابتداء معلوم ہو جائے لیکن یہ وجہ ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے بغیر ہی سورتوں کی جملائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن سورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں، کیا ان کی ابتداء انہما معلوم نہیں؟

پھر سورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک سورت کو دوسری سے جدا نہیں کرتا؟ امام ابن حجرینے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ تھے، اس لئے انہیں سنانے کے لئے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب ان کا دھیان کان لگ جائے تو باقاعدہ تلاوت شروع ہو، لیکن یہ وجہ بھی بودی ہے اس لئے اگر ایسا ہوتا تو تمام سورتوں کی ابتداء بھی حروف سے کی جاتی حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اکثر سورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو بھی حروف چاہیں۔ نہ کہ صرف سورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں۔ پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ یہ سورت یعنی سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی سورت یعنی سورہ آل عمران یہ توبیدینہ شریف میں نازل ہوتی ہیں اور مشرکین مکہ ان کے اتنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں۔ پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ ہاں یہاں پر ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک مجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روزمرہ کے استعمالی حروف سے ترکیب دیئے گئے ہیں لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نزالے ہیں۔ مبردا و محققین کی ایک جماعت اور فراء اور قطرب سے بھی یہی منقول ہے۔ زمخشri نے تفسیر کشاف میں اس قول کو نقل کر کے اس کی بہت کچھ تائید کی ہے۔ شیخ امام علامہ ابوالعباس حضرت امین تیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ مجتہد ابوالحانج مزی نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشri فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھے نہیں آئے۔

ہاں ان حروف کو مکرر لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لا جواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھکایا جائے۔ جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی کئی مرتبہ لائے گئے ہیں اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا ہے جیسے ص ن ق، کہیں دو حروف آئے ہیں جیسے حم، کہیں تین حروف آئے ہیں جیسے الْم، کہیں چار آئے ہیں جیسے الْمَر اور الْمَص اور کہیں پانچ آئے ہیں جیسے كَهْيَعَص اور كَهْمَعَسَق اس لئے کلمات عرب کے کل کے کل اسی طرح پر ہیں یا تو ان میں ایک حرفی لفظ ہیں یا دو حرفی یا سارے حرفی یا چار حرفی یا پانچ حروف کے پانچ حروف سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ یہ حروف قرآن شریف میں بطور مجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہوا اور قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو چنانچہ ایسا ہی انتیس سورتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے۔

سنے فرمان ہے اللہ ڈلک کِتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ يَمَّا بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کے اللہ جل شانہ کا کلام ہونے میں کوئی مشکل نہیں اور جگہ فرمایا اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ اللَّهُ جَسَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، جوز نہ اور دوام و الا ہے جس نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے۔ وہ پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اور جگہ فرمایا التَّعْصَمُ كِتَبٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْتَ يَعْنِي یہ کتاب تیری طرف اتاری گئی ہے تو اپنا دل تھک نہ رکھ۔ اور جگہ فرمایا الرَّكِتَبُ أَنْزَلَنَا إِلَيْكَ أَنْتَ یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے انہیں دل سے نکال کر جا لے میں لائے۔

ارشاد ہوتا ہے اللہ تَنْزِيلُ الْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی مشکل و شبہ نہیں۔ فرماتا ہے خَمَّ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بخششوں اور مہربانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے خَمَّ عَسْقَ كَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ أَنْ يَعْنِي اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ غالب، حکمتوں والا تیری طرف اور ان نبیوں کی طرف جو تجوہ سے پہلے تھے۔ اسی طرح اور ایسی سورتوں کے شروع کو بغور دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت و عزت کا ذکر ہے جس سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لئے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے لئے معارضے اور مقابلے سے عاجز ہیں۔ واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے اور فتنوں، لڑائیوں اور دوسرے ایسے ہی کاموں کے اوقات تلاٹے گئے ہیں لیکن یہ تو بھی بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اول تو وہ ضعیف ہے دوسرے اس حدیث سے اس قول کی وجہ کی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث محمد بن اسحاق بن یمارؓ نے نقل کی ہے جو تاریخ کے مصنف ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو یاسر بن الخطب یہودی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

آپؑ اس وقت سورہ بقرہ کی شروع آیت اللہ ڈلک کِتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ أَنْ تَلَاوَتْ فرمارے تھے وہ اسے سن کر اپنے بھائی حی بن الخطب کے پاس آیا اور کہا میں نے آج حضورؐ کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنائے۔ وہ پوچھتا ہے تو نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حی ان سب یہودیوں کو لے کر پھر حضورؐ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضورؐ کیا یہ حق ہے کہ آپؑ اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ آپؑ نے فرمایا "ہاں حق ہے، اس نے کہا سئے۔ آپؑ سے پہلے جتنے بی آئے کسی کو بھی نہیں بتالیا گیا تھا کہ اس کا ملک اور مذہب کب تک رہے گا لیکن آپؑ کو تلا دیا گیا۔ پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا "سواناف کا عدد ہوا، ایک لام؟ کے تین، میم کے چالیس، کل اکھڑہ ہوئے۔ کیا تم اس بی بی کی تابعداری کرنا چاہتے ہو جس کے ملک اور امت کی مدت کل اکھڑہ سال ہو پھر حضورؐ کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ آپؑ نے فرمایا، ہاں، الحص کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور بہت بھی ہے۔ الف کا ایک لام کے تین، میم کے چالیس، صواد کے نوئے یہ سب ایک سو اکٹھ سال ہوئے۔ کہا اور کوئی بھی ایسی آیت ہے۔ آپؑ نے فرمایا، ہاں "الر" کہنے لگا، یہ بھی بہت بھاری اور بھی ہے۔ الف کا ایک لام کے تین اور رے کے دوسو۔ جملہ دسو اکٹیس برس ہوئے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی بھی ہے؟ آپؑ نے فرمایا، ہاں المر ہے۔ کہا یہ تو بہت بھی بھاری ہے الف کا ایک لام کے تین، میم کے چالیس اور رے کے دوسو سب مل کر دو سو اکھڑہ ہو گئے۔ اب تو کام مشکل ہو گیا اور بات خلط ملٹھ ہو گئی۔ لوگوں اخھو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء یہود سے کہا۔ کیا عجب کہ ان سب حروف مجموع کی مدت حضرت محمد ﷺ کو طاہرؓ اکھڑا ایک ایک سو اکٹھا ایک، دو سو اکٹیس ایک، دو سو اکھڑا ایک یہ سب مل کر سات سو چوتیس برس ہوئے۔ انہوں نے کہا، اب کام خلط ملٹھ ہو گیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں ہوں گے اُنَّمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَيُّثُ مُحْكَمٌتُ أَنْ لَا يَعْنِي وَهِيَ اللَّهُ جَسَنَ نَّزَّلَ تَحْقِيقًا بِرَبِّ كِتَابٍ نَّازِلَ فِيمَا جَسَنَ مِنْ حَكْمٍ آتَيْتُمْ بِيْسِ اور دوسرا آیتیں مشاہدہ والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دارود مدار محمد بن سائب کلبی پر ہے اور جس حدیث کا یہ اکیلا راوی ہو، محدثین اس سے جھٹ نہیں پکڑتے اور پھر اس طرح اگر مان لیا جائے اور ہر ایسے حرف کے عدوانکا لے جائیں تو جن چودہ حروف کو ہم نے پیاں کیا، ان کے عدالت ہوتے ہو جائیں گے اور جو حروف ان میں سے کئی کپنی پا رائے ہیں اگر ان کے عددا کا شمار بھی کئی کپنی پا رکایا جائے تو بہت ہی بڑی کتنی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

## ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی علک نہیں پہنچ گاروں کو راہ دکھانے والی ہے ۰

تحقیقات کتاب: ☆☆ (آیت: ۲): حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہاں ذالک معنی میں ”ہدأ“ کے ہیں۔ مجاهد عکرمہ، سعید جبیہ سدی، مقاتل بن حباب، زید بن اسلم اور ابن جریرؓ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہؓ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالک اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لئے جس کے معنی ہیں وہ لیکن کبھی نزدیک کے لئے بھی لاتے ہیں۔ اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ”یہ“ یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ زختری کہتے ہیں اس سے اشارہ الہم کی طرف ہے جیسے اس آیت میں ہے لا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَهُنَّى نَّلَوْدَةً گائے بڑھیا ہے نہ بچ ہے بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ذلِكُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ بِيَنْكُمْ یہ یعنی ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتا ہے۔ اور جگہ فرمایا ذلِكُمُ اللَّهُ یہ یعنی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مثال اور موقع پہلے گزر چکے۔ واللہ اعلم۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے جس کے اتار نے کا وعدہ رسول اللہ ﷺ سے ہوا تھا۔ بعض نے تواتر کی طرف، کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے اور اسی طرح کے دو قول ہیں لیکن ان کو کوئی مفسرین نے ضعیف کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، انہوں نے انتہائی بھول بھیلوں کا راستہ اختیار کیا، بدی تکلیف اٹھائی اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریب کے معنی میں شک و شبہ۔ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن مسعودؓ اور کئی ایک صحابہ سے یہی معنی مروی ہیں۔ ابو درداء، ابن عباس، مجاهد سعید بن جبیر، ابو مالک نافع جوابن عمر کے مولا ہیں۔ عطا، ابوالعالیٰ، ریج بن حیان، سدی، قادة، اسماعیل بن ابو خالد سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، مفسرین میں اس میں اختلاف نہیں۔ ریب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملہ کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں۔ جیسے سورہ سجدہ میں ہے اللَّهُ تَنْزَّلِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی بیشک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کی طرف سے ہے یعنی اس میں شک نہ کرو۔ بعض قاری لاریب پر وقف کرتے ہیں اور فیہ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کو الگ جملہ پڑھتے ہیں لیکن لاریب فیہ پر تھہرنا بہت بہتر ہے کیونکہ بھی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں موجود ہے اور اس میں نسبت فیہ هُدًی کے زیادہ مبالغہ ہے۔ ہدی خوبی اعتبار سے صفت ہو کر مفروغ ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہدایت کو تدقین کے ساتھ مخصوص کیا گیا جیسے دوسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّهِ الْمُنَّا هُدًى وَ شَفَاءً اَنْ لَّمْ يَنْتَهِ قُرْآن بِدَائِتٍ اور شفا ہے ایمان والوں کے لئے اور بے ایمانوں کے

کان بوجمل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں یہ بہت دور سے پکارتے ہیں اور فرمایا وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اُخْ لِيْعِنَ يَقْرَأُنَ ایمان داروں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی مضمون کی اور آیتیں ہیں ہیں۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لئے ہے لیکن اس ہدایت سے نفع الحاضرے والے صرف یک بخت لوگ ہیں جیسے فرمایا تائیہا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّکُمْ اُخْ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور یعنی کی بیماریوں کی شفاء آچکی جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ابن عباسؓ این مسعودؓ اور بعض دیگر صحابہؓ سے مردی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے اسی عباسؓ فرماتے ہیں:

متقین کی تعریف: ☆☆☆ متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجالائیں۔ ایک اور روایت میں ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جوانzel ہوا سے چا جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں ”متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجالائے۔ حضرت اعمشؓ حضرت ابو بکر بن عیاش سے سوال کرتے ہیں ”متقی کون ہے؟ آپ یہی جواب دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ”ڈرا حضرت کلبی سے بھی تو دریافت کرلو!“ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَفْفِ اُخْ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ اب ابی حاتم میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبکہ لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لئے جائیں گے اس وقت ایک لپکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے جا بائیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ابو عفیف نے پوچھا، حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ آپؓ نے فرمایا جو لوگ شرک سے بہت پتی سے بچیں اور اللہ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔

ہدایت کی وضاحت: ☆☆☆ ہدایت کے معنی بھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں۔ ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ جل و علا کی مہربانی کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ لِيْسَ اے نبی جسے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرماتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ تَجْهِيزٌ پر ان کی ہدایت لاذم نہیں۔ فرماتا ہے مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ جَسَّ اللَّهِ كَرَأَ اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ فرمایا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ اُخْ لِيْعِنَ جسے اللہ ہدایت دئے وہی ہدایت والا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کا نکوئی دلی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں اور ہدایت کے معنی بھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے کے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یعنی تو یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور فرمایا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِيْعِنِ تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لئے کوئی بادی ہے اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا تَهْوُدُ فَهَدَيْنَهُمْ اُخْ لِيْعِنَ ہم نے شمودیوں کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔۔۔

ہدایت کی وضاحت: ☆☆ ہدایت کے معنی بھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں۔ ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ جل و علا کی مہربانی کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ فرمان ہے انکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَّتْ لِعْنَى اَنْ يَجِدَ هدایت ہے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرماتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰ هُمْ تَحْمَلُهُمْ فَرَما تا ہے مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ ہے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ فرمایا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ إِلَّا يَعْنِي ہے اللہ ہدایت دے دیں ہدایت والا ہے اور ہے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کا نہ کوئی دلی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں اور ہدایت کے معنی بھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے کے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِعِنِّي تو یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور فرمایا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلٌّ قَوْمٌ هَادِيٌ لِعِنِّي تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لئے کوئی ہادی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا ثُمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَّا يَعْنِي ہم نے ثُمُود یوں کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے انہے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُنَّ النَّجَدِينَ ہم نے اسے دونوں راہیں دکھائیں یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقویٰ کے اصلی معنی بری چیزوں سے بچنے کے ہیں۔ اصل میں یہ ”تقویٰ“ ہے۔ وقایت سے ماخوذ ہے، نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابن عبّا سے حضرت عمر بن خطابؓ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کائنوں دار راستے میں چلے ہو؟ جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی معتبر شاعر کا قول ہے۔

خَلِ الْذُنُوبَ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا ذَاكَ التَّقِيُّ  
وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوقَ أَرْضِ الشُّوكِ يَحْذِرُ مَا يَرَى  
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَهَا إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصْنِ

یعنی چھوٹے اور بڑے اور سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ بھی تقویٰ ہے۔ ایسے رہو جیسے کائنوں والی راہ پر چلنے والا انسان۔ چھوٹے گناہ کو بھی ہلکانے جانو۔ دیکھو پہاڑ نکلوں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو دراءؓ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں انسان اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتا ہے اور اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا حالانکہ ہوتا ہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دینی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ سے تقویٰ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ذرہ ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھئے وہ اسے خوش کر دے اور جو حکم دئے اسے بجالائے اور اگر قدم دے دے تو پوری کردکھائے اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔

## الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

بُولوگ غیر پر ایمان لاتے ہیں

ایمان کی تعریف: ☆☆ حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں، ایمان کی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابن عباسؓ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت زہریؓ فرماتے ہیں، ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ریچ بن انسؓ کہتے ہیں، یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں۔ یہ سب اقوال مل جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ زبان سے دل سے عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ذرہ رکھتے ہیں۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر اس کی کتابوں پر، اس کے اصولوں پر ایمان لانا شامل ہے اور اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنا لازم ہے۔ میں کہتا ہوں، لفت

میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا یوْمُنْ بِاللَّهِ وَيُوْمُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جہاں یوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ وَمَا أَتَىٰ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سے ہوں۔ اس طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جیسے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہوتا ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے بلکہ امام شافعی امام احمد اور امام ابو عبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا۔ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے اور اس کے ثبوت میں آہات اور حدیثیں بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کر دی ہیں۔ فالمحمد للہ۔

بعض نے ایمان کے معنی اللہ سے ڈر خوف کے بھی کے ہیں۔ جیسے فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ جو لوگ اپنے رب سے در پردہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا مِنْ خَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے۔ حقیقت میں اللہ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے۔ جیسے فرمایا إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمُوا جو بندے ذی علم ہیں، صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایمان دار ہونا ظاہر کریں لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان منافقین کا حال اور جگہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ اخْرُجُنَّ مُنَافِقَ جب تیرے پاں آئیں گے تو کہیں گے کہ ہماری تہہ دل سے شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ خوب جاتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق تھے جس سے جھوٹ کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال تھہرے گا یعنی وہ ایمان لاتے ہیں درآں حالی کے لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابوالعلیٰ فرماتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر، قیامت پر جنت دوزخ پر ملاقات اللہ پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ قادہ ابن دعامة کا یہی قول ہے۔ ابن عباسؓ ابن سعوؓ اور بعض دیگر اصحاب سے مردی ہے کہ اس سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظرلوں سے اوچھل ہیں جیسے جنت دوزخ وغیرہ وہ امور جو قرآن میں نہ کہوں ہیں۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت ابوذر گفرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ عطا ابن ابو ربانؓ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالدؓ فرماتے ہیں اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں مراد ہیں۔ زید بن اسلمؓ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ پس یہ تمام اقوال معنی کی رو سے ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب پر مشتمل ہے اور ان سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت عبد اللہ بن سعوؓ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہؓ کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپؐ فرماتے ہیں، حضورؐ کے دیکھنے والوں کو تو آپؐ پر ایمان لانا ہی تھا لیکن خدا کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپؐ نے آلمؐ سے لے کر مُفْلِحُوْنَ تک آئیں پڑھیں (ابن ابی حاتم۔ ابن مردویہ۔ متدک۔ حاکم) امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔

مند احمد میں بھی اس مضبوط کی ایک حدیث ہے ابو جعہ صحابیؓ سے ابن محربیؓ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضورؐ کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپؐ پر اسلام لائے۔ آپؐ

کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے۔ مجھ پر ایمان لا کیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جعفر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجاء من حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں پہچانے کو ساتھ چلے جب الگ ہونے لگے تو فرمایا، تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہئے۔

سنوا! میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے ضرور سناؤ۔ کہا سناؤ، ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، ہم دس آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے، ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری کی۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہ کرتے؟ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، وحی الہی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہو گا جو تمہارے بعد آئیں گے۔ دو گتوں کے درمیان یہ کتاب پا کیں گے، اس پر ایمان لا کیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ اس حدیث میں ”وجادہ“ کی قبولیت کی دلیل ہے جس میں حدیث کا اختلاف ہے۔ میں نے اس مسئلہ کو بخاری شریف میں خوب واضح کر دیا ہے۔ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت کی وجہ سے ہے ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، تمہارے زندگی ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے، انہوں نے کہا، فرشتے۔ فرمایا، وہ ایمان کیوں نہ لائیں۔ وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا، انیاء، فرمایا، وہ ایمان کیوں نہ لائیں ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے؟ جب کہ میں تم میں موجود ہوں سنوا! میرے زندگی سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پا کیں گے، اس پر ایمان لا کیں گے، اس کی سند میں مغیرہ بن قیس ہیں۔ ابو حاتم رازیؒ انہیں منکر الحدیث بتلاتے ہیں لیکن اسی کے مثل ایک اور حدیث ضعیف سند سے مند ابو یعلیٰ تفسیر ابن مردویہ متدرک حاکم میں بھی مردی ہے اور حاکم اسے صحیح بتاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالکؓ سے بھی اسی کے مثل مرفوع عارضی ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت بدیلہ بنت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ ہنوارش کی مسجد میں ہم ظہر یا عصر کی نماز میں تھے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا، دور کعت ادا کرچکے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ نبی ﷺ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے۔ عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے اور باقی کی دور کتعیں ہم نے بیت اللہ شریف کی طرف ادا کیں۔ جب حضور کو یہ بخوبی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حدیث اس اسناد سے غریب ہے۔

## وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَنْهَا رَزَقْنَاهُمْ يُنِيفُقُونَ

اور قائم رکھتے ہیں نمازو کو اور ہمارے روئے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں ॥

قیام صلوٰۃ کیا ہے؟ ☆☆ (آیت: ۳) ابن عباسؓ فرماتے ہیں فرائض نماز بجالانا۔ رکوع، سجدة، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قائدہ کہتے ہیں، وقت کا خیال رکھنا، خصوصاً چھپی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقتامت صلوٰۃ ہے۔ مقائل کہتے ہیں، وقت کی تنبہبانی کرنا۔ مکمل طبارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا۔ التعبات اور درود پڑھنا اقتامت صلوٰۃ ہے۔ ابن عباسؓ

فرماتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباسؓ ابن مسعودؓ اور بعض صحابہؓ نے کہا ہے اس سے مراد آدمی کا اپنے بال پھول کو کھلانا پڑتا ہے۔ خرچ میں قربانی دینا جو قرب الہی حاصل کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ اپنی استعداد کے مطابق بھی شامل ہے جو زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی سات آیتیں جو سورہ برات میں ہیں، ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میرہ ہو دیتے رہیں۔

**قادہ** فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ عنقریب تم سے جدا ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ امام ابن حجر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے۔ زکوٰۃ میں اہل و عیال کا خرچ اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے، اس لئے کہ پروردگار نے ایک عام و صفت بیان فرمایا اور عام تعریف کی ہے لہذا اہر طرح کا خرچ شامل ہو گا۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر کر لاجلا آتا ہے اس لئے کہ نماز اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید اس کی شنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرچ کرنا مغلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں فتح پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں۔ پھر دور والے اجنبی۔ لہذا تمام واحب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔

حصین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی دینا۔ نماز قائم کھنا۔ زکوٰۃ دینا۔ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ عربی لغت میں صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعر پر مشاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس لفظ کا استعمال نماز کے لئے ہونے لگا جو رکوع، تکبید اور درسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرعاً لاط صفات اور اقسام کے ساتھ بجالائی جاتی ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں۔ صلوٰۃ کو نماز اس لئے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو دورگیں پیٹھ سے لے کر ریڑھ کی بڑی کی دونوں طرف آتی ہیں، انہیں عربی میں صلوٰین کہتے ہیں چونکہ نماز میں یہ ہوتی ہیں اس لئے نماز کو صلوٰۃ کہا گیا ہے۔ لیکن یہ قول تھیک نہیں۔ بعض نے کہا ہے یہ ما خوذ ہے ملی سے جس کے معنی ہیں جو حکم جانا اور لازم ہو جانا جیسے قرآن میں لا يَصْلُهَا أَلْيَمِنِ جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بد بخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لئے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تَصْلِیة کہتے ہیں۔ چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی بکھی کو نماز سے درست کرتا ہے اس لئے اسے صلوٰۃ کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِنَّمَا نَهَا هُنْزَهُرٌ بِهِ حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہوتا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے واللہ اعلم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث ان شاء اللہ اور جگہ آئے گی۔

**وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ  
هُمُّ يُوقِنُونَ**

اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تھے پہلے اتارا گیا اور آختر پر بھی یقین رکھتے ہیں ۰

**اعمال مومن:** ☆☆ (آیت: ۳۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تھجھ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا، ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو مانیں اور کسی سے انکار کریں بلکہ اپنے رب کی سب باقول کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت

چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لئے اس سے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی؛ انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ایمان دار خواہ عرب مونین ہوں خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد ابوالعالیہ رجیب بن انس اور قادہ کا یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ دونوں ہیں تو ایک مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہو گا اور صفتیں پر ہو گا جیسے سَبِّحَ الْسَّمَاءَ الْخَمْرَ مِنْ صَفْقَوْنَ کا عطف صفتیں پر ہے اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ تیرا قول یہ ہے کہ یہی صفتیں تو یہی عرب مونین کی اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْخَمْرَ سے مراد اہل کتاب مونین کی صفتیں ہیں۔ سدیٰ نے حضرت ابن عباسؓ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیا ہے اور ابن جبیر نے بھی اسی سے اتفاق کیا ہے اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ إِلَّا يُعْنِي أَهْلَ كِتَابٍ مِّنْ أَنْ يَأْتِيَ لَوْكَ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس وحی پر جو اس سے پہلے ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ إِنْ يَعْنِي جنمیں اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے اور جب ان کو (یہ قرآن) پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں۔ ہم اس پر بھی ایمان لاتے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بد لے بھلانی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دو ہر اجر ملے گا۔

بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، تین شخصوں کو دو ہر اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لا میں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے ماں کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لوگوں کو اچھا ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ امام جیریؒ کے اس فرق کی میانگین اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورت کے شروع میں موننوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے تو جس طرح کفار کی دوستیں ہیں کافروں میانگین اسی طرح موننوں کی بھی دوستیں ہیں۔ عربی مونن اور کتابی مونن۔ میں کہتا ہوں ظاہر ایہ ہے کہ حضرت مجاہدؓ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی اول چار آیتیں موننوں کے اوصاف کے بیان میں ہیں اور دو آیتیں اس کے بعد کی کافروں کے بارے میں ہیں اور ان کے بعد کی تیرہ آیتیں میانگین کے حق میں ہیں۔ پس یہ چاروں آیتیں ہر مونن کے حق میں عام ہیں۔ عربی ہو یا اُجمیٰ کتابی ہو یا غیر کتابی، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے۔ ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔

غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ ﷺ پر اور اگلے انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں۔ ان پر ایمان نہ ہو اور ساتھی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی تین چیزوں بغیر بچھلی تین چیزوں کے بغیر معتبر ہیں، اسی طرح بچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لئے ایمان والوں کو حکم الہی ہے یا ایّهَا الَّذِينَ امْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ إِنْ يَعْنِي ایمان والوں اللہ پر اور جو کتاب اس پر اتری ہے اس پر اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں، ان پر ایمان لا اور فرمایا وَلَا تُحَاجِدُ لَوْا اہلَ الْكِتَابَ إِنْ يَعْنِي اہل کتاب سے بھگڑنے میں بہترین طریقہ بتاوہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پرانا کیا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ ہمارا اور تمہارا معمود ایک ہی ہے۔ ارشاد ہے۔ اے اہل کتاب جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا۔ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک توراۃ تھیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ قائم نہ رکھو۔ دوسری جگہ تمام ایمان

والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا امَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ يُعَذِّبُ همارے رسول ایمان لائے اس پر جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لا یا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدا نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفہیق نہیں کرتے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پر اس کے تمام رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جب حضورؐ کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اسی لئے ان کو دو ہر اجر ملتا ہے اور اس امت کے لوگ بھی اُنکی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا ایمان اجمانی طور پر ہوتا ہے۔

جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بات کریں تو تم نہ اسے حق کہونہ جھوٹ بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اتراء اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اتراء اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضورؐ پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان پر نسبت اہل کتاب کے زیادہ پورا زیادہ کمال والا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے چاہے وہ اپنے پیغمبر اور تفہیق برآ خرازیمان پر ایمان لانے کے سبب دو ہر اجر پائیں لیکن یہ لوگ کمال ایمان کے سبب اجر میں ان سے بھی بڑھ جائیں۔ واللہ اعلم۔

## اُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاخ اور نجات پانے والے ہیں جن کا فرد کو آپ کا ذرانا یا نہ ذرانا برابر ہے وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے ۰

ہدایت یافتہ لوگ ☆☆ (آیت: ۵) یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے مثلاً غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دینے کے ہوئے سے دینا۔ حضورؐ پر جو اتراء اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں اتریں، ان کو مانتا، دار آخوت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لئے نیک اعمال کرنا۔ برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان و بصیرت حاصل ہوا اور انہی لوگوں کے لئے دنیا اور آخوت میں فلاخ و نجات ہے۔ ابن عباسؓ نے ہدایت کی تفسیر ”نور“ اور ”استقامت“ سے کی ہے اور ”فلاح“ کی تفسیر اپنی چاہت کو پالینے اور برائیوں سے بچ جانا، کی ہے۔ ابن جریرؓ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور دیں، ثابت قدیمی اور توفیق میں حق پر ہیں اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی یہیں گلی پانے کے مستحق ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے اُولئکَ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے جیسے پہلے گذر چکا۔ اس اعتبار سے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اخْرُجْ پہلے کی آیت سے جدا ہو گا اور مبتدائن کو مرفوع ہو گا اور اس کی خبر اُولئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہو گی۔ لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں، حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عباسؓ سعوڈ اور بعض صحابہؓ سے مردی ہے کہ یُؤْمِنُونَ بالغیب سے مراد عرب ایمان

دار ہیں۔ اس کے بعد کے جملہ سے مراد اہل کتاب ایمان دار ہیں۔ پھر دونوں کے لئے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آئینہ عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے واللہ عالم۔ مجاہد ابوالحالیہ رفیع بن انسؓ اور قتادہؓ سے یہی سروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا کہ حضور قرآن پاک کی بعض آئینے تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کر دیتی ہیں اور بعض آئینے کرتے تو زدیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپؐ نے فرمایا، لو میں ہمیں جتنی اور جنہی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں، پھر آپؐ نے الٰم سے مُفْلِحُونَ تک پڑھ کر فرمایا، یہ تو جتنی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا، "الحمد للہ" ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں، "پھر انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَعَ طَيْمٌ تَكُونُ تِلَاوَتُهُ كَمِ اور فرمایا جنہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ایسے نہیں۔ آپؐ نے فرمایا، ہاں۔ (ابن الہی حاتم)

بدقسمت لوگ: ☆☆ (آیت: ۶) یعنی جو لوگ حق کو پو شیدہ کرنے اور چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے نہ انہیں آپؐ کا ذرا ناسومند ہے اور نہ ہمیں نہ ڈرانا۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی قدر نہیں کریں گے جو آپؐ پر نازل ہوئی ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ حَاءَ تُهُمْ كُلُّ أَيَّةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ یعنی حق لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام آئینے دیکھ لیں یہاں تک کہ در دن اک عذاب دیکھیں۔ اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَنْ تَكُونُوا الْكَيْمَانَ إِنَّ الَّذِينَ حَسِّنُوا میں اس کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤتا ہم وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ ان گمراہوں کو ہدایت کہاں؟ تو اے نبی! ان پر افسوس نہ کر، تیرا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے۔ مانے والے نصیب در ہیں۔ وہ مالا مال ہو جائیں گے اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ سکی۔ تیرا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے۔ تو صرف ذرا دینے والا ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ اصلوٰۃ والسلام کو اس بات کی بڑی ہی حرص تھی کہ تمام لوگ ایمان دار ہو جائیں اور ہدایت قبول کر لیں لیکن پروردگار نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصہ نہیں۔ یعنی بٹ چکی ہے۔ جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپؐ کی مانے گا اور جو بقسمت ہیں وہ ہرگز ہرگز اطاعت کی طرف نہیں جھکیں گے۔ پس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانے ہیں، انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے کیونکہ اس میں تیرے مانے کا عہد موجود ہے۔ توجہ وہ اس کتاب کو اور اس نبی کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے مانے کا اقرار کر چکے تو بھلا وہ تمہاری با توں کو کیا مانیں گے؟ ابوالحالیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جگہ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمان باری ہے الٰم کو کیا مانیں گے؟ ابوالحالیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جگہ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمان باری ہے الٰم تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفُرُوا إِنَّ لِكُنَّ جُمْقَنِيْ ہم نے پہلے بیان کئے ہیں، وہ زیادہ واضح ہیں اور دوسری آئینوں کے مطابق ہیں۔ واللہ عالم۔ اس حدیث پر جوابن الہی حاتم کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے، دوبارہ نظر ڈال جائیے لا یُؤْمِنُونَ پہلے جملہ کی تاکید ہے یعنی ڈرانا نہ ڈرانا و دنوں برابر ہیں دنوں حالتوں میں ان کا کفر نہ ٹوٹے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لا یُؤْمِنُونَ خبر ہو اس لئے کہ تقدیر کلام، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ ہے اور سو آئے عَلَيْهِمْ جملہ مقرر ہے جو جائے گا۔ واللہ عالم۔

**خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَجِيدٌ**

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان ہی کے لئے بڑا عذاب ہے ۰

مہر کیوں لگا دی گئی؟ ☆☆ (آیت: ۷) حضرت سدیٰ فرماتے ہیں، ختم سے مراد طبع ہے یعنی مہر لگا دی۔ حضرت قیادہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا۔ وہ اسی کی ما تھی میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر الٰہی ان کے دلوں پر اور ان کے کافوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ ہدایت کونہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بنتے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بس یہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لئے حماورہ میں مہر آتی ہے۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں رَأَنَ کا لفظ ہے طبع کا لفظ ہے اور اَقْفَالَ کا لفظ ہے۔ رَأَنَ طَبَعَ سے کم ہے اور طبع اَقْفَالَ سے کم ہے اُقفال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مجاہد نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمش جاتا ہے اور بندہ ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چنگلی بندہ ہو گئی۔ پھر دوسرا گناہ کیا و دوسرا انگلی بندہ ہو گئی یہاں تک کہ تمام انگلیاں بندہ ہو گئیں اور ارب مٹھی بالکل بندہ ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے پھر اس پر کسی طرح حق اُثُر نہیں کرتا۔ اسے زین بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی وجہ سے ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سنبھلے سے بہراں گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ امام ابن جریز فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ٹھیک نہیں۔ اس لئے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔

زمھریؒ نے اس کی تردید کی ہے اور پانچ تاویلیں کی ہیں لیکن سب کی سب بالکل بے معنی اور فضول ہیں اور صرف اپنے مفتری ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے ہیں کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر رب قدوس مہر لگا دے لیکن افسوس اس نے دوسرا صاف اور صریح آیات پر غور نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَرَأَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ يَعْنِي جب وہ میز ہے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل میز ہے کر دیے اور فرمایا وَنَوَّلْبَ أَفْنَدَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِنَّهُمْ كُوَافِرٌ ہوں کواث دیتے ہیں گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں جو صاف بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ہدایت کو ان نے دور کر دیا ہے، حق کو ترک کرنے اور باطل پر جرم رہنے کی وجہ سے جو یہ اسرار عدل و انصاف ہے اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زمھریؒ بھی بغور ان آیات پر نظر ڈالتے تو تاویل نہ کرتے۔ واللہ اعلم۔

قرطبی فرماتے ہیں۔ امت کا اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کے بد لے ہے۔ فرمایا ہے بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ دعائیں ہیں یا مقلوب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔

حضرت حدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے لوٹے ہوئے بورے کا ایک ایک تنکا جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نکتہ ہو جاتا ہے اور جس دل میں یہ فتنے اُثُر نہیں کرتے، اس میں ایک سفید نکتہ ہو جاتا ہے جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کرسارے دل کو منور کر دیتی ہے۔ پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح دوسرے دل کی سیاہی (جو حق قبول نہیں کرتا) پہنچتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ امام ابن جریزؒ کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آچکا ہے کہ مومن

جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ باز آجائے۔ توبہ کر لے اور رُک جائے تو وہ نکتہ مت جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیاہی بھی چھیت جاتی ہے بہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رَأَنَ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے کَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ یعنی یقیناً ان کے دلوں پر رَأَنَ ہے ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے (ترمذی۔ سنائی۔ ابن حجریر) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر خلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی لگ جاتی ہے جسے ختم اور طبع کہا جاتا ہے اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکتے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

ای مہر کا ذکر اس آیت "ختم اللہ" میں ہے وہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے نہ اس میں کچھ جا سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر الٰہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے بھئے اور ٹوٹے نہ ہدایت اثر کرے نہ کفر جائے سَمْعُهُمْ پر پورا وقف ہے اور عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے اور غشاوت یعنی پر وہ آنکھوں پر پڑتا ہے جیسے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور وسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فَإِن يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ أَيْكَ اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً إِنَّ آتِيَوْنَ مِن دل اور کان پر ختم کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا۔

بعض نے بہاں غشاوَةٌ زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جَعَلَ مقصود ہو اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اتباع سے ہو جیسے "وَخُوْرُ عَيْنٍ" میں۔ شروع سورت کی چار آیتوں میں موئین کے اوصاف بیان ہوئے۔ پھر ان دو آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا، اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو ظاہر ایماندار بننے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اس لئے ان کا بیان ذرا تفصیل سے کیا گیا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ برأت اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے پورا بجا ہو اور ان کی نرموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ پس فرمایا۔

**وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ أَمْتَأْ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ  
بِمُؤْمِنِينَ هُنَّ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا  
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ هُنَّ**

بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن درحقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے ۶۰ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دوہوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دراصل خود اپنے تینیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر مجھے نہیں ۶۱

منافق کی قسمیں: ☆☆ (آیت: ۹-۸) دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرنے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں اور دوسرا قسم کے بدترین مجرم ہیں۔ اس کا بیان تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ کسی مناسب جگہ ہوگا۔ امام ابن حجر تجویز فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہوا کرتی ہے۔ نفاق مکہ شریف میں تو تمہاری نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی پر ظاہر کافروں

کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب آنحضرت ﷺ بھرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل نے الفصار بن کرآپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانہ کی مشرکانہ بہت پرستی ترک کر دی اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بہ اسلام ہو گئے لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا اور حضورؐ نے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔

غرض اس جماعت کے قیام کی ابتداؤں ہوئی کہ مدینہ شریف کے یہودیوں کے تین قبیلے تھے۔ بنو قیعاقع تو خزرج کے حليف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے اور باقی دو قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا، شوکت و شان اسلام ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکھ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا چنانچہ عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے سے لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا برا امامتے تھے بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور پادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کرچکے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری یونہی رہ گئی۔ یہ خارقاً تو اس کے دل میں تھا ہی اسلام کی روز افزوں ترقی میں لڑائی اور کامیابی نے اسے مخبوط الہواں بنادیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لینے اور باطن میں کافر رہنے کی خانی اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی، سب کو یہی بدایت کی۔ اس طرح منافقین کی ایک جمیعت مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں محمد اللہ کی مہاجر ایک بھی نہ تھا بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل دعیاء مال و متاع کو نام اللہ پر قربان کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ دے کر آئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جوان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آئتوں میں بیان ہے۔“ ابوالعالیٰ حضرت حسن، قادہؓ سدیؓ نے یہی بیان کیا ہے۔

پروردگار عالم نے منافقوں کی بہت سی بخصلتوں کا یہاں بیان فرمایا۔ تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکہ میں نہ آجائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا سمجھ بھی پہیں جس کی وجہ سے کوئی برا فائدہ سچیل جائے۔ یہاں در ہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی جائے خود بہت برا اور نہایت خوفناک امر ہے۔ جس طرح اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں۔ اسی طرح سورہ منافقوں میں بھی کہا گیا ہے کہ اذَا جَاءَكُمُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا إِنَّا أَنْشَهَدْنَا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا يُنَزِّلُ مِنَ الْحُكْمِ مَا يَرِيدُ هُنَّ مُنَافِقُونَ یعنی منافقوں میں کوئی شاندار اور تاکیدی الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا اور سورہ منافقوں میں فرمایا وَ اللَّهُ يَسْهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی دیتا ہے کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ کے ہاں چل جانے والی کارگیری خیال کرتے ہیں جیسے کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ کرچل جاتا ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے يَوْمَ يَعْنِهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ أَنَّهُمْ يَنْعِمُونَ یعنی قیامت کے دن جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مکثراً کرے گا تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں۔ خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کی وضاحت میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں۔ یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہے

ہیں جیسے کہ اور جگہ ارشاد ہوا۔ **إِنَّ الْمُنْفَقِينَ يُخْدِلُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادِثُهُمْ** یعنی متناق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کو دھوکہ میں رکھنے والا ہے۔ بعض قاریوں نے **يُخْدِلُونَ** پڑھا ہے اور بعض **يُخْدِلُونَ** مگر دونوں قرأتوں کے معنی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو متناق دھوکہ کیسے دیں گے؟ وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لئے ہوتا ہے۔ تو جو اب کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خطرہ سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان میں **مُخَادِع** کہا جاتا ہے۔ چونکہ متناق بھی قتل، قید اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لئے یہ چال چلتے تھے اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے اس لئے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل چاہے کسی کو دنیا میں دھوکا دے بھی دے لیکن درحقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اسی میں اپنی بھلائی اور کامیابی جانتے ہیں اور دراصل یہ سب ان کے لئے انتہائی براعذاب اور غصب الہی ہو گا جس کے سنبھل کی ان میں طاقت نہیں ہو گی پس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خودو بال ہو گا وہ جس کام کے انجام کو اچھا جانتے ہیں وہ ان کے حق میں برادر بہت رہا ہو گا۔ ان کے فریمک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہو گا لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں اور یہ اپنے انہیں پر میں ہی مست ہیں۔ ابن حجر العسکری تفسیر میں فرماتے ہیں کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا اعلیٰ اہم دل کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں یہ کلمہ ان کے دلوں میں جائزیں نہیں ہوتا۔ حضرت قادہؓ فرماتے ہیں مانا فنقوں کی بھی حالت ہے کہ زبان پر کچھ دل میں کچھ عمل کچھ عقیدہ کچھ صحن کچھ اور شام کچھ اس کشی کی طرح جو ہوا کے جھوٹکے سے بھی اوہر ہو جاتی ہے کبھی ادھر۔

## فِيْ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ الَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھایا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے ۱۰

شک و شبہ بیماری ہے: ☆☆ (آیت: ۱۰) بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور چند صحابہؓ سے بیہی مروی ہے۔ حضرت مجاهد عکرمہؓ، حسن بصریؓ الٰو عالیہؓ، رجیب بن انسؓ قادہؓ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عکرمہؓ اور طاؤسؓ نے اس کی تفسیر سے ریا اور ابن عباسؓ سے اس کی تفسیر نفاق بھی مروی ہے۔ زید بن اسلمؓ فرماتے ہیں، بیمار دینی بیماری مراد ہے نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کی ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا جسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور جگہ ہے **فَأَمَّا الَّذِينَ امْتُوا فَإِذَا تَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِحْسَانًا إِلَى رِحْسِيهِمْ** یعنی ایمان والوں کے ایمان کو تقویت کرنے کا اور وہ خوشیاں مناتے ہیں لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیسی کو اور زیادہ کردیتی ہے یعنی اس کی بدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مطابق ہے۔ تفسیر ہی درست ہے، تھیک اسی کے مثل یہ فرمان بھی ہے **وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادُهُمْ هُدًى** و **وَأَنَّهُمْ تَقَوَّلُهُمْ** یعنی بدایت والوں کو بدایت میں بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقویتی عطا فرماتا ہے بھی قاریوں نے **يُكَذِّبُونَ** کو **يُكَذِّبُونَ** بھی قاریوں نے پڑھا ہے یہ دونوں خصائص ان میں تھیں۔ جھلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعض مانا فنقوں کو اچھی طرح جانے کے باوجود پھر بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضورؐ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چੇ ہوں کہ محمد رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دلتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو اعرابی آس پاس ہیں، انہیں یہ تو معلوم نہ ہو گا کہ ان مانا فنقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ہے۔ ان کی نظریں تو صرف ظاہرداری پر ہوں گی جب ان میں یہ بات مشہور ہو۔

جائے گی کہ حضور اپنے ساتھیوں کو قتل کر دلتے ہیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قول کرنے سے رک نہ جائیں۔

قرطبی فرماتے ہیں، ہمارے علماء وغیرہ کا بھی قول ہے، تمہیں اسی طرح آنحضرت ﷺ مولفۃ القلوب کو جن کے دل اسلام کی جانب مائل کئے جاتے تھے مال عطا فرمایا، کرتے تھے حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں۔ حضرت امام مالکؓ بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی بھی وجہ بیان فرماتے ہیں جیسے محمد بن جعفرؓ قاضی اسطعلیؓ اور ابہریؓ نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام مالکؓ سے بقول ابن ماجھونؓ ایک وجہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لئے تھا کہ آپؓ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم صرف اپنے علم کی بناء پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔

قرطبیؓ فرماتے ہیں گو علماء کا تمام مسائل میں اختلاف ہو لیکن اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بناء پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، آپؓ فرماتے ہیں کہ حضور کما منافقین کو قتل کرنے سے رکے رہنے کا سبب ان کا اسلام کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا، گوآپؓ کو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کی تردید کرتا تھا جس کی تائید میں بخاری و مسلم وغیرہ کی یہ حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے جس میں کہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں بیہاں تک کروہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبِيرٌ، جب وہ اسے کہہ دیں تو وہ مجھ سے اپنی جان اور مال کا امان پالیں گے اور ان کا حساب اللہ عزوجل پر ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ اس کلمہ شریف کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہو گا ورنہ وہاں کچھ بھی نفع نہ ہو گا لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے، گویہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں لیکن آخرت میں میں پل صراط پران سے دور کر دیئے جائیں گے اور انہیں ہر دن میں جیان و پریشان ہوتے ہوئے با آواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن انہیں جواب ملے گا کہ تھے تو سہی، مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار میں ہی رہ گئے اور اپنی من مانی خواہشوں کے چکر میں پڑ گئے، یہاں تک کہ حکم الہی آپنچا۔

غرض دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑے لپٹے رہیں گے لیکن بالآخر ان سے الگ کر دیئے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا، وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ جدے میں اگر پڑیں لیکن بعدہ نہیں کر سکیں گے، جیسے کہ احادیث میں مفصل بیان آچکا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کئے جانے کی وجہ تھی کہ اللہ کے رسولؐ کی موجودگی میں ان کی شرارتمیں چل نہیں سکتی تھیں، مسلمانوں کو باری تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعہ ان کی برائیوں سے محفوظ کر لیتا تھا لیکن حضورؐ کے بعد اگر خدا نخواستہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو وہ قتل کر دیئے جائیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتوی ہے کہ نفاق حضورؐ کے زمانہ میں تھا لیکن آج کل وہ بے دینی اور زندگیتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زندگی کے پارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ہی پر مرے تو اس کے قتل سے پہلے تو پہنچیں کی جائے یا نہیں؟ اور وہ زندگی جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہوا اور وہ زندگی جو معلم نہ ہوان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں؟ اور یہ ارتدا کئی کمی مرتبہ ہوا۔ تب یہ حکم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر ہی؟ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اسلام لاانا اور جو عن کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پالینے کے بعد بھی یہی حکم ہے؟ غرض ان باتوں میں اختلاف ہے لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں نہ کہ تفسیریں۔

چودہ مخصوصوں کے نفاق کا تو آپؓ کو قطعی علم تھا۔ یہ وہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ حضورؐ کے ساتھ دغا بازی کریں۔ آپؓ کے قتل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندر ہرے میں جب حضورؐ فلاں گھٹائی کے قریب پہنچیں

تو آپ کی اتنی کو بدکار دیں اور بھڑک کر بھاگے گی تو حضور گھٹائی میں گرد پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اسی وقت وحی بیجع کران کی اس ناپاک سازش کا علم عطا کر دیا۔ حضور ﷺ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کراس واقعہ کی خردی اور ان غداروں کے نام بھی بتلادیئے۔ پھر بھی آپ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا آپ کو علم نہ تھا چنانچہ قرآن کہتا ہے وِمَنْ حَوَلَكُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ مُنْقِطُوْۤۤ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ إِنَّمَا يَعْلَمُهُمْ تِبَارَےٰ آس پاس کے بعض اعرابی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینہ میں بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں اور دوسرا جگہ فرمایا لیں لئے یَتَّهِيَ الْمُنْفِقُوْۤۤ إِنَّمَا يَرْجُوْۤۤ مَنَافِقَ كُلَّ دُلْ وَالِّيْ اَوْسَادَ وَكَبَرَوْا لِمَا لَيْ شَرَّأْوُنَ سے بازنہ آئے تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے اور مدینہ میں بہت کم باقی رہ لیکیں گے بلکہ ان پر لعنت کی جائے گی جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور پکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں گے۔

ان آئتوں سے معلوم ہوا کہ حضور گوان منافقوں کا علم نہ تقاضا کر کون کون ہے؟ ہاں ان کی مذموم خصلتیں جو بیان ہوئی تھیں یہ جس میں پائی جاتی تھیں اس پر نفاق صادق آتا تھا جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءَ لَا رَيْنَكُهُمْ یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں ان کو دکھادیں لیکن تم ان کی نشانیوں اور ان کی دلبی بچی زبان سے ہی انہیں بچاں لو گے۔ ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مناقفانہ خصلتوں پر حضورؐ کے سامنے گواہی بھی دی تھی باوجود اس کے جب وہ مر گیا تو حضورؐ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے ذفن میں شرکت کی۔<sup>۱</sup> ٹھیک اسی طرح اور مسلمان صحابیوں کے ساتھ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضورؐ کو ذرا زور سے یاد دلایا تو آپؐ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ لوگ چہ میگوئیاں کریں کہ محمد ﷺ اپنے صحابیوں کو مارڈا لا کرتے ہیں<sup>۲</sup> اور ایک صحیح روایت میں ہے کہ استغفار کا مجھے احتیار دیا گیا، کرنے اور شکر نے کا۔ تو میں نے استغفار کو پسند کیا۔ ایک اور روایت میں ہے اگر ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی اس کی بخشش جانتا تو یقیناً اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا۔<sup>۳</sup>

**وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ هُنَّا لَا إِنْهَمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ هُنَّا**

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خود اور ہو یقیناً ہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن مشورہ بھی نہیں ۰

سینہ زور چور: ☆☆ (آیت: ۱۱-۱۲) حضرت عبد اللہ بن عباسؓ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اور نبی ﷺ کے بعض اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے مردی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے، ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا، زمین میں فساد کرنا ہے اور زمین و آسمان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت جابدؓ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت و اصلاح پر ہیں۔

حضرت مسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضورؐ کے زمانہ میں یہ بخصلت لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضورؐ کے زمانہ میں یہ بخصلت لوگ تھے تو سہی لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضورؐ کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ امام ابن جریرؓ فرماتے ہیں ان

منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، فرائض ربانی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے۔ مونوں کے پاس آ کر انپی ایمانداری کی ڈیگنیں مارتے تھے حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسو سے ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح کل کے حامی جانتے تھے۔

قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصْمِهِمْ أَوْ لِيَاءِهِمْ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تُكْنُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا كَيْبِرًا یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم (بھی) ایسا نہ کرو گے یعنی آپس میں دوستی نہ کرو گے تو اس زمین میں بھاری فتنہ اور برا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے اور جگہ فرمایا۔ ”اے ایمان والو! مونوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی جنت ہو جائے یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جنم کے نحلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لئے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں سے حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمان داروں کو اپنی چکنی چڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات اور کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلے پڑتے ہیں، پس بانی فساد یہ منافقین ہوئے۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوناک سازشوں اور گہری چالوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا اور اگر پورے مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکسان کر لیتے تو تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پالیتے، باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھٹ کہہ اٹھتے کہ ہم تو صلح کن ہیں۔ ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے۔ ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ”ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مونوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی نزدیکی جہالت ہے جسے یہ صلح سمجھتے ہیں، وہ عین فساد ہے لیکن انہیں شعور ہی نہیں۔

**وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا أَمَنَ النَّاسُ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا أَمَنَ السَّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ**

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں (یعنی صحابہؓ) کی طرح تم بھی ایمان لاو تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لاائیں جیسا یہ تو ف لاے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ یقیناً سیکھی بے وقوف میں لیکن جانے نہیں 〇

خود فرمی کے شکار لوگ: ☆☆ (آیت: ۱۳) مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہؓ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے، موت کے بعد جی اٹھنے، جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے، اللہ اور رسولؓ کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے۔ ابن عباسؓ ابن مسعودؓ اور بعض دیگر صحابہؓ ربع، انس، عبدالرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے جیسے حملاء حکیم کی اور حملاء حلیم کی۔ جاہل، کم معقل اور لفظ نقصان کے پوری طرح نہ جانے والے کو سفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَنْ يَقُولُونَ کو

اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پر وکار عالم نے جواب دیا اور تاکید احرار کے ساتھ فرمایا کہ یہ تو قوف تو یہی ہیں لیکن ساتھی جمال بھی ایسے ہیں کہ اپنی یہ تو قوی کو جان بھی نہیں سکتے۔ نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال انہا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی؟

**وَلَذَا لَقُوا الَّذِينَ سَمْلَأُوا أَمْتَانَهُمْ وَلَذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَنِهِمْ  
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنْمَانَ حَنْ مُسْتَهْزِئُونَ هُنَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ  
وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ هُنَّ**

اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں ۰ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکادے میں اور بڑھا دتا ہے ۰

فریب زدہ لوگ: ☆☆ (آیت: ۱۳-۱۵) مطلب یہ ہے کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ایمان دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلاکی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔ اور جب اپنے ہم مشربوں میں ہوتے ہیں تو ان ہی کی سی کہنے لگتے ہیں۔ خَلَوْا کے معنی یہاں ہیں إِنْصَرَفُوا ذَهَبُوا خَلَصُوا اور مَضَواً لِّمَنْ لَوَّتْتَهُ میں اور پہنچتے ہیں اور تھائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں پس خلو جو کرالی کے ساتھ متعدد ہے، اس کے معنی لوٹ جانے کے ہیں۔ فعل مفسر اور ملفوظ دونوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ایسے مع کے مترادف ہے مگر اول ہی ثابت ہے اور ابن حجر عسکری کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ شیاطین سے مراد و ساء بڑے اور سردار ہیں جیسے علمائے یہود اور سرداران کفار قریش و منافقین۔

حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ اور دیگر صحابہؓ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفرتے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاهد کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قادة فرماتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو برا یوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابوالعالیٰ "سدیٰ" رجیب بن انسؓ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ امام ابن حجر عسکری فرماتے ہیں "ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کوشیطان کہتے ہیں، جنہوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔" قرآن میں شیطینِ الانس والجن آیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ "ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔" ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہؐ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپؐ نے فرمایا۔ ہل جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں "ہم تمہارے ساتھ ہیں" یعنی جیسے تم ہو دیے ہی ہم ہیں اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ بھی کھیل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رجیب بن انس اور قادةؓ کی بھی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس کمروہ فعل کے مقابلہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ٹھنکا کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بیکنے دے گا۔ جیسے دوسرا جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا سخہ جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا اپنے چیچے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اوپھی دیوار حائل کر

دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اس طرف تورحت ہوگی اور اس طرف عذاب ہوگا۔ فرمانِ الٰہی ہے کہ فرہاری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانیں۔ اس تاخیر میں وہ اپنی بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں پس قرآن میں جہاں استہزا مسخریت یعنی نماق، مکر، خدیعت یعنی دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔

ایک اور جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ذاتِ ذپٹ اور تنہیہ کے طور پر استعمال کئے گئے ہیں۔ ان کی بدکرداریوں اور کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں جیسے کوئی بھلا آدمی کی مکار کے فریب سے فیکر اس پر غالب آ کر کھتا ہے کہو میں نے کیا فریب دیا حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فرمانِ الٰہی ہے کہ وَمَكْرُوْهُ وَأَمَّاَنَّ اللَّهُ أَخْرُوْ اللَّهُ يَسْتَهِيْزُ بِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ذَاتُ الْمَكْرِ وَأَنْوَاقُ مَطْلَبٍ يَهْبِطُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ كَرِهَ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ لَهُ مَلِكًا وَمَنْ يَعْتَدَ فَلَيَعْتَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ میں بھی وہی الفاظ استعمال کئے گئے معنی دونوں لفظوں کے دونوں جگہ جدا ہیں۔ دیکھئے قرآن کریم میں ہے جَزَأُو سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا يَعْنِي برائی کا بدلہ دیکی ہی براہی ہے فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ جُو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں۔ زیادتی کے مقابلہ میں بدلہ لینا زیادتی نہیں۔ لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے حالانکہ بھی میں برائی اور زیادتی "ظلم" ہے اور دوسرا برائی اور زیادتی عدل ہے لیکن لفظ دونوں بھی ایک ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں کلامِ اللہ میں ایسی عبارتیں ہیں وہاں یہی مطلب ہے ایک اور مطلب بھی سنئے۔ دنیا میں یہ منافق اپنی اس ناپاک پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و مامن مل گیا۔ اب یہ مست ہو گئے حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا۔ گوہاں ان کے مال اور جانیں فتح گئیں لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ امام ابن حجر یعنی اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی بہت تائید کی ہے اس لئے کہ مکر، دھوکہ اور مذاق جو بلاوجہ ہو اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہاں انتقام مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظِ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہاں کا بدلہ اور سزا ہے۔ يَمْدُهُمْ کا مطلب ڈھیل دینا اور بڑھانا یہاں کیا گیا ہے جیسے فرمایا ایک حصہ سبتوں آنَمَا نُمَدِّهُمْ پہ اُنْ يَعْنِي کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد کی کثرت ان کے لئے باعث خیر ہے نہیں، نہیں۔ انہیں صحیح شعور یعنی نہیں اور سَنَسْتَدِرُ جَهَنَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اس طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ غرض کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں اور ہر دن یوں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں جن پر یہ پھولنے ہیں ساتھ حالانکہ وہ حقیقت میں عذاب ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا تَسْوَّا مَا ذَكَرُوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ آبَوَاتٍ كُلُّ شَنِيءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ قَطْعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی جب لوگوں نے نصیحت بھلا دی، ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچاک کپولیا، اب گھر بگئے، ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریفیں رب العالمین کے لئے ہی ہیں۔

ابن حجر یہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لئے ان کو مہلت دی جاتی ہے جیسے اور جگہ فرمایا وَنَقْلَبُ أَفْيَدَتَهُمْ اَنْ طَغَيَانٌ کہتے ہیں کسی چیز میں کھس جانے کو۔ جیسے فرمایا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ بن عباس فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں۔ عَمَّةٌ کہتے ہیں گراہی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مظلالت و کفر میں ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا۔ اب یہ اسی دلدل میں اترنے چاہتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پہنچنے چاہتے ہیں اور اس سے نجات کی تمام را ہیں ان پر بند ہو جاتی ہیں۔ بھلا ایسی دلدل

میں جو ہوا اور پھر انہا بہلہ اور بیوقوف ہو وہ کیسے نجات پاسکتا ہے۔ آنکھوں کے انہے پن کے لئے عربی میں ”عُمَى“ کا لفظ آتا ہے اور دل کے انہا پے کے لئے ”عَمَّة“ کا لفظ کبھی دل کے انہے پن کے لئے بھی ”عَمَّى“ کا لفظ آتا ہے جیسے قرآن میں ہے ولکن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

**أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الظَّلَالَ إِلَيْهِمْ فَمَا رَبِحُوكَ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْ قَدَنَارًا ۝ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَةَ ذَهَبَ اللَّهُ يُنُورُهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ الْيَجْرِيَّةِ**

یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلتے میں مولے لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے ۰ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلانی پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں جو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندر ہیروں میں چھوڑ دیا ۰ جو نہیں دیکھتے بہرے کوئے انہے ہیں پس وہ نہیں لوئے ۰

ایمان فروش لوگ : ☆☆ (آیت: ۱۶) حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مردی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گراہی لے لی۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایمان کے بدلتے کفر قبول کیا۔ مجاہد فرماتے ہیں، ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قادہ فرماتے ہیں، ہدایت پر گراہی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے اور جگہ قوم شہود کے بارے میں ہے وَمَا تَمُودُ فَهَدِيَّتُهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى لیکن باوجود اس کے کہ ہم نے قوم شہود کو ہدایت سے روشناس کر دیا مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ انہے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گراہی پر آگئے اور ہدایت کے بدلتے گراہی لے لی گویا ہدایت کو حق کر گراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے چنانچہ قرآن میں ہے ذلیک بِإِنَّهُمْ أَمْتَوْا لَهُمْ كَفَرُوا أَفَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَا إِنْ لَتَهْبِطْ كَيْفَ یَوْمَ لَوْمَةِ أَنْهَى پس ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، پس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا، نہ راہ میں بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گراہی کے خارزار میں اور جماعت کے مضبوط قلعہ سے نکل کر تھائیوں کی بیک جیل میں اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندر ہی میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنان جنگل میں آگئے۔

شک، کفر اور نفاق کیا ہے؟ ☆☆ (آیت ۱۷-۱۸) مثال کو عربی میں مثلیں بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ لِعِنْ يَرْثَاتِهِمْ لَوْكُونَ کے لئے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلتے اور انہے پن کو بینائی کے بدلتے مولے لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندر ہیرے میں آگ جلانی، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فائدے کی امید بند ہی کردیتہ آگ بھگ گئی اور سخت اندر ہیر اچھا گیا۔ نہ تو نگاہ کام کر سکتے، نہ راستہ معلوم ہو سکے اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سکتا ہو، گونا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو اب بھلا پر راہ کیسے پا سکے؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ

راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ صراحت موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ امام رازیؑ نے اپنی تفسیر میں سدیؑ سے یہی نقل کیا ہے، مگر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے اس لئے کہ اولاد تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا۔ پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے اور دین گم ہو جانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہو گی؟

امام ابن حجر یہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے، انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا کیونکہ پہلے فرمان الٰہی گذر چکا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ<sup>①</sup> یعنی گویہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایمان انہیں درحقیقت اس آیہ مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ ممکن ہے ایمان لائے ہوں۔ پھر اس سے ہٹ گئے ہوں اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں۔ دیکھئے دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے ذلیک بِإِنَّهُمْ أَمْنُوا إِنَّمَا كَفَرُوا إِنَّمَا يَأْتِي بَعْدَ كَفَرِكُمْ پھر ان کے بعد کفر کیا پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اب وہ کچھ نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندر ہیرے کا ذکر ہے یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آختر کے اندر ہیروں نے گھیر لیا۔

ایک جماعت کی مثال فرض واحد سے اکثر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذَوَّرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ تُوْدِيْهُ گا کہ وہ تیری طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات موت میں ہو اور اس آیت کو بھی دیکھنے مانِخلقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاجْدَةً تم سب کا پیدا کرنا اور مارڈا لئے کے بعد پھر زندہ کر دینا، ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تیری جگہ قرۃ السیکھ کو عملی عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کَمَثَلُ الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا گدھے کی ماند ہیں، جو کتابیں لادے ہوئے ہو سب آتیوں میں جماعت کی مثال ایک ہی دی گئی ہے، اسی طرح مذکورہ بالا آیت میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہے مَثَلُ قِصْتِهِمْ كَمَثَلُ قَصَّةِ الَّذِينَ اسْتَوْقَدُوا نَارًا یعنی ان کے واقعہ کی مثال ان لوگوں کے واقعہ کی طرح ہے جو آگ روشن کریں، بعض کہتے ہیں کہ آگ جلانے والا تو ایک ہے لیکن مجھی طور پر پوری جماعت اس سے محفوظ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے اور اس قسم کا اور الٰہی یہاں الٰہیں کے معنی میں ہیں جیسے کہ شاعروں کے شعروں میں بھی ”میں کہتا ہوں“، اس مثال میں بھی واحد کے صیغہ کے بعد ہی جمع کے صیغہ بھی ہیں بِنُورِهِمْ اور لَا يَرْجِعُونَ ملاحظہ ہوں اور اس طرح کلام میں اعلیٰ فصاحت اور بہترین خوبی آگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بِنُورِهِمْ اور تَرَكَهُمْ اور لَا يَرْجِعُونَ ملاحظہ ہوں اور اس طرح کلام میں اعلیٰ فصاحت اور بہترین خوبی آگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا، وہ تو ان سے ہٹالیا اور جس طرح آگ کے بھج جانے کے بعد پیش اور دھواں اور اندر ہیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک و کفر و نفاق رہ گیا تو راہ راست کو نہ خود دیکھیں نہ دوسرا کی بھلی بات سن سکیں نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں۔ اب پھر لوٹ کر ہدایت پر آنا محال ہو گیا۔ اس کی تائید میں مفسرین کے قول اسنے۔

حضرت ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ اور بعض اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں۔ حضورؐ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندر ہیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے؟ کراچا ک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے۔ اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے؟ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو کئے اور

حرام و حلال، خیر و شر میں کچھ تیز نہ رہی۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں، نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد مذلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر کسی کو کہ کے بہک گئے۔ حضرت مجاهدؓ فرماتے ہیں، ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کا اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روشنی کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عطا خراسانی کا قول ہے کہ منافق بھی بھلانی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کے دل کی کوڑ چشی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ عکرمؓ عبد الرحمن، حسن، سدی اور رفیقؓ سے بھی یہی مقول ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلمؓ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگھا تھے ہیں جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چزیں روشن ہو جاتی ہیں لیکن پھر کفر اس روشنی کو کھو دیتا ہے جس طرح آگ کا بجھ جانا پھر انہیں کردیتا ہے۔ مندرجہ بالا اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائید میں تھے کہ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لاچکے تھے پھر کفر کیا۔ اب امام ابن حجرؓ کی تائید میں تفسیر ہے اسے بھی سنئے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پالیتے ہیں۔ مسلمانوں میں نکاح، درشا و رتقیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں لیکن مرتبے ہی یہ عزت کھو جاتی ہے جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابوالعالیٰؓ فرماتے ہیں جب منافق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر جہاں شک کیا، وہ نور گیا جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں، روشنی رہیں جہاں بھیں، نور گیا۔ خواکؓ فرماتے ہیں، نور سے مراد ایمان ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر قہا۔ قادة کہتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ان کے لئے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان، کھانا پینا، بیوی پچے سب مل جاتے تھے لیکن شک و نفاق ان سے یہ تمام راحتیں چھین لیتی ہے، جس طرح آگ کا بجھنا روشنی دور کر دیتا ہے۔ حضرت قادةؓ کا قول ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے منافق کو دنیوی نفع مشانہ مسلمانوں میں لڑ کے لو کی کا لین دین، درشکی تقسم جان و مال کی حفاظت وغیرہ۔ مل جاتا ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جزا اور اس کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا، اس لئے موت کے وقت وہ سب منافق سلب ہو جاتے ہیں جیسے آگ کی روشنی بجھ جائے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں انہیروں میں چھوڑ دینا سے مراد رہنے کے بعد عذاب پانا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ سدیؓ کا قول ہے کہ انہیم سے مراد ان کا نفاق ہے۔ جس بھی فرماتے ہیں، موت کے وقت منافق کی بد اعمالیاں انہیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلانی کی روشنی اس کے لئے باقی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تقدیر ہو وہ ہم برے ہیں حق کے سنبھلے اندھے ہیں راہ راست کو دیکھنے اور سختی سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، زانہیں تو بہ نصیب ہوتی ہے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

**أَوْ كَصَّيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ حُجُّ يَجْعَلُونَ  
أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقَ حَذَرَ الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ  
بِالْكُفَّارِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ  
فَشُوَّا فِيهِ ۝ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۝ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ  
بِسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝**

بآسمانی بر سات کی طرح جس میں اندر میراں اور گرن اور بکل ہو۔ موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گیرنے والا ہے ۰ قریب ہے کہ بکلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندر میرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۰

منافقین کی ایک اور پیچان☆☆ (آیت: ۱۹-۲۰) یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لئے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کمی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور بکھر شک میں پڑ جاتے ہیں تو شک کے وقت ان کی مثال بر سات کی سی ہے۔ صب کے معنی یہ اور پارش کے ہیں۔ بعض نے باول کے معنی بھی بیان کئے ہیں لیکن زیادہ مشہور معنی پارش کے ہی ہیں جو اندر میرے میں بر سے۔ ٹلمات سے مراد شک، کفر و منافق ہے اور بعد سے مراد یعنی گرج ہے جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر خوف، گمراہت اور پریشانی ہی رہتی ہے۔

جیسے کہ اور جگہ فرمایا یَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ ۝ یعنی ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں۔ دراصل وہ ڈر پوک لوگ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالیں تو یقیناً اس میں سٹ کر گھس جائیں۔ بکلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں یہ نفع نہیں سکتے۔ جیسا کہ اور جگہ فرمایا هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ الْجَنُودِ فِرْعَوْنَ وَ تَمُودَ الْيَتَمِّيَ كیا تمہیں لشکروں کی، فرعون اور ثمود کی روایتیں نہیں پہنچنے بے شک پہنچیں تو ہیں لیکن یہ کافر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے پہنچے سے گھیر رہا ہے۔ بکلی کا آنکھوں کو اچک لینا، اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے اور منافقین کی بیانی کی کمزوری اور ضعف ایمان ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان کے چپے ہوئے عیوب ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں بہوت کر دیں گی، جب ان پر اندر میرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا وشن دل ہو کر پیر دی بھی کرنے لگتے ہیں لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا دل میں کدوڑت اور ٹلمت بھگنی اور بھوپنچھے ہو کر کھڑے رہ گئے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدرے اطمینان پیدا ہوا لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا یا ائمہ پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ إِنْ یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر تھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلانی ملے تو مطمئن ہو جائیں اور اگر برائی پہنچ تو اسی وقت پھر جائیں۔ حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چنان، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اندر میرے میں تھہر جانا، کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دیگر بہت سے مفسرین کا بھی یہی قول ہے اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے۔ واللہ اعلم۔

روز قیامت بھی ان کا بھی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کوئی کمی میلوں تک کا بعض کو اس سے بھی زیادہ کسی کو اس سے کم یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ بکھری روش ہو اور بکھری اندر میرا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا ساد و ذرا سلسلیں کے پھر تھہر جائیں گے پھر ذرا ساد و ذرا نور ملے گا۔ پھر بجھ جائے گا اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بمحج جائے گا، یہ پورے منافق ہوں گے، جن کے بارے میں فرمان الٰہی ہے يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفَقُوْنَ وَ الْمُنْفِقُوْنَ لِلَّذِيْنَ امْنُوا انْظَرُوْنَ اَنَّ یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں کے ذرا کو ہمیں بھی آ لینے دوتا کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ

الْخَائِسِينَ تُوكَهَا جَاءَتْهُمْ لَوْلَاتٍ وَنُورٌ وَذُهُونٌ لَاؤَ اُور مُونُوں کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں تری المُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یَسْتَعْلَمُ نُورُهُمُ الْعَيْنِ اس دن تو دیکھئے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دیکھائے گا تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہرہ ہی ہیں۔ اور فرمایا جس دن نہ رسوایکے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دیکھیں ہو گا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کراور، میں بخش، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آئیوں کے بعد اب اس مضمون کی حدیثیں بھی سنئے۔

احادیث میں تذکرہ نور: ☆☆ نبی ﷺ فرماتے ہیں، ”بعض مومنوں کو مدینے سے لے کر عدن تک نور ملے گا، بعض کو اس سے کم یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہو گی،“ (ابن حجر) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا بعض کو کھوکھ کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا،“ کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انکو خٹاہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو، کبھی روشن ہو جاتا ہو۔“ (ابن ابی حاتم) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں نور ملے گا، ان کے اعمال کے مطابق، جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گذریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہو گا بعضوں کا کھوکھ جتنا اور سب سے کم نور والا وہ ہو گا جس کا نور اس کے انکوٹھے پر ہو گا کبھی چک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ (ابن ابی حاتم) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”تمام اہل توحید کو قیامت کے دن نور ملے گا۔ جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو موحدوں کو کہیں گے رَبِّنَا أَتَيْمَ لَنَا نُورًا نَأَيْرُبْ ہمارے نور کو پورا کر،“ (ابن ابی حاتم) ضحاک بن مزاحم کا بھی یہی قول ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن لوگ کئی قسم کے ہوں گے خالص مومن وہ جن کا بیان الگی چار آئیوں میں ہوا، خالص کفار جن کا ذکر اس کے بعد کی دو آئیوں میں ہے اور منافق جن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو خالص منافق جن کی مثال آگ کی روشنی سے دی گئی۔ دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں، کبھی تو ایمان چک اٹھتا ہے، کبھی بجھ جاتا ہے۔ ان ہی کی مثال بارش سے دی گئی ہے یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہیں۔

ٹھیک اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چہاگے سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہوا اور خود فانوس بھی چکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ چنانچہ ایمان دار کا ایک تو خود دل روشن دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد بس روشنی پر روشنی نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سختی ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چکلیے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاساپانی سختا ہے یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ ایک اور جگہ پران جاہل کافروں کی مثال بیان کی جو جہل بسیط میں گرفتار ہیں۔ فرمایا، ماندخت اور اندر ہیروں کے جو گہرے سندھر میں ہوں، جو موجوں پر موجیں مار رہا ہو، پھر ابر سے ڈھکا ہوا ہوا اور اندر ہیروں پر اندر ہیرے چھائے ہوئے ہوں، ہاتھ نکالے تو دیکھی بھی نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ جس کے لئے اللہ کی طرف سے نور نہ ہوا اس کے پاس نور کھاہ سے آئے؟ پس کفار کی بھی دو قسمیں بیان کیں۔ ایک تو دوسروں کو کفر کی طرف بلانے والے دوسرے ان کی تقلید کرنے والے۔ جیسے سورہ حج کے شروع میں ہے وَمَنَ النَّاسُ مَنْ يُحَاجِدُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بَعْضُهُو لَوْلَاتٍ وَنُورٌ وَذُهُونٌ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَنَ النَّاسُ مَنْ يُحَاجِدُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتْبٌ مُنِيرٌ بعض لوگ علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بڑتے جھگڑتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے شروع اور آخر میں اور سورہ انسان میں مومنوں کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، سابقین اور اصحاب بیکین یعنی مقریبین بارگاہ ربانی اور پرہیز گارو نیک کا رلوگ۔ پس ان آئیوں سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی دو

جماعتیں ہیں مقرب اور ابرار اور کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں، کفر کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے اور منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ خالص اور پکے منافق اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک آدھ شاخ ہے۔

صحیحین میں حدیث ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پختہ منافق ہے اور جس میں ایک ہواں میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے نہ چھوڑے۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلائی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں بھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے خواہ وہ نفاق عملی ہو نہ ہو اعتمادی ہے کہ آیت و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کا بیان پہلے بھی گذر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دل چار قسم کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح پچک رہا ہو دوسرا ہے وہ دل جو غلاف آلوہ ہیں، تیرے وہ دل جو اٹھے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخنوٹ ہیں۔ پہلا دل مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے۔ دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکا رکرتا ہے۔ چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سیزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو اب جو مادہ بڑھ جائے، وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد بہت بی اعداد ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں بر باد کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اگر چاہے تو عذاب و سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لئے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اپنی جبروت سے ڈرایا اور کہہ دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قادر ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کرنے اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہے۔ قدری کے معنی قادر کے ہیں جیسے علمیں کے معنی عالم کے ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں یہ دونوں مثالیں ایک ہی قسم کے منافقوں کی ہیں۔ اور معنی میں ایک ہے۔ جیسے فرمایا وَلَا تُطْعِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُورًا یہاں لفظ ادا اختیار کے لئے ہے یعنی خواہ یہ مثال بیان کرو خواہ وہ مثال بیان کرو اختیار ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں اور یہاں پر تاوی یعنی بر ابری کے لئے ہے جیسے عربی زبان کا محاورہ ہے جَاهَسَ الْحَسَنَ أَوْ أَبَنَ سَيِّرَيْنَ۔ زمحشی بھی یہی توجیہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہو گا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جو مثال چاہو یہاں کرو دوں تو ان کے مطابق ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ باقیار منافقوں کی اقسام کے ہے۔ ان کے احوال و صفات طرح طرح کے ہیں۔

جیسے کہ سورہ برات میں وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ کر کے ان کی بہت سی قسمیں بہت سے افعال اور بہت سے اقوال بیان کئے ہیں تو یہ دونوں مثالیں دو قسم کے منافقوں کی ہیں جو ان کے احوال اور صفات سے بالکل مشابہ ہیں واللہ اعلم۔ جیسے کہ سورہ نور میں دو قسم کے کفار کی مثالیں بیان کیں۔ ایک کفر کی طرف بلانے والے دوسرے مقلد۔ فَرَمِيَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسْرَابٌ بِقَبْعَةٍ پھر فرمایا اُو كَظُلْمَتِ اُسْ هُلْمٍ لِيَنِي رَبِيَتْ کے تودے کی کفر کی طرف بلانے والوں کی ہے جو جہل مرکب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری مثال مقلدین کی ہے جو جہل بیپیٹ میں بیٹلا ہیں۔ واللہ اعلم۔

**يَا يَهُا النَّاسُ اَعْبُدُو وَارَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ  
بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرْتَ  
رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا اِلَهًا آنَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو بیدار کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے ॥ جس نے تمہارے لئے زمین کو چھوٹا بنایا اور آسمان کو چھٹا اور آسمان سے پانی اتا کر اس سے پھل بیدار کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جانے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو ॥

تعارف اللہ بزبان اللہ: ☆ (آیت: ۲۱-۲۲) یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لا یا، اسی نے ہر طرح کی ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائیں اسی نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں مغضوب پہاڑوں کی میخیں گاڑویں اور آسمان کو چھٹت بنایا۔ جیسے کہ دوسری آیت میں آیا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفاً مَحْفُوظًا اُنْهُ يَعْنِي آسمان کو محفوظ چھٹت بنایا اس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب پادل نازل فرماتا ہے۔ اس وقت جبکہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول بیدار کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کے جانور بھی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے اللہ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا لِّنَّ اللَّهَ تَعَالَى نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھٹت بنایا اور تمہیں پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور بھلی بھلی روزیاں پہنچائیں، یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پانے والا ہے۔ پس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس لئے شرک سے مبراہر تم کی عبادت کا وہی مستحق ہے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہٹھر او جبکہ تم جانتے ہو۔

صحیحین میں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضور سب سے برا گناہ کونسا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے، کسی کو شریک نہ ہزانا۔ حضرت معاذ والی حدیث میں ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ دوسری حدیث میں ہے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے بلکہ یوں کہے جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ طفیل بن شمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں چند یہود یوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، میں نے کہا افسوس تم میں یہ بڑی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو لیکن افسوس تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد ﷺ چاہیں، پھر میں نصراں یوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا افسوس تم بھی صحیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، انہوں نے بھی یہی جواب دیا میں نے صحیح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا پھر دربار نبوی میں حاضر ہو کر آپ سے بھی یہی خواب بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور اب آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں بعض کو بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو! اب ہرگز ہرگز اللہ چاہے اور اس کا رسول، کبھی نہ کہتا بلکہ یوں کہو کہ

صرف اللہ تعالیٰ اکیلا جو چاہے (ابن مردویہ)۔

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہوا تاہے، یوں کہہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے (ابن مردویہ) ایسے تمام کلمات توحید کے سراسر خلاف ہیں۔ توحید باری کی اہمیت کے بارے میں یہ سب احادیث بیان ہوئی ہیں۔ واللہ عالم۔

تمام کفار اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی توحید کے پابند ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے اور تم جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ﷺ تمہیں اس توحید کی طرف بارہے ہیں جس کے حق اور حق ہونے میں کوئی مشکل نہیں۔ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیسے چیزوں جو رات کے اندر ہیں میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو، قسم ہے اللہ کی اور قسم ہے آپ کی حیات کی۔ یہ بھی شرک ہے، انسان کا یہ کہنا اگر یہ کیتا نہ ہوتی تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے، یہ بھی شرک ہے آدمی کا یہ قول کہ اگر لٹخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی، یہ بھی شرک کا علم ہے کسی کا یہ قول کہ جو اللہ چاہے اور آپ یہ بھی شرک ہے کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا۔ یہ سب کلمات شرک ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہوا تاہے؟ دوسری حدیث میں ہے تم اپنے لوگ ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے۔ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔<sup>②</sup> ابوالعلیٰ فرماتے ہیں، انداز کے معنی شریک اور برابر کے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں تم توراۃ اور انجلیل پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک اور لا شریک ہے۔ پھر جانتے ہوئے کیوں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہوا تے ہو؟

پانچ احکام: ☆☆ مسند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان پانچ چیزوں پر کار بند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دو۔ لہذا یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ذر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جائے پس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شنبیان کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود بھی عمل کروں، تم سے بھی ان پر عمل کروں۔

ایک یہ کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص خاص اپنے ماں سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کا ج کرے لیکن جو کچھ حاصل ہوا سے کسی اور کو دے دئے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں روزی دینے والا تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہوا۔

دوسری یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرے جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر الافتات نہ کرنا۔

تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشکل کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ مутطر ہیں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوبیوں اللہ تعالیٰ کو مشکل کی خوبیوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔

چوڑا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے باٹھ باندھ دیئے، گردن مارنے کے لئے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیے لے لو اور مجھے چھوڑ دو چنانچہ جو کچھ تھا، کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑائی۔

پانچواں اس کا حکم یہ ہے کہ بہ کثرت اس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پالیتا ہے۔ اسی طرح بنده اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے پچاہوا ہوتا ہے۔ یہ رما کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اب میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور جاننا، بھرجت کرنا اور جہاد کرنا، جو شخص جماعت سے ایک باشت بھر بکل جائے وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکار پکارے وہ جہنم کا کوڑا کر کر ہے لوگوں نے کہا حضور اگر چہ وہ روزے دار اور نمازی ہو۔ فرمایا اگر چہ نماز پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، مسلمین، مومنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں بیدار کیا ہے، وہی تمہیں بیدار کیا ہے، پس عبادت بھی اسی کی کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں تو حیدر باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیئے۔ کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہئے۔ ہر ایک عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔

اثبات وجود اللہ العلیمین: ☆☆ امام رازیؒ وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ اور فی الواقع یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نوع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا لفظ بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا، ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت، حکمت، زبردست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدبوی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا یا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْبَعْرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْبَعْرِ وَإِنَّ أَنْرَ الْأَقْدَامَ لَيَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ۔ فَسَمَاءَ ذاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٍ ذاتُ فِجاجٍ - وَبِحَارٌ ذاتُ أَمَوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ الْلَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ یعنی یعنی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نشان زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے تو کیا یہ برجوں والا آسمان یہ راستوں والی زمین یہ موجودیں مارنے والے سمندر، اللہ تعالیٰ باریک ہیں اور باخبر کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہوتا، آزادوں کا جدا گانہ ہوتا، نفوں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا تمہرباں ہے نہ چلانے والا ہے باوجود اس کے وہ برادر آج رہی ہے اور بڑی بڑی موجودوں کو خود بخود چیزیں چھاڑتی گذرا جاتی ہے، تمہربنے کی جگہ پھر جاتی ہے، چلنے کی جگہ چلتی رہتی ہے، نہ اس کا کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا، آپ کس سوچ میں پڑ گئے۔ کوئی منتظر ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ خاطم و والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، افسوس تھا ری عقولوں پر ایک کشتی تو

بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے لیکن یہ ساری دنیا آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر گئی رہیں اور ان کا مالک حاکم خالق کوئی نہ ہو؟ یہ جواب سن کر وہ لوگ چکا رکا ہو گئے اور حق معلوم کرنے کے مسلمان ہو گئے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں ایک ہی ذائقہ کے ہیں، کیڑے اور شہد کی کمی اور گائیں بکریاں ہر ہن وغیرہ سب اس کو چراتے کھاتے اور چرتے چلتے ہیں اسی کو کھا کر راشم کا کیڑا راشم تیار کرتا ہے کمی شہد بناتی ہے ہر ہن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائیں بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امرکی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ اور اسی کو ہم اللہ بتارک تعالیٰ مانتے ہیں وہی موجود اور صانع ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا۔ سنو یہاں ایک نہایت مضبوط قلمعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے بلکہ سوارخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور پر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جاسکتی اچاک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں، کانوں والا خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو۔ چاروں طرف سے بند ہے۔ پھر اس میں پروردگار خالق کیتا جاندار بچ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ حضرت ابو نواس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آسمان سے بارش برنا، اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میوں کا لگنا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ ابن المعتز فرماتے ہیں۔ افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی تکذیب پر لوگ کیسے دلیر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر چیز اس پروردگار کے موجود اور لاشریک ہونے پر گواہ ہے۔

بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو ان کی بلندی، ان کی وسعت ان کے چھوٹے بڑے چمکیے اور روشن ستاروں پر نظریں ڈالو۔ ان کے چکنے دلکھے، ان کے چلنے پھر نے تھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ملنے نہیں دیتے، جن کے رنگ جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ قسم قسم کی دوسری مخلوقات پر نظر ڈالو ادھر سے ادھر پھر جانے والی، ہستیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنا نہروں کو دیکھو۔ ہستیوں باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول، مزے مزے کے میوں پر غور کرو۔ زمین ایک پانی ایک لیکن شکلیں، صورتیں، خوبیوں میں رنگ ذائقہ، فائدہ الگ الگ۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں تباہیں کہ ان کا صانع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجودات با آواز بلند نہیں کہہ رہیں کہ ان کا موجود کوئی ہے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اس کی ذات اور اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی۔ یہ ہیں وہ زور دار دلائل جو اللہ جل و علا نے اپنی ذات کے منوانے کے لئے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو اس کی زبردست قدر توں اس کی پر زور حکمتوں، اس کی لا ہاتی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں، اس کے لازواں احسانوں پر دلالت کرنے کے لئے کافی وافی ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے نہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا نہ اس کے سوا کوئی مجبود برحق، نہ اس کے سوا کوئی مجبود لا شک۔ ہاں دنیا کے لوگوں! سن لو میرا تو کل اور بھروسہ اسی پر ہے۔ میری اتنا بت اور الجھا اسی کی طرف ہے، میرا حکلنا اور پست ہونا اسی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماوی و مجاہدی ایک ہے، اس کے دست رحمت کو تکتا ہوں اور اسی کا نام جپتا ہوں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَرَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ  
وَادْعُوا شَهَدَاءَ كُمَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ  
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا  
**النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ هُمَا أَعِدَّتْ لِلْكُفَّارِينَ**

ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں ٹک ہو تو تم پچے ہو تو تم اس جیسی ایک سورت تو بنالا و۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مدگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو (اسے چامان کر) اس آگ سے پچھو جس کا ایدھن انسان ہیں اور پھر جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

قصد یقین بوت اعجاز قرآن: ☆☆ (آیت: ۲۳-۲۴) توحید کے بعد اب نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کفار کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے پر اتارا ہے اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مدگار سبل کر پورا قرآن نہیں صرف ایک سورت تو اس جیسی بنالا و۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں مشک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکر اور مدگار سب کو جمع کرو تو بھی تم سب ناکام رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معمود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لو اور ان سے بھی مدد چاہو پھر اس جیسی ایک سورت ہی تو بنالا و۔ حضرت مجاهد فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان داں فتح و یلغ لوگوں سے بھی مدد لے لو۔

قرآن پاک کے اس مجرمے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کئی جگہ ہے سورہ قصص میں ہے فَإِنْتُو أَيْكِتَبْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبْعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ یعنی اگر تم پچے ہو تو ان دونوں سے (یعنی توریت و قرآن سے) ازیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ کی کتاب لا و تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔ سورہ سجان میں فرمایا قُلْ لَيْنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ إِنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيَعْضِ ظَهِيرًا یعنی اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس حیسا قرآن بنائیں تو بھی ان کے امکان میں نہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلْ فَإِنْتُو بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتْ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑایا۔ تم کہو کہ اگر تم پچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلکہ اس جیسی دس سورتیں ہی بنالا و۔

سورہ یونس میں ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُغَرِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي يَنَّ يَدِيهِ وَنَفْصِيلَ الْكِتَبِ لَأَرِيْبِ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلْ فَإِنْتُو أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہو نہیں بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب تفصیل ہے جس کے اللہ کی کلام ہونے میں کوئی مشک نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے، کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلکہ اس قرآن کی سیکنڈریوں سورتوں میں سے ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت تو بنالا و تا کہ تمہارا حق ظاہر ہو۔ یہ تمام آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلہ میں عاجز ہاتھ کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو

دو ہرایا گیا۔ اور کسی آیت مثلاً کی ضمیر کو بعض نے قرآن کی طرف لوٹایا ہے یعنی کوئی سورت اس قرآن جیسی لاو۔ بعض نے یہ ضمیر محمد ﷺ کی طرف لوٹائی ہے یعنی آپ جیسا کوئی ایسا ہو یہی نہیں سکتا ہے کہ کچھ پڑھا ہوانہ ہونے کے باوجود وہ کلام کہے جس کا مثل کسی سے نہ بن سکے لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ مجاہد، قادر عرب بن مسعود ابن عباسؓ حسن بصری اور اکثر محققین کا یہی قول ہے۔ امام ابن جریز طبری، رختری، رازی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی وجہیں بہت سی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کوڈانت ڈپٹ ہے، جمع کر کے اور الگ الگ بھی، خواہ وہ اگی اور ان پڑھ ہوں یا اہل کتاب اور پڑھے لکھے ہوں، اس میں اس مجرمے کا کمال ہے اور پہنچت اس کے کہ صرف ان پڑھ لوگوں کو عاجز کیا جائے اس میں زیادہ مبالغہ ہے پھر دس سورتوں کا مطالبہ کرنا، اس کی مثل نہ لاسکنے کی پیشین گوئی کرنا بھی اسی کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے نہ کہ ذات رسول اللہ ﷺ۔ پس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کردی گئی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں، مکہ میں اور مدینہ میں بارہا اس کا اعادہ کیا گیا اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپؐ کی اور آپؐ کے دین کی دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، وہ درحقیقت اس سے عاجز آگئے نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ دس سورتوں کا نہ ایک سورت کا۔

پس ایک مجرمہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک جھوٹی سی سورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا مجرمہ یہ ہے کہ پیشین گوئی حق ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، گو سب جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کریں۔ پس ایسا ہی ہوا نہ تو اس زمانہ میں کسی کو یہ جرأت ہوئی نہ اس کے بعد سے آج تک اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا اور بھلا کیسے ہو سکتا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اسی طرح اس کا کلام بھی۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کو بیک نظر دیکھنے سے اس کے ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو حقوق کے بس کے نہیں۔ خود رب العالمین فرماتا ہے الرَّحْمَةُ أَكْبَرُ حِكْمَةٍ اِيَّتُهُ تُمْ فُصِّلَتْ اَلْحُجَّةُ اِنْ لَيْسَ اِنَّ كِتَابَ كَيْ آتَيْتَ جُو حِكْمَةً وَاَلَّا هُوَ مُفْصَلٌ اَلْكَلْمَنْ مُضْبُطٌ اَلْكَلْمَنْ مُفْصَلٌ الْكَلْمَنْ ہیں۔ پس الفاظ حکم اور معانی مفصل یا الفاظ مفصل اور معانی حکم۔ پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بنظیر ہے جس کے مقابلے معارضے اور مثل سے دنیا عاجز اور بے بس ہے۔

اس پاک کلام میں اگلی خبریں جو دنیا سے پوشیدہ تھیں، وہ ہو بہو بیان کی گئیں، آنے والے امور کے تذکرے کے گئے جو لفظ بے لفظ پورے اترے۔ تمام بھلائیوں کا حکم تمام براشیوں سے ممانعت اس میں ہے۔ حق ہے وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لِيَمِنِ خُرُوفِ میں صداقت اور احکام میں عدل، تیرے رب کے کلام میں پورا پورا ہے۔ پاکیزہ قرآن تمام ترقی و صداقت و ہدایت سے پر ہے نہ اس میں وہی تو اسی باتیں ہیں نہ بُلْكَ نَدْبٌ وَفُرْتٌ اجو شاعروں کے کلام میں عموماً پایا جاتا ہے بلکہ ان کے اشعار کی قدر و قیمت ہی اسی پر ہے۔ مقولہ شہور ہے کہ اعدبہ اکذبہ جوں جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزیدار۔ تم دیکھو گے کہ لمبے لمبے پر زور قییدے مبالغہ اور کذب آمیز یا تو عورتوں کی تعریف و توصیف میں ہوں گے یا گھوڑوں کی اور شراب کی ستائش میں ہوں گے یا کسی انسان کی بڑھی چڑھی مدح و تعریف میں ہوں گے یا اونٹیوں کی آرائش و زیبائش یا بہادری کے مبالغہ آمیز گیت یا لڑائیوں کی چال بازاریوں یا ڈرخوف کے خیالی مظروں کے بیان میں ہوں گے جن سے کوئی فائدہ نہیں۔ نہ دین کا، نہ دنیا کا، صرف شاعر کی زبان دانی اور اس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے، نہ اخلاق پر ان سے کوئی عمرہ اڑنے اعمال پر۔

پھر نفس مضمون کے بھی پورے قصیدے میں بمشکل دو ایک شعر ہوتے ہیں۔ باقی سب بھرتی کے اور ادھر ادھر کی لا یعنی اور فضول بکواس،

برخلاف اس کے قرآن پاک پر نظرِ اللہ تو دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے دین و دنیا کے نفع سے خیر و برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہا کہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست، مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ اور اس کی تفصیل مججزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دوہرنا قدر کامرا مزہ دیتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی باش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو دلمہ اکتا ہے مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ۔ مضمایں سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہوں۔ یہ قرآن پاک کا ہی خاصہ ہے اس چاشنی کا ذائقہ، اس مٹھاں کا مزہ کوئی اس سے پوچھنے جنہیں عقل و حواس، علم و فعل کا کچھ حصہ قدرت نے عطا فرمایا۔ اس کی تہذیب دھکاو، تہذیب اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو بلادے۔ انسانی دل کیا ہیں۔ اس کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور حمتوں کا بیان دلوں کی پُرمردہ کلی کو کھلادینے والا شوق و تمنا کے دبے جذبات کو ابھار دینے والا جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے کر لانے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں خل جاتی ہیں۔

رغبت دیتے ہوئے وہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَةٍ أَعْيُنٌ لَّغْ كُوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بد لے اس کی آنکھوں کی مٹھنڈک کا کیا کیا سامان چکے چکے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشَهَّدُهُ الْأَنْفُسُ لَغْ اس دائی جنت میں ہر وہ چیز ہے جو دل کو بھائے اور آنکھوں میں کھب جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے فرماتا ہے أَفَأَمْتَثُمْ أَنْ يَحْسِفُ يُكْمُ حَانِبَ الْبَرِ<sup>۱۰</sup> فرمایا امتنم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ امْتَثُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذَرِيْرَ كیا تم اپنے دھنائے جانے یا آسان سے پھر بر سائے جانے سے مذر ہو گئے ہو؟ کیا آسانوں والا اس پر قادر نہیں؟ اسے محض دھمکی ہی نہ سمجھو بلکہ اس کی حقیقت عنقریب تم پر کھل جائے گی۔ زجر و توبخ، دانت ڈپٹ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے فَكُلُّاً أَخْدَنَا بِذَنْبِهِ ایک ایک کوہم نے اس کی بد کرواریوں میں پکڑ لیا۔ بطور وعظ و نصیحت بیان ہوتا ہے افریت ان متعنہم سینین ثم جاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ اگر ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ ۲۹ خود مدعے کی گھری آنچنی اور اس جاہ و جلال نے کوئی نفع نہ بخشنا۔ غرض کوئی کہاں تک بیان کرے۔ جس مضمون کا ذکر کیا، اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا اور طرح طرح کی فصاحت و بلاغت، حلاوت و حکمت سے معمور کر دیا۔ احکام کے حکم اور روک ٹوک کو دیکھنے۔ ہر حکم اچھائی بھلائی، نفع اور پاکیزگی کا جامع ہے۔ ہر مانعت قباحت، رذالت اور خباثت کی قاطع ہے۔

ابن معروف وغیرہ اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آئے تو کان لگادو۔ یا تو کسی اچھائی کا حکم ہو گا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ خود پر درگار عالم فرماتا ہے يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيْرُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيْثَ وَيَقْسِمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالآَغْلَلُ التَّيْ كَانَتْ عَلَيْهِمُ لَغْ یعنی بھلاکیوں کا حکم دیتا ہے، برا سیوں سے روکتا ہے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے وہ بوجھل بیڑیاں جو پاؤں میں تھیں، وہ خخت طوق جو گلوں میں تھے، اتار پھیکلتا ہے، قیامت کے بیان کی آیتیں ہیں کہ ہولناک مناظر جنت و دوزخ کا بیان، حمتوں اور رحمتوں کا پورا پورا وصف، اولیاء اللہ کے لئے طرح طرح کی نعمتیں، وہشان اللہ کے لئے طرح طرح کے عذاب، کہیں بشارت ہے، کہیں ذراوا ہے، کہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہے، کہیں بدکاریوں سے ممانعت ہے، کہیں دنیا کی طرف سے زہد کرنے کی، کہیں آخرت کی طرف رغبت کرنے کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تمام آیتیں ہیں جو راہ راست دھکاتی ہیں اور بہتر رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ شریعت کی طرف جھکاتی ہیں اور دلوں کو جلا جختی ہیں اور شیطانی دروازوں کو

بند کر دیتی ہیں اور برے اثرات کو زائل کرتی ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے مجھزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے اور میرا مجھہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ میرے تابع دار ابہ نسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے اس لئے کہ اور انبیاء کے مجھزے ان کے ساتھ چلے گے لیکن حضور گاہِ مجھہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ حضور گاہِ فرمان کہ میرا مجھہ وحی ہے جو مجھ کو دی گئی ہے کام مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اور قرآن کریم مجھی کو ملا ہے جو اپنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عازم کر دینے والا ہے۔ بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے۔ وہ اکثر علماء کے نزد یہ اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ اعلم۔ آنحضرت ﷺ کی نبوت آپ کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت پر اس مجھزے کے علاوہ بھی اس قدر زائل ہیں جو کہ بھی نہیں جاسکتے۔ لله الحمد والمنته۔

بعض متکلمین نے قرآن کریم کے اعجاز کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے جو اہل سنت کے اور معتزلہ کے قول پر مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ قرآن فی نفس مجھہ ہے۔ انسان کے امکان میں ہی نہیں کہ اس جیسا بنا لاسکے۔ انہیں اس کا معارضہ کرنے کی قدرت و طاقت ہی نہیں۔ یا یہ کہ گواں کا معارضہ ممکن ہے اور انسانی طاقت سے باہر نہیں لیکن باوجود اس کے انہیں معارضہ کا حلیخ دیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ عداوت اور دشمنی میں بڑھے ہوئے ہیں دین حق کو مناٹے ہو وقت ہر طاقت کے خرچ کرنے اور ہر چیز کے برہاد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تاہم قرآن کا معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر قدرت و طاقت ہو بھی وہ انہیں روک دیتا ہے اور وہ قرآن کا مثل پیش کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ گویہ چھپلی جو جاتی پسندیدہ نہیں تاہم اگر اسے بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی قرآن پاک کا مجھہ ہونا ثابت ہے جو بطریق تنزل حمایت حق اور مناظرے کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ امام رازیؒ نے بھی چھوٹی چھوٹی سورتوں کے سوال کے جواب میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

جہنم کا ایندھن: ☆☆ وَقُوْدُ کے معنی ایندھن کے ہیں جس سے آگ جلانی جائے۔ جیسے چپیاں لکڑیاں وغیرہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے۔ وَأَمَّا الْقَسْطُولُوْ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَّابًا طَالِمًا لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا، تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہو گے۔ اگر وہ پچ معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور حجَّارَةَ کہتے ہیں پھر کو۔ یہاں مراد گندھک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بد بودار پھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں، ان پھر وہ کو زمین و آسان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسان اول پر پیدا کیا گیا (ابن جریر ابی حاتم، مسدد رک حاکم)، ابن عباس، ابن مسعودؓ اور چند اور حصحابہ رضوان اللہ علیہم السلام، جعین سے سدی نقش کیا ہے کہ جہنم میں یہ سیاہ گندھک کے پھربھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں، ان پھر وہ کی بدموداری کی بو سے بھی زیادہ ہے۔ محمد بن علیؓ اور ابن جریحؓ بھی کہتے ہیں کہ مراد گندھک کے بڑے بڑے اور سخت پھر ہیں۔ بعض نے کہا ہے مراد وہ پھر جن کی سورتیاں ہنائی جاتی ہیں اور پھر ان کی سپتش کی جاتی تھی۔ جیسے اور جگہ ہے انگُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں؛ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ قرطبیؓ اور رازیؒ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ گندھک کے پھر جو کسی شکل میں بھی اللہ کے سوا پوجے جاتے ہوں لیکن یہ وجہ کوئی قوی وجہ نہیں۔ اس لئے کہ جب آگ گندھک کے پھر وہ سلاکی

جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس کا بھڑکنا، جلننا، سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تفسیر بھی مردی ہے۔ اسی طرح ان پھر دوں میں آگ کالگنا بھی ظاہر ہے اور آیت کا مقصد آگ کی تیزی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے اور اس کے بیان کے لئے بھی یہاں پھر سے مراد گندھک کے پھر لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ آگ تیز ہو اور اس سے بھی عذاب میں بچتی ہو۔ قرآن کریم میں ہے ٹکلما خبَّتْ رَذْنَهُمْ سَعِيرًا جہاں شعلے ہلکے ہوئے کہم نے اور بھڑکا دیا۔

ایک حدیث میں ہے ہر مودی آگ میں ہے لیکن یہ حدیث محفوظ اور معروف نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کو ایذا دئے جہنمی ہے دوسرا یہ کہ ہر ایذا دہنہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی جو جہنمیوں کو عذاب دے گی۔ اعدَّتْ یعنی تیار کی گئی سے مراد بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ آگ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد پھر دوں یعنی وہ پھر جو کافروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ ابن مسعود کا بھی قول ہے اور فی الحقيقة و نون میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ پھر دوں کا تیار کیا جانا، آگ کے جلانے کے لئے ہے اور آگ کی تیاری کے لئے پھر دوں کا تیار کیا جانا ضروری ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو کفر پر ہو اس کے لئے وہ آگ تیار ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جہنم اب موجود اور پیدا شدہ ہے کیونکہ ”اعدَّتْ“ کا الفاظ یہ اس کی دلیل میں آیا ہے۔ بہت سی حدیثیں بھی ہیں۔ ایک مطول حدیث میں ہے۔ جنت اور دوزخ میں بھگڑا ہو لوسری حدیث میں ہے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے دو سانس لینے کی اجازت چاہی اور اسے سردی میں ایک سانس لینے اور گری میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دے دی گئی۔ تیسرا حدیث میں ہے، ”صحابہ“ کہتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی۔ حضور سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا، ستر سال پہلے ایک پھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ تہ کو پہنچا۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ حضور نے سورج گہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ آپ نے شب معراج میں جہنم کو اور اس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سی صحیح متواتر حدیثیں مردی ہیں۔ معتزلہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے۔ قاضی اندرس منذر بن سعید بلوطی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے۔ فائدہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اور سورہ یونس میں جو کہا گیا ہے کہ ایک ہی سورت کے مانند لا اور اس میں ہر چھوٹی بڑی آیت شامل ہے۔ اس لئے عربیت کے قاعدے کے مطابق جو اسم نکرہ ہو اور شرط کے طور پر لایا گیا ہو وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے جیسے کہ کہہ نہیں کی تخت میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس لمبی سورتوں اور چھوٹی سورتوں سب میں اعجاز ہے اور اس بات پر سلف و خلف کا اتفاق ہے۔

امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ کر سورت کا لفظ سورہ کوثر اور سورہ العصر اور سورہ قلْ یا ایُّهَا الْكَفَرُوْنَ جیسی چھوٹی سورتوں پر بھی مشتمل ہے اور یہ بھی یقین ہو کہ اس جیسی یا اس کے قریب قریب کسی سورت کا بنایا ممکن ہے تو اسے انسانی طاقت سے خارج کہنا نری ہے وھری اور بے طارف داری ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس کے مجرمنا ہونے کے دو طریقے یہاں کر کے دوسرے طریقہ کو اسی لئے پسند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی سورتیں بھی فصاحت و بلاغت میں اسی پایہ کی ہیں کہ وہ مجرمہ کی جائیں اور انکار تعارض ممکن نہ ہو تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر یہ سورتیں ایسی نہیں تو بھی ہمارا مقصود حاصل ہے اس لئے کہ ان جیسی سورتوں کو بنانے کی انسانی قدرت ہونے پر بھی سخت دشمنی اور زبردست کوششوں کے باوجودنا کام رہنا، اس بات کی صاف دلیل ہے کہ قرآن مع اپنی چھوٹی چھوٹی سورتوں کے سراسر مجرمہ ہے۔ یہ تو ہے کلام رازی کا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر بڑی چھوٹی سورت فی الواقع مجرمہ ہے اور انسان اس کی مانند بنانے

سے محض عاجز اور بالکل بے لس ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ غور و تدبر سے، عقل و هوش سے سورہ و اعصر کو سمجھ لیں تو انہی کافی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفد میں شامل مسیلمہ کذاب کے پاس گئے (تب یہ خود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) تو مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہ سے آ رہے ہوئے تاڑ تو آج کل کوئی نازل ہو گی بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، بھی ابھی ایک مختصری سورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فضح و لیغ و ارجامیں اور مانع ہے۔

پھر سورہ والاعصر پڑھ کر سنائی تو مسیلمہ نے کچھ دریوسوچ کر اس کے مقابلہ میں کہا، مجھ پر بھی ایک ایسی ہی سورت نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی ساؤ تو اس نے کہا یا وَبَرُّ يَا وَبَرُّ اِنَّمَا اَنْتَ اُذْنَانَ وَصَدْرٍ وَسَآئِرُكَ حَقَرٌ فَقَرٌ یعنی اے جنگلی چو ہے اے جنگلی چو ہے تیر او جو دسوائے دو کافوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں۔ باقی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔ پھر فخر یہ کہنے لگا کہواے عمر و کیسی کہی؟ انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ تو خود جانتا ہے کہ یہ سراسر کذب و بہتان ہے۔ بھلا کہاں یہ فضول کلام اور کہاں حکمتوں سے بھر پورہ کلام؟

**وَبَشِّرُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاحَتِ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا أَمْرٌ ثُمَّرَةٌ رِّزْقًا لَّقَالُوا  
هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأَتُوَّبُ إِلَيْهِ مُتَشَابِهًاتٍ وَلَهُمْ فِيهَا  
أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝**

ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشیاں دو جنم کے نیچے نہیں بہتر ہیں۔ جب کبھی چالوں کی روزیاں دیئے جائیں گے تو کہیں کے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے اور ہم محل لائے جائیں گے اور ان کے لئے یہیاں ہیں صاف تھی اور وہ ان جنتوں میں بیشتر ہے والی ہیں ۰

**اعمال و جہ بشارت:** ☆☆ (آیت: ۲۵) چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزا عذاب اور رسولوں کا ذکر ہوا تھا، اس لئے یہاں ایمانداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزا اٹواب اور سرخوبی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مثاثی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو صحیح تر قول بھی ہے کہ اس میں ہر فضمون تقابلی جائزہ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی کسی مناسب جگہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی کفر کا، کفر کے ساتھ ایمان کا، نیکوں کے ساتھ بدلوں کا اور بدلوں کے ساتھ نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہے اس کے مقابلہ کی چیز کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے چاہے معنی میں مُتَشَابِه ہوں یہ دونوں لفظ قرآن کے اوصاف میں وارد ہوئے ہیں۔ اے مثاثی بھی کہا گیا ہے اور قتابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جنتوں میں نہیں بہنا اس کے درختوں اور بالاخانوں کے نیچے بہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہیں بہتی ہیں لیکن گڑھانہیں اور حدیث میں ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے پچ موتیوں کے قبے ہیں۔ اس کی مشی مشک خالص ہے اور اس کی انکریاں لو لو اور جو ہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وہ احسان کرنے والا اور بر ارجیم ہے۔

حدیث میں ہے جنت کی نہیں ملکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں (ابن ابی حاتم) حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے جنتیوں کا یہ قول کہ پہلے بھی ہم کو یہ میوے دیئے گئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میوے ہمیں ملے تھے صحابہ اور

ابن جریّر نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے یعنی کل بھی بھی دیئے گئے تھے۔ یا اس لئے کہیں گے کہ ظاہری صورت شکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ یعنی بن کیش کہتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا۔ کھائیں گے۔ پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھایا ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ کھائیے تو۔ اگرچہ صورت شکل میں یکساں ہیں لیکن مزہ اور ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے۔ اس کے نیلے مشک کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلام اور ادھر سے میوے لالا کرپیش کر رہے ہیں وہ کھار ہے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ روپ ایک ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے چکھہ کردیکھئے۔ کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ بھی معنی ہیں کہ تم شکل لائے جائیں گے۔ دنیا کے میووں سے بھی اور نام شکل اور صورت میں بھی ملتے جلتے ہوں گے لیکن مزہ پکھوڑو سراہی ہو گا۔

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے ورنہ کہاں یہاں کی چیز کہاں وہاں کی؟ یہاں تو فقط نام ہی ہے عبدالرحمٰنؓ کا قول ہے دنیا کے چھلوٹ جیسے پھل دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ تو دنیا میں کھا چکے ہیں مگر جب چھصیں گے تو لذت کچھ اور ہی ہو گی۔ وہاں جو یوں اپنیں ملیں گی وہ گندگی ناپاکی، حیض و نفاس، بیشاب، پاخانہ، تھوک، رینٹ، منی وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی۔ حضرت حوالیہما السلام بھی حیض سے پاک تھیں لیکن نافرمانی سرزد ہوتے ہی یہ بلا آگئی۔ یہ قول سند اغريب ہے۔ ایک غریب مرفوع حدیث میں ہے کہ حیض پاخانہ تھوک رینٹ سے وہ پاک ہیں۔ اس حدیث کے راوی عبد الرزاق بن عمر بریتی ہیں۔ متدرک حاکم میں بیان کیا جنہیں ابو حاتم لستی نے احتجاج کے قابل نہیں سمجھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت قادہؓ کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ اس زبردست نعمت کو دیکھتے کہ نہ یہ نعمتیں فنا ہوں نہ نعمتوں والے فنا ہوں۔ نعمتیں ان سے چھیں۔ نہ نعمتوں سے الگ کئے جائیں۔ نہ موت ہے نہ خاتمہ ہے نہ تو نہ اور کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ادکنیم بروجیم سے التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی الہ جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمين۔

**إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِنُ ~ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا بَعْوَضَةً فَمَا فَوَقَهَا ~**  
**فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَتَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ**  
**كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا ~ يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا ~**  
**وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ~ وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِيقِينَ ~ لَهُمُ الَّذِينَ**  
**يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَاقَةٍ ~ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ**  
**اللَّهُ بِهِ ~ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ ~ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ~**

یقیناً اللہ تعالیٰ کی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرمناخواد چھر کی ہو یا اس سے بھی بھلی چیز کی۔ ایمان در تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہبتوں کو گراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے ۰ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عهد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ بھی لوگ

اللہ جل شانہ کی مثالیں اور دنیا ☆☆ (آیت: ۲۷-۲۶) ابن عباس، ابن مسعود اور چند اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی تین آئتوں میں منافقوں کی دو مثالیں بیان ہوئیں یعنی آگ کی اور پانی کی تو وہ کہنے لگے کہ ایسی ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آئتوں نازل ہوئیں۔ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں مکری اور کھمی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حیرت پذیروں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جواب یہ آئیں اتریں اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرما تا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں اتری حلالکہ ایسا نہیں۔ واللہ اعلم۔ اور بزرگوں سے بھی اس طرح کاشان نزول مردوی ہے۔

ریج بن انس فرماتے ہیں یہ خدا یک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی۔ محضر جس وقت بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے۔ جہاں موٹا تازہ ہوا مرا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتوں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں، وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے جیسے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرَ وُأْبَهُ اَنْجَبَ يَهُوَ مَحْرُومٌ بِهِ مَحْمُولٌ جَاءَتِهِنَّ بِهِنَّ وَهِيَنَّ اللَّهُ كَمَنْ يَرِيْدُ اَنْ يَجِدَهُ اَنْجَبَ اَنْجَبَ لَهُنَّ اَنْجَبَ لَهُنَّ (ابن جریر ابن ابی حاتم) امام ابن جریرؓ نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے اور مناسب بھی اسی کی اترانے لگتے ہیں، اب دفعۃ ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں (ابن جریر ابن ابی حاتم) امام ابن جریرؓ نے سے اللہ تعالیٰ نذر کرتا ہے نہ زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نذر کرتا ہے نہ جھوکلتا ہے۔ لفظ میہاں پر کی کے معنی بتانے کے لئے ہے اور بعوضہ کا زبردیت کی بنا پر عربی قاعدے کے مطابق ہے جو ادنیٰ سے ادنیٰ چیز پر صادق آ سکتا ہے یا ”ما“ کمروں موصوفہ ہے اور ”بعوضہ“ صفت ہے۔ ابن جریرؓ ”ما“ کا موصولہ ہونا اور ”بعوضہ“ کا اسی اعراب سے مغرب ہونا پسند فرماتے ہیں اور کلام عرب میں یہ بکثرت رائج ہے کہ وہ ما اور من کے صلہ کو انہی دونوں کا اعراب دیا کرتے ہیں اس لئے کہ بھی یہ گرہ ہوتے ہیں اور بھی معرفہ جیسے حسان بن ثابت کے شعروں میں ہے۔

یکفی بنا فضلاً علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا

ہمیں غیروں پر صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دل حب نبی سے پر ہیں۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”بعوضہ“ منسوب ہو حذف جارکی بنا پر اور اس سے پہلے اور بین کا لفظ مقدر مانا جائے۔ کسانی اور قراء اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ضحاک اور ابراہیم بن عبدة ”بعوضہ“ ”بعوضہ“ پڑھتے ہیں۔ ابن حبیبؓ کہتے ہیں یہ ”ما“ کا صلہ ہو گا اور عائد حذف مانی جائے گی جیسے تمامًا علی الَّذِي أَحَسَّ مِنْ فَمَا فَوْقَهَا کے دو معنی بیان کئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور روی چیز۔ جیسے کسی شخص کی خلیل کا ایک شخص ذکر کرے تو دوسرا کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کرے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ کسانی اور ابو عبیدہ بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک ایک محصر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی اس لئے کہ بھلا محصر سے ہلکی اور چھوٹی چیز اور کیا ہو گی؟ قادہ بن و عامہ کا ہمیں قول ہے۔ ابن جریرؓ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی مسلمان کو کاشا چھبے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے پڑھتے ہیں اور گناہ مشتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ فوْقَهَا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرما نہیں اور نہ رکتا ہے۔ اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے عار نہیں۔ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ کان لگا کر سنو۔ جنہیں اللہ کے سوا پاک رکنے ہوؤہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک بھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ کہی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔

دوسرا جگہ فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بنتاتے ہیں، مکڑی کے جالے جیسی ہے جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمرور ہے۔ دوسرا جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طبیبہ کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جذب مضمبوط ہوا رہ جس کی شاخیں آسمان میں ہوں جو بجمک اللہ ہر وقت پھل دیتا ہو۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تبرکے لئے بیان فرماتا ہے اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر اور ہی ہوا رہ جزیں مضمبوط نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضمبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اللہ جو چاہے کرے۔ دوسرا جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ملوك غلام کی مثال پیش کرتا ہے جسے کسی چیز پر اختیار نہیں۔ اور جگہ فرمایا۔ دھنپنوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گراپا بے طاقت ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ جہاں جائے براہی ہی لے کر آئے اور دوسرا وہ جو عدل و حق کا حکم کرے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا جگہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے خوب تھہاری مثال بیان فرماتا ہے۔ کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنا شریک اور برا بر کا حصہ دار سمجھتے ہو؟ اور جگہ ارشاد ہے، اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس کے بہت سے برا بر کے شریک ہوں۔ اور جگہ ارشاد ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں (پوری طرح) صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں جب میں قرآن کی کسی مثال کو سنتا ہوں اور بھجنیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ قادہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ ”ان“ کی ضمیر کا مرتع مثال ہے یعنی مونک اس مثال کو اللہ کی جانب سے اور حق سمجھتے ہیں اور کافر باتیں بناتے ہیں جیسے سورہ مدثر میں ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ أَعْلَمَ یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ اہل کتاب یقین کرتے ہیں۔ ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کو کوئی تحفہ نہیں رہتا لیکن یہار دل اور کفار کہ اٹھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد؟ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے شکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی اسی ہدایت و مثالیت کو بیان کیا۔ ایک ہی مثال کے دور عمل کیوں؟ ﴿ۚ۷۷﴾ صاحبہ کرام سے مردی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور مونک رواہ پاتے ہیں۔ گمراہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس مثال کے درست اور صحیح ہونے کے باوجود اسے جھلاتے ہیں اور مونک اقرار کر کے ہدایت و ایمان کو بڑھایتے ہیں۔ فسیقین سے مراد منافق ہیں۔ بعض نے کہا ہے کافر مراد ہیں جو پہچانتے ہیں اور انکا کرتے ہیں۔ حضرت سعدؓ کہتے ہیں مراد خوارج ہیں۔ اگر اس قول کی سند حضرت سعد بن ابی و قاصؓ تک صحیح ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ یہ تفسیر معنوی ہے۔ اس سے مراد خوارج نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ فرقہ بھی فاسقوں میں داخل ہے جنہوں نے نہر و ان میں حضرت علیؓ پر چڑھائی کی تھی تو یہ لوگ گونزول آیت کے وقت موجود نہ تھے لیکن اپنے بدترین وصف کی وجہ سے معنا فاسقوں میں داخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لئے کہا گیا ہے کہ امام کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور شریعت اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے۔ لغت میں فاسق کہتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو۔ جب چھلکا ہٹا کر خوش لکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں فَسَقَتُ۔ چوہے کو بھی فوئیسقہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے۔

صیحین کی حدیث ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، پانچ جانور فاسق ہیں اور حرم کے باہر قتل کر دیئے جائیں۔ کا چیل، بچھوچھا اور کالا کتا۔ پس لفظ فاسق کا فرکو اور ہر نافرمان کو شامل ہے لیکن کافر کا فرق زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے اور آیت میں مراد فاسق سے کافر ہے۔ واللہ عالم۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ بعد میں ان کا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں۔ اس کے فرمان کا ٹھٹے ہیں اور

زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور یہ سب اوصاف کفار کے ہیں۔

مومنوں کے اوصاف تو اس کے بخلاف ہوتے ہیں جیسے سورہ وعدہ میں بیان ہے کہ **أَقْمَنْ يَعْلَمُ إِنْ كَيْا پس وَهُنَّ خُصْ جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تھھ پر اتراء و حق ہے، کیا اس خُصْ جیسا ہو سکتا ہے جو انہا ہو؟ نصیحت تو صرف تلقیند حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور یہ شاق نہیں توڑتے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑ نے کا حکم دیا ہے، انہیں جوڑتے ہیں۔ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کا نپتے رہتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیں اور جس چیز کے طالے کا اللہ کا حکم ہوؤہ اسے نہ طالیں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان کے لئے لعنتیں ہیں اور ان کے لئے برآگھر ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ نصیحت ہے جو اللہ نے بندوں کو کی تھی جو اس کے تمام احکام بجالانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے پر مشتمل ہے۔ اس کا توڑ دینا اس پر عمل نہ کرنا ہے۔**

بعض کہتے ہیں عہدوں نے والے الٰہ کتاب کے کافر منافق اور ہیں اور عہدوں ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تمام باقوں پر عمل کریں اور محمد ﷺ کی اتباع کریں۔ جب بھی آپ تشریف لے آئیں آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور جو کچھ آپ اللہ کی جانب سے لے کر آئیں، اس کی قدم دیق کریں اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود اثنا اطاعت سے انکار کر دیا اور با وجود عہد کا علم ہونے کے سے چھپا۔ دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کا الٹ کیا۔ امام ابن حجر یاس قول کو پسند کرتے ہیں اور مقابل بن حیان کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ رُبُك و کفر و نفاق والے سب کے سب مراد ہیں۔ عہد سے مراد تو حید اور نبی گی کی نبوت کا اقرار کرنا ہے جن کی دلیل میں محلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے مجرمے موجود ہیں اور اس عہد کو توڑ دینا تو حید و نست سے منہ موڑنا اور انکار کرنا ہے۔ یہ قول اچھا ہے۔ مشری کامیلان بھی اسی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار ہے جو فطرتاً انسان میں؟ داخل ہونے کے علاوہ روز بیشاق بھی منوایا گیا ہے۔ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار ہے جو اب دیا تھا بلی بیٹک تو ہمارا رب ہے۔ پھر جو کتابیں دی گئیں، ان میں بھی اقرار کرایا گیا جیسے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي إِنْ مَرِرَ عَهْدَكُو نَجَاوَ میں بھی اپنے وعدے پورے کروں گا۔ بعض کہتے ہیں وہ عہد مراد ہے جو روحوں سے لیا گیا تھا جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالی گئی تھیں جیسے فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ إِنْ جَبْ تَرِيَ رَبُّكَ إِنْ جَبْ تَرِيَ رَبُّكَ اسے اخراج ہے۔ یہ تمام اقوال تفسیر ابن حجر یاس میں منقول ہیں۔

ابوالعالیٰ فرماتے ہیں، عہدربانی کو توڑنا منافقوں کا کام ہے جن میں یہ خصلتیں ہوتی ہیں۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جن رشتتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے، انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ خصلتیں ان کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہوا ورجب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو تین اگلے کام کرتے ہیں۔ سدیٰ فرماتے ہیں، قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا پچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑ نے کا حکم دیا ہے ان سے مراد صدر حکی کرنا، قرابت کے حقوق ادا کرنا وغیرہ ہے جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے فَهُلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَيْسِيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَنَقْطِعُوْا أَرْحَامَكُمْ قریب ہے کہ تم اگر لوٹو تو زمین میں فساد کرو اور رشتے ناتے توڑ دو۔ ابن حجر یاس کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے یعنی جسے ملانے اور ادا کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اسے توڑا اور حکم عدوی کی۔ خاسروں نے مراد آخرت

میں نقصان اٹھانے والے ہیں جیسے فرمان باری ہے اُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارٍ ان لوگوں کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برآ گھر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سوا جہاں دوسروں کے لئے یہ لفظ آیا ہے وہاں مراد گنہگار ہیں۔ خاسروں میں جمع ہے خاسر کی۔ چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیوی لذتوں میں پُر کر رحمت الہی سے عیندگی کر لی، اس لئے انہیں نقصان یافت کہا گیا جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں گھانا آئے۔ اسی طرح یہ کافر و منافق ہیں یعنی قیامت والے دن جب رحم و کرم کی بہت ہی حاجت ہوگی اس دن رحمت الہی سے محروم رہ جائیں گے۔

## کَيْفَ تَكُونُ كُفَّارُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾

تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارڈا۔ گاہ پھر زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔

**ٹھوں دلائل پرمنی دعوت:** ☆☆ (آیت: ۲۸) اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ قدر توں والا ہے وہی پیدا کرنے والا اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کئے گئے؟ یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هل آئی علیٰ الانسان حیِّنْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے رَبَّنَا أَمَّنَا أَشْتَقَنَا اُنَّا اللہ دو دفعہ تو نے ہمیں مارا اور دو دفعہ جلا یا۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد ہی ہے جو اس آیت وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا اُنَّا لَهُ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بالوں کی پیٹھی میں مردہ تھے یعنی کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی۔ پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی۔ دوزندگیاں اور دموتیں۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھی میں انہیں پیدا کیا پھر ان سے عہد دیا جائے کہ جان کر دیا۔ پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا۔ پھر دنیوی موت ان پر آئی۔ پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا لیکن یہ قول غریب ہے۔ پہلا قول ہی درست ہے۔ اُبْن مسعودؓ اُبْن عباسؓ اُور تابعینؓ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔

قرآن میں اور جگہ ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يَجْمِعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ اُنَّمَّا اللَّهُ هُوَ تَحْمِيلُكُمْ پیدا کرتا ہے پھر مارتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پھر وہ اور تصویروں کو جنمہیں مشرکین پوچھتے تھے، قرآن نے مردہ کہا۔ فرمایا اُمَوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَهُوَ بَرِدٌ ہیں زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وَاٰیةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ ان کے لئے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکلتے ہیں جسے یہ لکھاتے ہیں۔

# هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّلَهُكُمْ بَسْبَعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وہی اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا ہے اور آسمان کی طرف قصد کیا اور ان ساتوں کو تھیک شاک کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ۰

کچھ اور دلائل: ☆☆ (آیت: ۲۹) اور کی آیات میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہیں۔ اب اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ”اسْتَوَاء“ یہاں قصد کرے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے اس لئے کہ اس کا صد ”إلى“ ہے۔ ”سَوْهُنْ“ کے معنی درست کرنے اور ساتوں آسمان بنانے کے ہیں۔ سماءِ اسم جس ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس کا علم میطکل ہے جیسے ارشاد ہے الا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ عَلِيمٌ ہے۔ علم ہو کیے سکتا ہے جو خالق ہو؟ سورہ سجده کی آیت اِنَّكُمْ لِتَكْفُرُوْنَ گویا اس آیت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا ہے کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ جس نے زمین کو صرف دو دن میں پیدا کیا۔ تم اس کے لئے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے۔ جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اور سے گاؤں دیے۔ جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور چار دن میں زمین کی سب چیزوں درست کر دیں۔ جس میں دریافت کرنے والوں کی تخفی ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھویں کی شکل میں تھے، فرمایا کہ اے زمینوادار آسمانوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضاء خوشی حاضر ہیں۔ دو دن میں ان ساتوں آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں (شیطانوں سے) بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی۔ پھر ساتوں آسمان اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے یچھے کا حصہ بنایا جائے پھر اور پہلا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے جس کا بیان بھی ابھی آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ء اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقَةً اَمِ السَّمَاءَ اَلْتَّ تَمَہَرَی پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلاکو بلند کر کے انہیں تھیک شاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد زمین پھیلائی۔ اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے تو بعض بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں ”ثُمَّ“ صرف عطف خبر کے لئے ہے۔ عطف فعل کے لئے نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی۔ عرب شاعروں کے اشعار میں یہ موجود ہے کہ کہیں ”ثُمَّ“ صرف خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لئے ہوتا ہے، تقدیم تا خیر مراد نہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت ”ءَ اَنْتُمْ“ میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلانا اور بچانا وغیرہ بیان ہوا ہے نہ کہ پیدا کرنا۔ تو تھیک یہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پھر زمین کو تھیک شاک کیا اس طرح دونوں آیتیں ایک دوسرے کے خلاف نہ رہیں گی۔ اس عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں (یعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمانوں کی۔ البتہ زمین کی درستی وغیرہ یہ بعد کی چیز ہے) حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مردی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھوان بلند کیا۔ وہ اونچا پانی ہا اور اس سے آسمان بنائے پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی۔ پھر اس کو الگ الگ کر کے سات زمینیں بنائیں۔ اتوار اور پیر کے دو دن میں یہ ساتوں زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر ہے اور مچھلی وہ ہے جس کا

ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے نَ وَ الْقَلْمَنْ مُحْلِّيٰ پانی میں ہے اور پانی صفاۃ پر ہے اور صفاۃ فرشتے پر اور فرشتے پر تھر پر زمین کا پیٹے گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ یہی معنی میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے وَ جَعَلَنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْبَدِّبُهُمُ الْأَرْضُ میں نہ ہے اس لئے ہم نے اس میں پھاڑ جمادیے ہیں۔ پھاڑ زمین کی پیداوار درخت وغیرہ زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے دو دنوں میں پیدا کیں۔ اسی کا بیان قُلْ أَتَنْكِمْ لَتَكْفُرُونَ والی آیت میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا۔ آسمان بنایا پھر اسی میں سات آسمان بنائے۔ جمرات اور جمع کے دو دنوں میں جمع کے دن کو اس لئے جمع کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان ان چیزوں کو جنم کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں، کہ دنیا آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا جیسے فرماتا ہے حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْبَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْنِي چھوٹن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا اور جگہ فرمایا کَانَتَ رَتْقًا إِلَيْنِي يَدِ دُنُوْنِ دَحْوَانَ سَتَّهٗ۔ ہم نے انہیں چھاڑا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی (تفیر سدی) (یہ موقف قول جس میں کئی قسم کا احتمال ہے بے ظاہر ایسی اہم بات میں جبت تامنیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم)

ابن جریرؓ میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی۔ دو دن میں زمینیں پیدا ہوئیں دو دن میں ان میں موجود تمام چیزوں کیس اور دو دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمع کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت میں قیامت قائم ہو گی۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا۔ اس سے جو دھواں اور پڑھا اس کے آسمان بنائے جو ایک پر ایک اس طرح سات ہیں اور زمینیں ایک نیچے ایک اور اس طرح سات ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے۔ جیسے سورہ سجده کی آیت میں ہے۔ علماء بھی اس پر تتفق ہیں۔ صرف قادہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی اس میں توقف کرتے ہیں۔ وَ التَّرْعِيْتُ کی آیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آسمان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے لیکن پھیلائی گئی ہے بعد میں۔ یہی جواب اگلے پچھلے علماء کا ہے۔ سورہ نازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ حاصل امر یہ ہے کہ زمین کا پھیلانا اور بچانا بعد میں ہے اور ذخھا کا لفظ قرآن میں ہے اور اس کے بعد جو پانی چارہ پھاڑ دیا اور کاذک رہے یہ گویا اس لفظ کی تشریع ہے۔ جن چیزوں کی نشانی کی قوت اس زمین میں رکھی تھی، ان سب کو ظاہر کر دیا اور زمین کی پیداوار طرح کی مختلف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی۔ اسی طرح آسمان میں بھی ٹھہرے رہنے والے چلنے والے ستارے وغیرہ بنائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے میراہ تھک پکڑا اور فرمایا، میں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن پیدا کیا، پھاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، برائیوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمرات کے دن، آدمؑ کو جمع کے دن اور عصر کے بعد جمع کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک۔ یہ حدیث غرائب میں سے ہے۔ امام ابن مدینیؓ امام بخاریؓ وغیرہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ کعب کا اپنا قول ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ نے کعب کا یہ قول سنائے اور بعض رادیوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا ہے۔ امام تہذیب یہی کہتے ہیں۔

**وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَوْا  
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَرْتَبًا يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْخُ  
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ**

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بھائے اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ۰

خلافت آدم کا مفہوم: ☆☆ (آیت: ۳۰) اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتا ہے کہ اتنے نبی تم پیدا کرو اور اپنی امت کو خبر پہنچاؤ۔ ابو عبیدہ تو کہتے ہیں کہ لفظ ”اذ“ یہاں زائد ہے لیکن ابن جریئہ وغیرہ مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے بعد میگرے بعض کے بعض جانشین ہوں گے اور ایک زمانہ کے بعد دوسرے زمانہ میں یونہی صد یوں تک یہ سلسلہ رہے گا۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ** دوسری جگہ فرمایا وَيَحْكُلُكُمْ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ یعنی تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنادیا اور ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ ایک شاذ قرأت میں خلیفہ بھی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم ہیں لیکن اس بارے میں تفسیر رازی کے مفسر نے اختلاف کیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں۔ اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بھائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا تھا نہ کہ خاص حضرت آدم کی نسبت۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کیوں نہ ہوا؟ یا تو کسی خاص ذریعہ سے انہیں یہ معلوم ہوا یا پرشی طبیعت کے اقتضا کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو گا کیونکہ یہ فرمادیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہو گی یا الظاهر خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہو گا کہ وہ فیصلے کرنے والا مظالم کی روک تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہو گا یا انہوں نے چونکہ یہی مخلوق کو دیکھا تھا، اسی پر اسے قیاس کیا ہو گا۔

یہ بات یاد رکھی چاہئے کہ فرشتوں کی یہ عرض بطور اعتراض نہ تھی نہ بنی آدم سے حسد کے طور پر تھی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ<sup>۱</sup> یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہواں میں وہ لب نہیں ہلاتے (اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے) بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کے معلوم کرنے کے لئے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لئے تھا جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے تواب پا ادب سوال کیا کہ پروردگار اسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے؟ اگر عبادات مقصود ہے تو عبادات تو ہم کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس و تمجید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے اور پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس کے فساد کے، پھر بھی اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں، انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے۔ ان میں صدقیق اور شہید ہوں گے۔ ان میں عابد، زائد، اولیاء، ایمڑ، نیکوکار، مقرب بارگاہ، علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، حب باری تعالیٰ رکھنے والے بھی ہوں گے۔ میرے احکام کی برس و چشم قبول کرنے والے میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک پکارنے والے بھی ہوں گے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے سچے صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے

ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں تب بھی صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئیں بھی وہ مصلحت الہی ہے جسے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کو دیکھنے کے لئے بھیجا جاتا ہے اور دن کے اعمال رات سے مہلے اور رات کے دن سے پہلے الاعالمین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ میرے مخصوص علم میں ہے۔ جو تمہیں معلوم نہیں بعض کہتے ہیں یہ جواب فرشتوں کے اس قول کا ہے کہ ہم تیری تسبیح وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں تم جیسا سب کو یہاں کھجتے ہو ایسا نہیں بلکہ تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سب کہنا دراصل یہ مطلب رکھتا تھا کہ ہمیں زمین میں بسایا جائے تو جو بآپ کہا گیا کہ تمہاری آسمانوں میں رہنے کی مصلحت میں ہی جانتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ ہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

حسن، قادہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی۔ سدی کہتے ہیں مشورہ لیا۔ لیکن اس کے معنی بھی خرد دینے کے ہو سکتے ہیں۔ اگر نہ ہوں تو پھر یہ بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ ابن الجیحان میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسے زمین پھیلائی اور بچائی گئی تو بیت اللہ شریف کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا اور زمین میں خلیفہ بنانے سے مراد کہ میں خلیفہ بنانا ہے۔ یہ حدیث مرسلا ہے۔ پھر اس میں ضعف ہے اور مدرج ہے یعنی زمین سے مراد کہ لیٹار اوی کا اپنا خیال ہے۔ واللہ اعلم۔ ظاہر تو یہ علوم ہوتا ہے کہ زمین سے ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہو گا؟ اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں، حد نہ پس کریں، قتل و خون کریں، ان میں وہ عدل و انصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا تو اس سے مراد حضرت آدم ہیں۔ جوان کے قائم مقام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق میں عدل و انصاف کرنے میں ہیں لیکن فساد پھیلانے اور خون بہانے والے غایفہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانہ جو دوسرے زمانے کے بعد آتا ہے۔ خلیفہ فعلیہ کے وزن پر ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام ہو تو عرب کہتے ہیں خلف فلان فلان شخص کا خلیفہ ہوا جیسے قرآن میں ہے کہ ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ ہا کر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور اسی لئے سلطان اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اگلے بادشاہ کا جا شین ہوتا ہے۔ محمد بن الحسن اخلاق کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ زمین کا ساکن اس کی آبادی کرنے والا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے زمین میں جنات لئتے تھے۔ انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بھایا اور قتل و غارت کیا۔ ابلیس کو بھیجا گیا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا تو گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جا شین ہوئے۔ پس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہیں جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کو اور اس میں بننے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نہ تھی۔ بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی تو انہوں نے یہ پوچھا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے دو بڑا رسال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابوالعلیٰ قرقا میں اسی فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات کو حصرات کے دن پیدا کیا اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت قادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے اس بنان پر انہوں نے سوال کیا۔

ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں، محل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت ماروت تھے۔ اسے ہر دن تین مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی خبر کر دی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا لیکن یہ روایت غریب ہے اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر نے اسے اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے اخذ کیا ہو۔ بہر صورت یہ ایک واعیٰ تو ایسی روایت ہے اور قبل تردید ہے۔ واللہ اعلم۔ پھر اس روایت میں ہے کہ دو فرشتوں نے یہ سوال کیا۔ یہ قرآن کی روافی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی روایت مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے دس ہزار تھے اور وہ سب کے سب جلا دیئے گئے۔ یہ بھی اسرائیلی روایت ہے اور بہت ہی غریب ہے۔ امام ابن حجر یقیناً فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی معلوم کر دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان بھی ہو گی، تو انہوں نے نہایت تجھ کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے لئے یہ سوال کیا، نہ کہ کوئی مشورہ دیا یا انکار کیا یا اعتراض کیا ہو۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا تا ممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو تو اس پر یہ امتحان اللہ کی طرف سے آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی۔ زمین اور آسمان پر بھی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سرخم کر کے اطاعت الہی کے لئے آمادگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تشیع و تقدیس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، برا آئی اور عظمت کرنا ہے۔ فرمان برداری کرنا، سُبُّوحْ فَلَوْسُونْ وغیرہ پڑھنا ہے۔ قدس کے معنی پاک کے ہیں۔ پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوتا ہے کہ کونسا کلام افضل ہے۔ جواب دیتے ہیں، وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند فرمایا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (صحیح مسلم) حضور ﷺ نے معراج والی رات آسمانوں پر فرشتوں کی یہ تشیع سنی سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔

خلفیہ کے فرائض اور خلافت کی نوعیت: ☆☆☆ امام قرطبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلفیہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے اُن کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدیں قائم کرے، برا نہیں کے مرتكب لوگوں کو ڈالنے ڈپے وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انعام نہیں پاسکتے۔ چونکہ یہ کام واجب ہیں اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے اور جس چیز کے بغیر واجب پورانہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے پس خلفیہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔

اما مرتباً تو قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت خیال ہے کہ ان کا نام حضور نے خلافت کے لئے لیا تھا اور قرآن حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو۔ جیسے اہل سنت ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول کی بابت یہ خیال ہے کہ اشارہ ان کا ذکر حضور ﷺ نے خلافت کے لئے کیا ہے۔ یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یا اہل حمل و عقد (یعنی با اثر سرداران لشکر علماء و صالحاء وغیرہ) اس کی بیعت پر اجماع کر لیں، یا ان میں سے کوئی اس کی بیعت کر لے تو جہور کے نزدیک اس کا لازم پڑتا واجب ہو جائے گا۔ امام الحرمینؒ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے واللہ اعلم۔ یا کوئی شخص لوگوں کو بزور و جبراً پی مانتھی پر بے بس کر دے تو بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ پھوٹ اور اختلاف نہ پھیلے۔

امام شافعیؒ نے صاف لفظوں میں فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض

تو کہتے ہیں یہ شرط نہیں، بعض کہتے ہیں شرط ہے اور دو گواہ کافی ہیں۔ جبائی کہتا ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے ان دونوں کے علاوہ چار گواہ چاہئیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شوری کے چهار کان مقرر کئے تھے پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختار کر دیا اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر باقی چاروں کی موجودگی میں بیعت کی لیکن اس استدلال میں اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

امام کا مرد ہوتا آزاد ہوتا، بالغ ہوتا، عادل ہوتا، مسلمان ہوتا، مجتہد ہوتا، آنکھوں والا ہوتا، صحیح سالم اعضاء والا ہوتا، فنون جنگ سے اور رائے سے خبردار ہوتا، قریشی ہوتا، واجب ہے اور بیکی صحیح ہے۔ ہاں ہائی ہوتا اور خطاء میں معصوم ہوتا شرط نہیں۔ یہ دونوں شرطیں تشدد راضی لگاتے ہیں۔ امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہئے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ معزول نہ کیا جائے کیونکہ حدیث میں آچکا ہے کہ جب تک ایسا کھلا کفر نہ دیکھ لو، جس کے کفر ہونے کی ظاہر دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو۔ اسی طرح خود امام اپنے آپ معزول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود آپ ہی معزول ہو گئے تھے اور امر امامت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا تھا لیکن یہ غدر کے باعث تھا جس پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ روئے زمین پر ایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ جب تم میں اتفاق ہو اور کوئی اگر تم میں جدائی ڈالنی چاہے تو اسے قتل کر دو خواہ کوئی بھی ہو۔ جہوڑ کا یہی نہ ہب ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے جن میں سے ایک امام الحرمین ہیں۔ کرامیہ (شیعہ) کا قول ہے کہ دو اور زیادہ بھی ایک وقت میں امام ہو سکتے ہیں جیسے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ و نبی اطاعت کے لائق تھے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ جب ایک وقت میں دو دو اور زیادہ نبیوں کا ہوتا جائز ہے تو اماموں کا ہوتا جائز کیوں نہ ہو؟ نبوت کا مرتبہ تو یقیناً امامت کے مرتبے سے بہت زیادہ ہے (لیکن صحیح مسلم والی حدیث آپ ابھی اوپر پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ اس لئے صحیح نہ ہب وہی ہے جو پہلے بیان ہوا) امام الحرمینؒ نے استاذ ابو سحاقؓ سے بھی حکایت کی ہے کہ وہ دو اور زیادہ اماموں کا مقرر کرنا اس وقت جائز جانتے ہیں جب مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی وسیع ہو اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو اور دو اماموں کے درمیان کئی ملکوں کا فاصلہ ہو۔ امام الحرمین اس میں تردید میں ہیں۔ خلافے بنی عباس کا عراق میں اور خلافے بنی قاطمہ کا مصر میں اور خاندان بنی امیرہ کا مغرب میں میرے خیال سے بھی حال تھا۔ اس کی بسط و تفصیل ان شاء اللہ کتاب الاحکام کی کسی مناسب جگہ ہم کریں گے۔

وَعَلِمَ أَدْمَرُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا شَمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكِكَةِ  
فَقَالَ أَنْتُوْنِيْفَ بِاسْمَاءَ هُوَلَّا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِيْنَ هَلْ قَالُوا  
سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ هَلْ قَالَ يَا أَدْمَرُ أَنْتِهِمْ بِاسْمَاءِهِمْ قَلْمَانَأَنْبَاهُمْ بِاسْمَاءِهِمْ  
قَالَ أَلَمْ أَقْلِلْ لَكُمْ إِنْتَ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ هَلْ

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم پچھے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا۔ اے اللہ تعالیٰ ذات پاک ہے ۰ ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نہیں سکھا کھا ہے۔ پورے علم دمکت والا تو ہی ہے ۰ اللہ تعالیٰ نے (حضرت) آدم (علیہ السلام) سے فرمایا تھا ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں (پہلے ہی سے) نہ کہا تھا کہ کمز میں اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے ۰

آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت: ☆☆ (آیت: ۳۱-۳۲) یہاں سے اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے لیکن حکمت الہی جو آپ کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا اور اس کا اجمالی بیان اوپر کی آیت میں گذر ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعہ کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے ہوا تھا، بعد میں بیان کر دیا تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم کو طی کر انہیں وہ علم ہے جس سے یہ فرشتے خالی ہیں۔

فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے یعنی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں زمین، آسمان، پہاڑ، تری، نخلکی، گھوڑے، گدھ، برتن، بھانڈے، چند فرشتے، تارے وغیرہ تمام جھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتائے گئے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرنے کے تھے کیونکہ اس کے بعد عَرَضُهُمْ آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لئے آتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی معقول جگہ نہیں جہاں ذی ععقل اور غیر ذی ععقل جمع ہوتے ہیں وہاں جو لفظ لا یا جاتا ہے وہ ععقل وہوش رکھنے والوں کے لئے ہی لا یا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ذَاتَةٍ مِّنْ مَاءٍ لِّنَجْعَلَنَا مُحَمَّداً مَّا كُنَّا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل کھستے ہیں، بعض دوسریوں پر چلتے ہیں، بعض چارپاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس اس آیت سے ظاہر ہے کہ غیر ذی ععقل بھی داخل ہیں مگر صیغہ سب ذی ععقل کے ہیں۔

علاوہ ازیں عَرَضُهُمْ بھی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی قرات میں ہے اور حضرت ابی بن کعبؓ کی قرات میں عَرَضَهَا بھی ہے۔ صحیح قول ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی جیسے کہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ گوز کا نام تک بھی بتایا گیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الفہری میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں۔

مسئلہ شفاعت: ☆☆ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایمان دار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوگا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجن چنانچہ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کر لایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش لے جائیں جو ہم اس سے راحت پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ انہیں اپنا گناہ یاد آجائے گا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ سب لوگ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ بھی یہی جواب دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لئے اپنادعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے۔ تم خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب آپ کے پاس آئیں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موئی علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام کیا اور جنہیں تورات عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے لیکن یہاں سے بھی جواب

پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مارڈ النایاد آجائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن یہاں سے بھی تھی جواب طے کا کہ میں اس لاکن نہیں۔ تم محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے، میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی بجدے میں گرپڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہو گا بجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے۔ سوال کیجئے۔ پورا کیا جائے گا، کہنے سنا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سراخھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا۔ میرے لئے حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا۔ پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح بجدہ میں گرپڑوں گا۔ پھر شفاعت کروں گا۔ پھر حد مقرر ہو گی۔ انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیری مرتبہ آؤں گا پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا۔ یہاں تک کہ چشم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوا اور جن کے لئے چشم کی مدد و مدد واجب ہو گئی ہوں (یعنی شرک و فکر کرنے والے) صحیح مسلم شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث شفاعت موجود ہے۔

یہاں اس کے وارد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان چیزوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لوگ تم اپنے قول میں کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو یا اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے گا، پچھے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ بھی مردی ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہنی آدم فساد کریں گے اور خون بھائیں گے، پچھے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ لیکن قول پہلا ہی ہے۔ گویا اس میں انہیں ڈانتا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلافت زمین کے لاکن ہو اور انسان نہیں۔ تم ہی میرے تبع خواں اور اطاعت گذار ہوا اور انسان نہیں، اگر سچا ہے تو لو یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، انہی کے نام بتاؤ۔ اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھو کوہ جب موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں معلوم نہیں تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں علم کیسے ہو گا؟ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنا شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جتنا کچھاے اللہ نے سکھا دیا، اتنا ہی اسے علم ہے۔ تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف تھجی کو ہے، توہر چیز کا جانے والا ہے، اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے، جسے جو سکھائے وہ بھی حکمت اور جسے نہ سکھائے وہ بھی حکمت، تو حکمتوں والا اور عدل والا ہے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں، سجان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؓ اور اپنے پاس کے درسرے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا إله إِلَّا اللَّهُ تَوَهُمْ جانتے ہیں لیکن سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْلَمَ ہے؟ تو حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لئے پسند فرمایا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا کہنا اسے محبوب ہے۔ حضرت میمونؓ بن مهران فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے۔ حضرت آدم نے نام بتا دیئے کہ تمہارا نام جبریل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تم اسرافیل ہو یہاں تک کہ جیل کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غصیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا ہوں۔ جیسے اور جگہ ہے وَإِن تَحْمَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تِمْ بَلْدَةً وَازْ سے کہو (یا نہ کہو) اللہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ارشاد فرمایا الَا يَسْخُدُوا لَعْنَ كَيْوَنْ یوگ اس اللہ کو جدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور

زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو تمہارے ہر باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی مجبود ہے اور وہی عرشِ عظیم کارب ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے تھے، اسے بھی میں جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جنگلبر اور غرور تھا، اسے میں جانتا تھا۔

فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں ایسی شخصیت کو کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد کرے اور خون بھائیتی تو وہ قول تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا اور جو چھپایا تھا وہ ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر تھا۔ ابن عباسؓ ابن مسعود اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اور سعید بن جبیر اور جہاںدی اور خحاک اور شوری رحمہم اللہ علیہم کا بھی قول ہے۔ ابن جریرؓ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور ابوالعالیٰ رفیع بن انسؓ حسنؓ اور قاتدؓ کا قول ہے کہ ان کی باطن بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مغلوق کو بھی اللہ پیدا کرے گا، ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے لیکن بعد میں ہبہت ہو گیا اور خود انہوں نے بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضیلت دونوں میں اس پر فوکیت حاصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زیدؓ بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا: جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے برے ہر طرح کے ہوں گے، فرمانبردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی۔ اور میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت دوزخ دونوں کو بھرنا ہے لیکن تمہیں میں نے اس کی خبر نہیں دی۔ اب جب کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو دیا ہوا علم دیکھا تو ان کی بندگی کا اقرار کر لیا۔

امام ابن جریرؓ فرماتے ہیں، سب سے اوپری قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر و باطن کا علم مجھے ہے۔ ان کے ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی عجب و غرور کو بھی جانتا تھا۔ اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے اسلئے کہ عرب میں یہ دستور ہے اور ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ شکر مارڈا لگایا یا انہیں نکست ہوئی حالانکہ نکست اور قتل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کا لاتتے ہیں۔ ہوتیم کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے مجرے کے آگے سے پکارتا تھا لیکن قرآن میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكُمْ مِنْ وَرَاءِ الْحُمُرِ جُو لوگ تمہیں اے نبی جمروں کے آگے سے پکارتے ہیں تو دیکھئے کہ پکارنے والا ایک تھا اور صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اسی طرح وَ مَا كُنْتُ تَكْتُمُونَ میں بھی اپنے دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔

**وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِكَةِ اسْجُدْوَا لِإِدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ثُمَّ أَفَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ**

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو مجده کر تو ابلیس کے سواب نے مجده کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا کہ فروں میں ۰

حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات: ☆☆ (آیت: ۳۲) حضرت آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان فرمایا اور خردی کے اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو مجده کریں۔ اس کی قدریق میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت جو بھی بیان ہوئی۔ دوسرا حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کرادیجئے جو خوبی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح تم میں پھونکی اور اپنے فرشتوں سے تمہیں مجده کرایا (آخریک) اپوری حدیث عقریب بیان ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تھا جنمیں جن کہتے تھے جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتوں

سب کے سب نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارٍ آگ کے شعلے کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں جس سے جن پیدائش کئے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ زمین میں پہلے جن بنتے تھے۔ انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ انہی کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لہبھر کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا۔ جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسے کوئی پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی طرح فساد و خوزیری کر سی تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اس کا مجھی کو علم ہے، تمہیں خوب نہیں پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اخھائی گئی جو چھپنی اور چھینی تھی۔ جب اس کا غیر امتحات اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور چالیس دن تک وہ یونہی پتلے کی شکل میں رہے، ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بھتی مٹی ہوتی چیزے کوئی کھوکھی چیزیں ہو پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ درحقیقت یہ کوئی چیز نہیں اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے بر باد کر کے چھوڑ دوں گا اور اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھوکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فراؤ اٹھنا چاہا لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی۔ اس لئے اٹھنے سکے۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا یعنی انسان بے صبر اور جلد باز ہے نہ تو خوشی نہ رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمد لله رب العلمین اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ حمد اللہ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ان سب نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے بڑی عمر والا ہوں۔ اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نامید کر دیا اور اسی لئے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔

پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انسان جانور زمین سندر پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا جو ابلیس کے ساتھی تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچ ہو کر میں زمین میں اسے خلیفہ نہ بناؤ تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے الہ العالمین نا راض ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ عز وجل اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی اور غیب کو جانے ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب داں نہیں۔ ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں جس کا علم تو ہمیں دے دے، جیسے تو نے ان کے نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو چنانچہ انہوں نے بتا دیے تو فرمایا۔ فرشتو! کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسان و زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟۔ میں ہر پوشیدہ چیز کو بھی دیسا ہی جانتا ہوں جیسے ظاہر کو اور تم سب اس سے بے خبر ہو۔ لیکن یہ قول بھی غریب ہے اور اس میں بہت سی باتیں اسی ہیں جن میں خامیاں ہیں، ہم اگر انہیں الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت بڑھ جائے گا اور ابن عباسؓ تک اس اثر کی سند بھی وہی ہے جس سے ان کی مشہور تفسیر مردی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح مردی ہے جس کے متن میں کچھ کمی زیادتی بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لینے کے لئے جب حضرت جبریل کے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ

تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ گھٹائے۔ وہ واپس چلے گئے پھر ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی بھی کہا لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم پورا کئے بغیر واپس چلا جاؤں، چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک ایک مٹھی مٹھی لی۔ چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا، کہیں سفید، کہیں سیاہ، اسی وجہ سے انسانوں کی رفتاری بھی طرح طرح کی ہوئیں لیکن یہ روایت بھی بہوار ایشل کی روایات سے پڑھے گا۔ غالباً اس میں بہت سی باتیں نیچے کے لوگوں کی ملائی گئی ہیں۔ صحابی کا بیان ہی نہیں۔ اگر صحابی کا قول بھی ہو تو بھی انہوں نے بعض اگلی کتابوں سے لیا ہو گا۔ واللہ اعلم۔

تعارف ابلیس: ☆☆ حاکم اپنی مدرسہ میں بہت سی ایسی روایتیں لائے ہیں اور ان کی سند کو بخاری سے مشروط کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا۔ اس نے کہ گودہ ان میں سے نہ تھا لیکن ان ہی جیسا اور ان ہی جیسے کام کرنے والا تھا اس نے اس خطاب میں داخل تھا اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کا ایامِ الْجِنِّ کی تفسیر میں آئے گی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں، نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا۔ عزرا ایشل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی رہائش تھی، اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں رونق تھی اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے چار پر تھے۔ جنت کا خازن تھا زمین اور آسمان دنیا کا سلطان تھا۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں۔ ابلیس کبھی فرشتنے تھا۔ اس کی اصل جنات سے ہے جیسے کہ آدم کی اصل انس سے ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور شہر بن حوشب کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے۔ وہاں کی عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔ ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کیا جس پر وہ جلا دیئے گئے۔ پھر دوسرا مخلوق پیدا کی۔ ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر تیسرا مخلوق پیدا کی۔ انہوں نے تعییں ارشاد کی لیکن یہ اثر بھی غریب ہے اور اس کی اسناد بھی تقریباً غیر صحیح ہیں۔ اس میں ایک راوی مہم ہے۔ اس وجہ سے یہ روایت قبل جنت نہیں کافرینَ سے مراد نافرمان ہے۔ ابلیس کی ابتداء آفرینش ہی کفر و ضلالت پر تھی۔ کچھ دن ٹھیک شاک رہا لیکن پھر اپنی اصلاحیت پر آگیا۔ سجدہ کرنے کا حکم جبالا نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام کا تھا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب کے سب سجدہ میں گر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب اپنی میرے اس خواب کی تحریر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں یہ جائز تھا لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو حضورؐ سے گزارش کی کہ حضورؐ اپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خادنوں کو سجدہ کریں کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ ہمام رازی نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعض کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تھا۔ حضرت آدم بطور قلب (یعنی سمت) کے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے اور جگہ ہے ایقَع الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے اور پہلے ہی قول کا زیادہ صحیح ہونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سجدہ حضرت آدم کے اکرام بڑائی، احترام اور سلام کے طور پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماخت تھا کیونکہ اس کا حکم تھا جس کی بجا آوری ضروری تھی۔ امام رازیؒ نے بھی اسی قول کو قوی قرار دیا ہے۔ اور اس کے سواد و سرے اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا

بطور قبلہ کے ہونا جس میں کوئی برادرش فنا ہنیں ہوتا، دوسرے بجدے سے مراد پست عاجز ہونا، نہ کہ زمین میں ما تھا ان کا کریقی سجدہ کرنا لیکن یہ دونوں تاویلیں ضعیف ہیں۔ حضرت قادہؓ فرماتے ہیں، سب سے پہلاً گناہ یعنی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو گا، وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔ اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لخت پڑا اور رحمت سے ما یوں ہو کر جناب باری سے دھنکا را گیا۔ یہاں ”کَانَ صَارَ“ کے معنی میں بتلایا گیا ہے جیسے کہ فَكَانَ مِنَ الْمُغَرَّبِينَ اور فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ شاعروں کے شعروں میں بھی اس کا ثبوت ہے تو معنی یہ ہوئے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ابن فورک کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔

قرطیؓ اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ سے کچھ کرامتیں سرزد ہو جانا اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں، گو بعض صوفی اور راضی اس کے خلاف بھی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم اس بات کا کسی کے لئے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اللہ سے جاتے ہیں۔ اسی شیطان کو دیکھئے۔ ولی چھوڑ یئے، فرشتہ بنا ہوا تھا لیکن آخر سردار کفر و کفار ہو گیا علاوہ ازیں اسی خلاف عادت و عقل باقی تھیں جو بظاہر کرمات نظر آتی ہیں، اولیاء اللہ کے سوا اور لوگوں کے ہاتھوں سے بھی سرزد ہوتی ہیں بلکہ فاسق، فاجر، مشرک کافر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے سوچا فارِ تقبُّبِ یوْمَ تَأْتَی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِینٍ کی آیت دل میں سوچ کر کے جب ابن صیاد کافر سے پوچھا کہ میں نے کیا سوچ ہے تو اس نے کہا تھا درخ۔ بعض روایات میں ہے کہ غصہ کے وقت وہ اتنا پھول جاتا کہ اس کے جسم سے تمام راستہ رک جاتا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اسے مارا۔ دجال کی تو ایسی بہت سی باقی محدثوں میں وارد ہیں مثلاً اس کا آسمان سے بارش بر ساناً زمین سے پیدا اور اگاناً زمین کے خزانوں کا اس کے پیچے لگناً، ایک نوجوان کو قتل کر کے پھر جانا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ایوب بن سعدؓ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواوں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھیں، شو جب تک کہ اس کے تمام اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ اس بجدے کا حکم زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کو تھا گوایک جماعت کا قول یہ بھی ہے کہ صرف زمین کے فرشتوں کو یہ حکم تھا لیکن یہ ٹھیک نہیں قرآن کریم میں ہے فَسَجَدَ الْمَلَكُوكُلُومُ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِلَيْنَا یعنی ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پس اول توجیح کا صیفہ لانا پھر ”کلہم“ سے تاکید کرنا پھر ”اجمعون“ کہنا اس کے بعد صرف ابلیس کا استثنہ کرنا ان چاروں وجوہوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم عام تھا۔ واللہ اعلم۔

**وَقُلْنَا يَا آدُمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا**  
**حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ**  
**فَأَزَّلَهُمَا الشَّيْطَنُ بِعَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا**  
**اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ**  
**وَمَتَاعٌ إِلَى حِلَّٰنِ**

اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدمؑ اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراگت کھاؤ پوچیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ ۰ لیکن شیطان نے بہک کر ہاں سے لکھا، ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں

## کٹھنہ اور فائدہ انھا نہیں ہے ۰

اعز از آدم علیہ السلام: ☆☆ (آیت: ۳۵-۳۶) حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردویہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں! نبی بھی رسول بھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آئے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ عام مفسرین کا بیان ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا لیکن مقزلہ اور قدر یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں تھی سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوائیدا کی گئی تھیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ الٰہ کتاب وغیرہ کے علماء سے برداشت این عباس مردی ہے کہ انہیں کے مردود قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پر انگوٹھ کی کیفیت طاری کر دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس و محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوائیدا کی گئیں۔

حضرت ابن عباسؓ ابن سعید وغیرہ صحابہ سے مردی ہے کہ انہیں کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی لیکن تن تھا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگے۔ انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوانے فرمایا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسلیم کا سبب بننے کے لئے پیدا کی گئی ہوں تو فوراً فرشتوں نے پوچھا، فرمائیے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا، "حوا" اُنہوں نے کہا، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لئے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں با آرام واطمینان رہو اور جو چاہو کھاؤ۔

ایک خاص درخت سے روکنادر اصل امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ انگور کی تیل تھی۔ کوئی کہتا ہے۔ گیہوں کا درخت تھا، کسی نے سنبلہ کہا ہے، کسی نے کھجور کسی نے انجیر کہا ہے، کسی نے کہا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں۔ کسی نے کہا ہے اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہیں کی زندگی پا گئے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی میں اس کی صحیح حدیث سے مفسرین میں اختلاف ہے اور اس کے معلوم ہونے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ دیانت قرآن سے کوئی نقصان نہیں لہذا اس کی صحیحی کیا ضرورت؟ اللہ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ امام رازی وغیرہ نے بھی یہی فعلہ کیا ہے اور معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں لہذا اس کی صحیحی کیا ضرورت؟ اللہ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ ایک قرأت فائز اللہ ماما بھی ہے تو معنی ٹھیک بات بھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ عنہا کی ضمیر کا مرتع بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے شجرہ۔ ایک قرأت فائز اللہ ماما بھی ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اس جنت سے ان دونوں کو بے تعقیل اور الگ کر دیا اور دوسرے معنی یہ بھی ہوئے کہ اسی درخت کے سبب شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ سفرارضی کا آغاز: ☆☆ لفظ عن سبب کے معنی میں بھی آیا ہے یوْفُكُ عَنْهُ میں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس اور وہ پاک مکان، نصیب روزی وغیرہ سبب چمن گئی اور دنیا میں اتنا درجے گئے اور کہہ دیا گیا کہ اب تو زمین میں ہی تمہارا رزق ہے، قیامت تک میں پڑے رہو گے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ ساتھ اور انہیں کا قصہ، یعنی انہیں کس طرح جنت میں پہنچا۔ کس طرح وسوسہ دالا وغیرہ، اس کے بارے میں لمبے چڑے قصے مفسرین نے لکھے ہیں لیکن وہ سب بنی اسرائیل کے ہاں کا خزانہ ہے، تاہم ہم انہیں سورہ اعراف میں بیان کریں گے کیونکہ اس واقعہ کا بیان وہاں کسی تدقیقیل کے ساتھ ہے۔

ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ درخت کا پھل جھکتے ہی جنگی لباس اتر گیا، اپنے تین نگاہ دیکھ کر اوہ را درود نہ لگے لیکن چونکہ قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے تھے وہ ایک درخت میں انگل گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں الہی میں تو شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم میرے پاس میرے نافرمان نہیں رہ سکتے، اگر اتنی مخلوق قم میں پیدا کروں کہ زمین بھر جائے اور پھر وہ میری نافرمانی کرے تو قیمت میں اسے بھی نافرمانوں کے گھر میں پہنچا دوں۔ یہ روایت غریب ہے اور ساتھ ہی اس میں انقطاع بلکہ اعضاء بھی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت آدم نماز صدر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ساعت ہی جنت میں رہے۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں یہ ایک ساعت ایک سو تین سال کی تھی۔ ریبع بن انسؓ فرماتے ہیں، نویں یادویں ساعت میں حضرت آدم کا اخراج ہوا، ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔ سدیؓ کا قول ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے آپ کے ساتھ جبرا اسود تھا اور جنی درخت کے پتے جو ہند میں پھیلا دیئے اور اس سے خوبصوردار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، ہند کے شہر ”دھنا“ میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصریؓ فرماتے ہیں حضرت آدم ہند میں اور مائی حوا بددہ میں اتریں اور ایلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلہ پر دستیاب میں پھینکا گیا اور سانپ اصفہان میں۔ ابن عمرؓ کا قول ہے کہ حضرت آدم صفا پر اور حضرت حوارہ پر اترے۔ اترتے وقت دونوں ہاتھ گھٹلوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا اور ایلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ حضرت ابو موئیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام صفتیں سکھادیں اور چھلوں کا تو شد دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمام دونوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم پیدا کئے گئے، اسی میں جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ ملاحظہ ہو جیج مسلم اور نسائی۔

امام رازیؓ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہات مضر ہیں۔ اول تو یہ سوچنا چاہئے کہ ذرا سی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ کسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے کہ تم گناہوں پر گناہ کئے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو، کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھئے کہ سخت و سلامتی کے ساتھ اپنے دلن پہنچیں۔ فتح موصیٰ کہتے ہیں، ہم جنتی تھے، ایلیس کے بہکانے میں آ کر دنیا کی قید میں آ پھنسئے، اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بندادی وقت نوئی گی جب ہم وہیں بکھن جائیں، جہاں سے نکالے گئے ہیں۔

اگر کوئی مفترض اعتراض کرے کہ جب آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ایلیس راندہ درگاہ ہو چکا تھا تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں کہ بطور اکرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا نہ کہ بطور اہانت اور چوری کے۔ چنانچہ تواناۃ میں ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سے اس نے دوسرا ان کے دل میں ڈالا تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ زمین سے ہی دوسرا ان کے دل میں ڈالا۔ قرطبیؓ نے یہاں پر سانپوں کے بارے میں اور ان کے مارڈا لئے کے حکم سے متعلق حدیثیں بھی تحریری کی ہیں جو بہت مفید اور باموقع ہیں۔

**فَتَكَفَّىءَ أَدْمَرِ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَتِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ**

**الرَّحِيمُ**

حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور حم کرنے والا ہے ۰

اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معافی نامہ کا متن : ☆☆☆ (آیت: ۳۷) جو کلمات حضرت آدم نے سیکھے تھے ان کا بیان خود فرقہ آن میں موجود ہے۔ فَالآنَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْ كُوْنَنَ مِنَ الْخَسِيرِينَ یعنی ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشنے کا اور ہم پر حرم نہ کرے گا، تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے۔ ان عباس سے احکام جس سیکھنا بھی مردی ہے۔ عبد بن عمر کرتے ہیں وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا الہی جو خطایں نے کی، کیا اسے میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا؟ یا میں نے خود اس کی ایجاد کی؟ جواب ملا کہ ایجاد نہیں بلکہ پہلے ہی لکھ دیا گیا اسے سن کر آپ نے کہا، پھر الہی مجھے بخشش اور معافی مل جائے۔ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آدم نے کہا الہی کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ میرے چھکنے پر بِرَحْمَكَ اللَّهُ نہیں کہا؟ کیا تیری رحمت غصب پر سبقت نہیں کر گئی؟ کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطایں تقدیر میں نہیں لکھی تھی؟ جواب کہ ہاں۔ یہ سب میں نے کیا ہے تو کہا پھر الہی میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں۔ یہ کلمات یعنی چند باتیں جس میں جو آپ نے اللہ سے سیکھ لیں۔

ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الہی اگر میں توبہ کروں اور رجوع کروں تو کیا جنت میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ جواب ملا کہ ہاں۔ اللہ سے کلمات کی تلقین حاصل کرنے کے بھی معنی ہیں۔ لیکن یہ حدیث علاوہ غریب ہونے کے منقطع بھی ہے۔ بعض بزرگوں سے مردی ہے کہ کلمات کی تفسیر رَبِّنَا ظَلَمْنَا اور ان سب باتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت مجاہد سے مردی ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَارْحَمْنِي إِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ قرآن کریم میں اور جگہ ہے کیا لوگ نہیں جانتے کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور جگہ ہے جو شخص کوئی برآ کام کر گزرا یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر توبہ استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لے گا اور جگہ ہے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَّعَ مَسْأَلَتُهُ اس سب آئیوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اسی طرح یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑے رحم و کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم اس کے اس فضل و رحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنے در سے حرم نہیں کرتا۔ حق ہے اس کے سوا کوئی معبد و رحم نہیں نہ اس سے زیادہ کوئی همروں کرم والا اس سے زیادہ کوئی خطایں بخشنے والا اور حم و بخشش عطا فرمائے والا۔

فَلَمَّا هَبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَمَّا يَا تِيشَكُمْ مِنْ هُدَى فَمَنْ تَابَ  
هُدَى إِي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
وَكَذَّبُوا بِاِيَّتِنَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ

ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہو گا۔ اور جو انکا کر کے ہماری

آجتوں کو جھٹا کیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے ۰

جنت کے حصول کی شرائط: ☆☆ (آیت: ۳۸-۳۹) جنت سے نکلتے ہوئے جوہدایت حضرت آدم، حضرت حوا اور اپنیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتابیں، انبیاء اور رسول پیجیے جائیں گے، مجرمات ظاہر کئے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حق واضح کر دی جائے گی، آنحضرت محمد ﷺ بھی آئیں گے، آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا، جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا، اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہو گا اور نہ ہی دنیا کے کھوجانے پر کوئی غم ہو گا۔ سورہ طہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدجنت و بے نصیب مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندر ہاپن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابن جریر کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی نہ ہی خونگوار زندگی ملے گی ہاں، جن موحد، تبعیع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا یہ حل کر کوئے ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لئے جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ بعض تو کہتے ہیں دوسرا دفعہ جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے اور بعض کہتے ہیں پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول اتار دیا گیا تھا دوبارہ آسمان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

**إِبْرَحِّىٰ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ  
وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاَيَ فَارَهَبُوْنَ هـ وَامْنُوْا  
بِمَا آتَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْا أَوَّلَ كَافِرِ  
يَهُهـ وَلَا تَشْتَرُوا بِاِيمَنِيْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاَيَ فَاقْتُلُوْنَ هـ**

اسے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھے ہی سے ڈر دو ۰ اور اس کتاب پر ایمان لاو جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافرنہ بخواہو اور آجتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ پہنچو اور صرف مجھے ہی سے ڈرتے رہا کرو ۰

بنی اسرائیل سے خطاب: ☆☆ (آیت: ۲۰-۲۱) ان آجتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انتہائی لطیف پیرا یہ میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے پھر تمہیں نہیں چاہئے کہ سب سے پہلے انکار تمہیں سے شروع ہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ اصولو اسلام کا نام تھا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو۔ تمہیں چاہئے کہ اپنے جدا مجدد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم حق کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو۔ تم پہلوان کی اولاد ہو۔ داد شجاعت دو۔ تم عالم کے بنچے ہو۔ علم میں کمال پیدا کرو۔ دوسری جگہ اسی طرز کلام کو اسی طرح ادا کیا گیا ہے ذریۃ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا اشْكُورًا یعنی ہمارے شگر گزار بندے حضرت نوحؐ کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا یہ ان کی اولاد ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضورؐ نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوبؐ کا نام تھا۔ وہ سب قسم کما کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ حق ہے۔ حضورؐ نے کہا اللہ تو گواہ رہ۔ اسرائیل کے لفظی معنی عبد اللہ کے ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کامل کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں مثلاً پتھر سے نہروں کو جاری کرنا، من وسلوئی اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرنا، انہیں میں سے انبیاء اور رسولوں کو میتوشت کرنا، ان میں سلطنت اور پادشاہی عطا فرمانا وغیرہ ان کو ہدایت دی جاتی ہے میرے وعدوں کو پورا کرو یعنی میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب محمد ﷺ تمہارے پاس آئیں اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم اس پر اور آپؐ کی ذات پر ایمان لانا۔ وہ تمہارے بوجہ بلکہ کریں گے اور تمہاری زندگی میں تو ڈیں گے اور تمہارے طوق اتار دیں گے اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے مقابل آسان دین دوں گا۔ دوسرا جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنَّمَا مَعَكُمْ لَيْلَةٌ أَقْمَتُ الصَّلُوةَ وَأَتَيْتُ الزَّكُوْنَةَ إِنْ لَيْلَيْنِ أَكْرَمُ نَمَازَكُولِ كَوْقَمْ كَرْدَمْ كَزَكَوْنَةَ زَكَوْنَةَ دَيْتَ رَهْوَكَےَ مَيْرَےَ رَهْوَكَےَ مَجْهَےَ اچْحَاقِ رَضْدِيَتَ رَهْوَكَےَ تَوْمِیںَ تَمْهَارِی بَرَائِیاں دُورَکِردوں گا اور تمہیں ہتھی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تواریخ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ میں حضرت اسْعَیْلِ عَلَیْهِ السَّلَامُ کی اولاد میں سے ایک اتابِ اعلیٰ الشان پیغمبر پیدا کردوں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض ہوگی اُن کے تابعداروں کو بخششوں ہا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دو ہر اجر دوں گا۔

حضرت امام رازیؓ نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انجیاء علیہم السلام سے آپؐ کی بابت پیشین گوئی نقل کی ہے۔ یہ بھی مردی ہے کہ اللہ کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ مزید فرمایا، مجھ سے ڈر واپسانہ ہو جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں۔ اس لطف پیرایہ کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کو تحقیق کر دیا گیا ہے۔ رغبت و رہبست دونوں جمع کر کے ابیان حق اور نبوت محمدؐ کی دعوت دی گئی۔ قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے اس کے ہتھے ہوئے ادکام کو مانے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی۔ اسی لئے اس کے بعد فرمایا کہ تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاو جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے جسے لے کر وہ نبی آئے ہیں، جو ای ہیں، عربی ہیں، جو پیش ہیں، جو نذر ہیں، جو سراج نیز ہیں، جن کا اسم شریف محمد ہے ﷺ۔ جو تواریخ اور انجیل کو حق مانے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں۔ چونکہ تواریخ اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لانا تواریخ کی سچائی کی دلیل تھی۔ اس لئے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود تمدنی سب سے پہلے انکار کر دیجئے گئے ہیں۔ ”بِهِ“ کی ضمیر کا مرتعن قرآن ہے اور پہلے آپ بھی چکا ہے بما انزلت اور دونوں قول درحقیقت پچے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننا رسول کو ماننا ہے اور رسولؐ کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ اول کافر سے مراد ہی اسرائیل کے اولین مکر ہیں کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے لہذا انی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، اس لئے انہیں اول کافر کہا گیا۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا۔ میری آئیوں کے بد لے تھوڑا مول نہ لو یعنی دنیا کے بد لے جو قلیل اور فانی ہے، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا ہے چھوڑو اگر چہ دنیا ساری ہی ساری بھی مل جائے جب بھی وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی بہت تھوڑی ہے اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوئی ہے، اس لئے سیکھ کرے اس سے دنیا کم اے وہ قیامت کے روز جنت کی خوبیوں کی اجرت بغیر مقرر کئے ہوئے لیتا جائز ہے، اسی طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لیتا بھی جائز ہے تاکہ وہ خوش حال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور علم سکھانے کی

وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکتے ہوں تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے اور امام مالکؓ امام شافعیؓ امام احمدؓ اور جمہور علماء کا بھی مذہب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی اور ایک سانپ کے کانے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حضورؐ کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپؐ نے فرمایا اَنْ أَحَدُنُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِكْتَابُ اللَّهِ يَعْنِي جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہوئاں سب میں زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے سو سری مطہول حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے آپؐ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہُنَّ زَوْجَتُكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اور تو اسے قرآن حکیم جو تھے یاد ہے اسے بطور حق مہر یاد کر دے۔

ابوداؤؓ کی ایک حدیث میں ہے ایک شخص نے اہل صفو میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ دی، اس نے رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ پوچھا، آپؐ نے فرمایا، اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے چنا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابن بن کعب سے بھی ایسی ہی ایک مرفوع حدیث مردوی ہے۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا، پھر اس پر تخفہ اور ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو حونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلاشک و شبہ جائز ہے جیسے اور پر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ عالم۔ صرف اللہ ہی ہے ذرنے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت و اطاعت میں لگا رہے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیئے گئے نور پر گامزن رہے۔ غرض اس جملہ سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لائچ میں آ کر حضورؐ کی نبوت کی تصدیق کو جو اس کی کتابوں میں ہے نہ چھپا میں اور دنیوی ریاست کی طبع پر آپؐ کی خالفت پر آمادہ نہ ہوں بلکہ رب سے ڈر کا نظر ہار جتن کرتے رہیں۔

## وَلَا تَلِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>۱۰</sup> وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّكِيعَينَ<sup>۱۱</sup>

حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپا۔ تمہیں تو خود اس کا علم ہے اور نمازوں کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔

بد خوبیودی: ☆☆ (آیت: ۳۲-۳۳) یہودیوں کی اس بد خصلت پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ جانے کے باوجود بھی تو حق و باطل کو خلط کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے۔ کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، لہذا انہیں ان ناپاک عادتوں کے جھوٹ نے کوہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھوں کر بیان کرنے کی بدایت کی گئی ہے کہ حق و باطل، حق جھوٹ کو آپس میں نسلاداً اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو۔ یہودیت و نصرانیت کی بد عادات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاو۔ رسول اللہ کی بابت پیشین گویاں جو تمہاری کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپا، تَعْكِمُوا مُحْرَمَ بھی ہو سکتا ہے اور منسوب بھی یعنی اسے اور اسے جمع نہ کرو۔ این مسعودؓ کی قرات میں تَعْكِمُونَ بھی ہے۔ یہ حال ہو گا اور اس کے بعد کا جملہ بھی حال ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ حق کو حق جانتے ہوئے ایسی بے حیائی نہ کرو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ علم کے باوجود اسے چھپا نے اور ملاوٹ کرنے کا کیسا عذاب ہو گا۔ پھر بھی افسوس کہ تم بد کداری پر آمادہ نظر آتے ہو۔

پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ حضورؐ کے ساتھ نمازیں پڑھوڑ کو ڈو اور امت محمدؓ کے ساتھ رکوع بخود میں شامل رہا کرو انہیں میں مل جاؤ اور خود بھی آپؐ ہی کی امت بن جاؤ۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ این عباراً اس آیت کی تفسیر میں پھر فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ دو سو

درہم پر پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے۔ نماز و زکوٰۃ فرض و واجب ہیں۔ اس کے بغیر بھی اعمال غارت ہیں۔ زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مراد لیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کردے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں آئینا داروں کا ساتھ دو اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز با جماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے اور یہاں پر امام قرطبیؓ نے مسائل جماعت کو سبط سے بیان فرمایا ہے۔

## آتا مَرُونَ الْبَاسَ إِلَيْرَ وَتَنَسَّوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوُنَ الْكِتَبَ طَآفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

کیا لوگوں کو بھائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے تینی بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہم کتاب کو پڑھتے ہو۔ کیا اتنی بھی تم میں سمجھنیں؟ ۰

دو غلا پن اور یہودی: ☆☆ (آیت: ۲۲) یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو ”کہہ اور نہ کرے“، اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر تم خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو؟ جیسا دوسروں کو تقویٰ طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ لوگوں کو روزے نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو لیکن اللہ کے اس نبی کو جھٹلا کر تم خود اپنی یہ کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لئے کہتے ہو مگر دنیاوی ڈر، خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان پورا سمجھ دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشن نہ بن جائے اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتادیتے لیکن خود عامل نہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ندمت کی۔

مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات: ☆☆ (آیت: ۲۲) یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے بلکہ یہ تو واجب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہئے جیسے حضرت شیعہ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفُكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ يَعْلَمُ میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں۔ میرا رادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت و رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ پس نیک کاموں کے کرنے کے لئے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی واجب۔ ایک کونہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ دینا نہیں چاہئے۔ علماء سلف و خلف کا قول یہی ہے۔ گو بعض کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ راستیوں والا دوسروں کو بھائیوں کا حکم نہ دے لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں بلکہ صحیح نہیں ہے کہ بھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور خود بھی کرے اور رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دو ہر آگنہ کار ہو گا۔ ایک کے ترک پر اکہرا۔ طبرانی کی مجم کبیر میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال چرا غصبی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، مراج و الی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قیچیوں سے کائے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم کے

باد جو دیکھتے نہیں تھے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کا لے جارہے تھے یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حبان، ابن ال حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو والی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت اسامہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمانؓ سے کچھ نہیں کہتے، آپ نے جواب دیا کہ تمہیں سننا کرہی کہوں تو ہی کہنا ہو گا، میں تو انہیں پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا اس لئے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنایا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنسیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، جہنمی جح جو کراس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا (مند احمد) بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔

مند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگذر کرے گا، جتنا جانے والوں سے نہیں کرے گا۔

بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو ایک دفعہ بخشا جائے تو عام آدمی کو ستر دفعہ بخشا جاتا ہے، عالم جاہل یکسان نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ہے هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابُ جانے والے اور انجانان برابر نہیں، فصیحت صرف عقائد لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن عباس کریم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جتنی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری فصیحتیں سن کر ہم تو جنتی بن گئے مگر تم جہنم میں کیوں آپڑے۔ وہ کہیں گے افسوس ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضرت میں بھلاکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا، کیا تم اس درجہ تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا، اگر تم ان تین آیتوں کی فضیحت سے نذر ہو گئے ہو تو شوق سے وعظ شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ تین آیتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اتمروںَ النَّاسَ بِالْبَرِ وَتَسْوُئَ اَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو بھلاکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے تیسیں بھولے جارہے ہو؟ دوسری آیت لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرْ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ تیسرا آیت حضرت شیعہ علیہ السلام کا فرمان وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں، ان میں تمہاری خلافت کرنا نہیں چاہتا، میرا الرادہ صرف اپنی طاقت بھرا اصلاح کرتا ہے، کہو تم ان تینوں آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ (تفسیر مردویہ) ایک ضعیف حدیث طبرانی میں ہے کہ حضور نے فرمایا، جو لوگوں کو کسی قول فعل کی طرف بلائے اور خود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و غصہ میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خود آپ عمل کرنے لگ جائے۔ حضرت ابراہیم ؑ نے بھی حضرت ابن عباسؓ والی تینوں آیتیں پیش کر کے فرمایا ہے کہ میں ان کی وجہ سے تقدیر گوئی پسند نہیں کرتا۔

**وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةٍ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ لَهُ**

**الَّذِينَ يَظْنُنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ لَهُ**

## کر جانے والے ہیں ۰

صبر کا مفہوم: ☆☆ (آیت: ۳۵-۳۶) اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو؛ فرائض بجالا و اور نماز کو ادا کرتے رہو روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے اور اسی لئے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، روزہ آدھا صبر ہے<sup>①</sup> صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا میان ہو گیا، نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر کی دو تسمیں ہیں مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا قرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدلتی ہے خود قرآن میں ہے اقیم الصلوٰۃ إلٰ الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء و المُنْكَر وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ نماز کو قائم رکھئی تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت خدیفہؓ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے۔ فرمانماز میں لگ جاتے۔ جنانچھ جنگ خندق کے موقعہ پر رات کے وقت جب حضرت خدیفہؓ خدمت بنوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو نماز میں پاتے ہیں۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول (اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ) ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔

ابن جریرؓ میں ہے، نبی ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مجھ کے مارے پیٹ کے درد سے بیتاب ہو رہے ہیں، آپ نے ان سے (فاری زبان میں) دریافت فرمایا کہ درد شکم داری؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا، اللہ نماز شروع کر دو اس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قاسمؓ کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ اِنَّ اللَّهَ يُرِكُهُ كر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر و صلوٰۃ سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔

ان کی ضمیر کا مرتع بعض لوگوں نے تو صلوٰۃ یعنی نماز کو کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کا مرتع ہے جیسے قارون کے قصہ میں وَلَا يُلْقَأَا هَمَّا كَيْمَرْ اور برائی کے بد لے بھلانی کرنے کے حکم میں وَمَا يُلْقَأَا هَمَّا كَيْمَرْ۔ مطلب یہ ہے کہ صبر و صلوٰۃ بغرض کے بس کی چیز نہیں، یہ حصہ اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے۔ یعنی قرآن کے ماننے والے پچ موسن، کاپنے والے متواضع اطاعت کی طرف بھکنے والے وعدے دعید کو سچا ماننے والے ہیں، اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال پر حضور نے فرمایا تھا، یہ بڑی چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہربانی ہو اس پر آسان ہے۔ ابن جریرؓ نے اس آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں سے ہی خطاب قرار دیا ہے لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گویہ بیان انہی کے بارے میں لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے جل کر خشیعین کی مفت ہے۔ اس میں ظن معنی میں یقین کے ہے گوطن شک کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ سدف انہیں کے معنی میں بھی آتا ہے اور روشنی کے معنی میں بھی اور صارخ کا لفظ بھی فریاد کن دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور اسی طرح کے بہت سے نام ہیں جو اسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ خود قرآن کریم میں وَرَا

الْمُحْرِمُونَ النَّارَ فَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا لِيَقِنُ كُنْهًا رَجْنُومَ كُوْدَىٰ كَرِيْقَنْ كَرِلِيسْ گے کہ اب ہم اس میں جھوک دیے جائیں گے۔ یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہے بلکہ حضرت مجاهدؓ فرماتے ہیں، قرآن میں ایسی جگہ ظن کا فقط یقین اور علم کے معنی میں ہے۔ ابوالعالیٰ بھی یہاں ظن کے معنی یقین کرتے ہیں۔ حضرت مجاهدؓ سعدیؓ ریچ بن انس اور قادہؓ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریجؓ بھی یہی فرماتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے ایسی ظننت ایسی ملکِ حسایہ کیعنی مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنگہار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے یہوی پہنچنیں دیے تھے؟ کیا تجھے پر طرح طرح کے اکرام نہیں کئے تھے؟ کیا تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ سخنہیں کئے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار یہ سب کچھ تھا۔ پھر کیا تیر اعلم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا، اس حدیث میں بھی لفظ ظن کا ہے اور معنی میں یقین کے ہے۔ اس کی مزید تحقیق و تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ کی تقریر میں آگے آئے گی۔

## لِيَبْنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام چنانوں پر فضیلت دی ۰

بنی اسرائیل کے آباؤ اجداد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات: ☆☆ (آیت: ۲۷) بنی اسرائیل کے آباؤ اجداد پر جو نعمت اللہ یہ انعام کی گئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتریں، انہیں ان کے زمانہ کے دوسراے لوگوں پر مرتبہ دیا جیسے فرمایا و لقد اخْتَرْتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ یعنی انہیں ان کے زمانے کے (اور لوگوں پر) ہم نے علم میں فضیلت دی۔ اور فرمایا و اذْ قَالَ مُؤْسِنِي لِقَوْمَةِ يَقُوْمٍ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَأَنْتُمْ مَالُمْ يُوتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ یعنی مویٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی گئی ہے، تم میں اس نے پیغمبر پیدا کئے تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام اور لوگ ہیں اس لئے کہ امت محمدیہ ان سے یقیناً افضل ہے۔ اس امت کی نسبت فرمایا گیا ہے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْ تم بہتر امت ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں مروی ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں، تم ستروں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ اس قسم کی اور بہت سی حدیثوں کا ذکر ان شاء اللہ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْ تم کی تفسیر میں آئے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں پر خاص قسم کی فضیلت مراد ہے جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ رازیؓ نے یہی کہا ہے مگر یہ غور طلب بات ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے اس لئے کہ انہیاء کرام انہی میں سے ہوتے چلے آئے ہیں لیکن اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے اس لئے کہ اس طرح کا اطلاق کے اجتماعی اعزاز کو اگلے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اگلے انہیاء ان میں شامل نہ تھے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آنحضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو ان سب کے بعد ہوئے لیکن تمام حقوق سے افضل تھے اور جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ۔

## وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزُّ نَفْسٍ عَرَبْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ بِنِصْرَوْنَ

اس دن سے ڈرتے رہوجب کوئی کسی کو نقش نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدل اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے ۰

**حشر کا منظر:** ☆☆ (آیت: ۲۸) نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا جیسے فرمایا وَلَا تَرُوْ اِزْرَةً وَزَرْ اَخْرَى یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا اور فرمایا لِكُلَّ اَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاءَ يُغْنِيَهُ يعنی اس دن ہر شخص نفس انسانی میں پڑا ہوا ہو گا اور فرمایا اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ پیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ارشاد ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہو اور فرمایا ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ دوسری جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ دوست۔ یہ بھی ارشاد ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا اور جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو بھی کچھ قبول نہ ہو گا اور در دن اک عذابوں میں بتلا رہیں گے۔ اور جگہ ہے۔ گودہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں۔ اور جگہ ہے آج تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ کافروں سے۔ تمہارا ملک کانا جہنم ہے۔ اسی کی آگ تمہاری وارث ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ ایمان بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت، مزید فرمایا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلْلَ اس دن نہ بیع ہوگی نہ دوستی۔ عدل کے معنی یہاں بدلتے کے ہیں اور بدل اور فدیہ ایک ہے۔ حضرت علیؑ والی حدیث میں صرف کے معنی نقل اور دل کے معنی فریض مردی ہیں لیکن یہاں غریب ہے اور صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضورؐ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عدل کے کیا معنی ہیں؟ آپؐ نے فرمایا فدیہ۔ ان کی مد بھی نہ کی جائے گی یعنی کوئی حماقی نہیں ہو گا، قراتین کٹ جائیں گی جاہد حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کے لئے رحم نہ رہے گا نہ خود ان میں کوئی قدرت وقت رہے گی اور جگہ ہے ہو یُحِيرُ وَلَا يُحَارُ عَلَيْهِ وَهُنَّا دَيْتَا ہے اور اس کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ اور جگہ ہے آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب دے سکے نہ اس کی سی قید و بند۔ اور جگہ ہے مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمُ مُسْتَسْلِمُونَ تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب کے سب آج گردن جھکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔ اور آیت میں ہے فَلَوْ لَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا إِلَهَةً اَخْرَى اللَّهُ كَرِيمٌ كَرِيمٌ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ آج وہ معروف اپنے عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ تو غائب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپکی اہماد و نصرت نا یاد ہو گئی، معاملہ اس عادل حاکم، جبار و تھار اللہ تعالیٰ مالک الملک سے پڑا ہے جس کے ہاں سفارشیوں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتا پڑے۔ ہاں یہ اس کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم وہ گناہ بڑھا کر دے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ وقفہ لینے دوتا کہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے گا کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد چھوڑ کر نفس انسانی میں کیوں مشغول ہیں؟ بلکہ ہمارے سامنے سر جھکائے اور تابع فرمان ہیں۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَلْفِرَعَونَ يَسُومُونَكُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ يُذْبَحُونَ  
أَبْشِرْأَكُمْ وَيَسْتَخِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاجُورِمِنْ رَتِكُمْ  
عَظِيمٌ هُوَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا أَلْفِرَعَونَ  
وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ هُوَ

اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے جو تمہارے لئے لوگوں کو مارا لتھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی ۱۰ اور جب ہم نے تمہارے لئے دریاچیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظر وہ کے سامنے اس میں ڈبو دیا

احسانات کی یاد دہانی: ☆☆ (آیت: ۴۹-۵۰) ان آیتوں میں فرمان باری ہے کہ اے اولاد یعقوب میری اس مہربانی کو مجھی یاد کرو کوہ میں نے تمہیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چھکنا رادیا، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر ہر قطبی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوا گا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گا اس کے خدائی دعویٰ کی بدترین سزا سے ملے گی۔ اس لئے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو سکاری طور سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے۔ اگر لڑکا ہوتا فوراً مارا ڈالا جائے اور لڑکی ہوتا چھوڑ دی جائے علاوہ ازیں نبی اسرائیل سے سخت بیگاری جائے۔ ہر طرح کی مشقت کے کاموں کا بوجہ ان پر ڈال دیا جائے۔

یہاں پر عذاب کی تفسیر لڑکوں کے مارا لئے سے کی گئی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسرا پر عطف ڈال جس کی پوری تشریف کی ان شاء اللہ سورہ قصص کے شروع میں بیان ہو گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی دے۔ ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے آمین۔ یسُومُونَكُمْ کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں یعنی وہ برابر دکھدیے جاتے تھے۔ چونکہ اس آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو اس لئے فرعون کے عذاب کی تفسیر کو لڑکوں کے قتل کرنے کے طور پر بیان فرمایا اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اس لئے وہاں عطف کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو۔ یعنی تفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ عمالیق وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا جیسے کہ روم کے کافر بادشاہ کو قیصر اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسری اور مکن کے کافر بادشاہ کو تبع اور جوشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی اور ہند کے کافر بادشاہ کو بطيلوں۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ بعض نے مصعب بن ریان بھی کہا ہے۔ علیق بن اود بن ارم بن سام بن فوئی کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ اصل میں اصطخر کے فارسیوں کی نسل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکا را اور لعنت اس پر نازل ہو۔

پھر فرمایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی بلاء کے اصل معنی آزمائش کے ہیں لیکن یہاں پر حضرت ابن عباس "حضرت مجاہد ابو العالیٰ" ابوا مالک "سدی" وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آزمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بلوٹہ بلاء کا لفظ عموماً برائی کی آزمائش کے لئے اور ابیلیہ ابلاء و بتلاء کا لفظ بھلائی کے ساتھ کی آزمائش کے لئے آتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش یعنی عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے میں تھی۔ قرطی اس دوسرے مطلب کو جھوہر کا قول کہتے ہیں تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہو گا اور بلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچالیا۔ تم موسیٰ

کے ساتھ شہر سے نکلے اور فرعون تمہیں پکڑنے کو نکلا تو ہم نے تمہارے لئے پانی کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس میں سے پارا تار کر تمہارے سامنے فرعون کو اس کے شکر سیست ڈبو دیا۔ ان سب باتوں کا تفصیل وار بیان سورہ شعرا میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

غم و بن میون اودی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خیر ہوئی تو اس نے کہا کہ جب مرغ بولے تب سب نکلو اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صبح تک کوئی مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی بیگنی سے میں فارغ ہوں۔ اس سے پہلے چھ لاکھ قبطیوں کا شکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہئے چنانچہ حاضر ہو گیا اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لئے بڑے کروڑ فرے سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پالیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی۔ پیچھے بیٹیں تو فرعونیوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھیں۔ آگے بڑھیں تو مجھیوں کا لقہ بیٹیں۔ اس وقت حضرت یوسف بن نون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، حکم الہی ہمارا ہے یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا لیکن گھرے پانی میں جب غوطہ کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا اے موسیٰ رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں، نہ رب کو تین مرتبہ ایسا ہی کہا۔ اب حضرت موسیٰ کی طرف وہی آئی کہ اپنا عصادریا پر مارہ عصا مارتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور آپ کے مانے والے ان راستوں سے گذر گئے انہیں اس طرح پارا ترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونی افواج نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستہ پر ڈال دیئے۔ جب تمام کے تمام اس میں داخل ہو گئے تو پانی کوں جانے کا حکم ہوا، پانی کے ملتے ہی تمام کے تمام ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بر بادی ان کے لئے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورے کا تھا یعنی حرم کی دسویں تاریخ۔

مند احمد میں حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لئے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا جس کے شکر یہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا، تم سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں، پس حضور نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے مندر کو پھاڑ دیا تھا۔ اس حدیث کے روای زید اہمی ضعیف ہیں اور ان کے استاد یزیر رقاشی ان سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ  
بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَأَعْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۝ وَإِذَا تَيَّنَّا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

ہم نے (حضرت) موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر تم نے اس کے بعد پھر اپنے جناشوروع کر دیا اور ظالم بن گے ۰ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں

معاف کر دیا۔ تاک تم شکر کرو○ اور ہم نے (حضرت) موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لئے کتاب اور مجرزے عطا فرمائے○

چالیس دن کا وعدہ: ☆☆ (آیت: ۵۳-۵۱) یہاں بھی اللہ برتر و اعلیٰ اپنے احسانات یاد دل رہا ہے جب کہ تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اور اس کے بعد تم نے گنو سالہ پتی شروع کر دی۔ پھر ان کے آنے پر جب تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے نفر کو بخش دیا اور قرآن میں ہے وَعَدْنَا مُوسَىٰ نَّثَرْتُ لِيَّةً وَأَتَمَّنَهَا بِعَشْرٍ يُعِينَ ہم نے حضرت موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس بڑھا کر پوری چالیس راتوں کا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور دس دن ذوالحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ غریب نبیوں سے نجات پا کر دریا سے نجع کر کنکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مراد تو نہ ہے اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرئے یہ کتاب بھی اس واقعہ کے بعد ملی چیز کے سورہ اعراف کے اس واقعہ کے طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ بَعْدَ مَا أَهْلَكَنَا الْقُرُونُ الْأُولَى بھی آیا ہے یعنی ہم نے اگلے لوگوں کو بلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لئے بصیرت افزا اور ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واڑا ندی ہے اور خود کتاب کو فرقان کہا گیا ہے لیکن یہ غریب ہے۔ بعض نے کہا ہے کتاب پر ”فرقان“ کا عطف ہے یعنی کتاب بھی دی اور مجرزہ بھی دیا۔ دراصل معنی کے اعتبار سے دونوں کا مفاد ایک ہی ہے اور ایسی ایک چیز دونا میوں سے بطور عطف کے کلام عرب میں آیا کرتی ہے۔ شعراء عرب کے بہت سے اشعار اس کے شاہد ہیں۔

**وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقُولُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاِتِّخَادِكُمْ  
الْعِجْلَ فَتَنَوَّبُوا إِلَىٰ بَارِيَّكُمْ فَاقْتَلُوَا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَكُمْ عِنْدَ بَارِيَّكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ**

جب (حضرت) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم توبہ کر کرم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب تم اپنے بیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو۔ تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ وہ تو قبول کرنے والا اور حرم و کرم کرنے والا ہے○

خت ترین سزا: ☆☆ (آیت: ۵۲) یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھرے کو پوچھا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ طکی تفسیر میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کر دیکھا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو گا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم پوچھو گروں کو۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے پھر اپوجاتھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر انہیں چھا جایا ہوا تھا۔ جب وہ ہٹا اور انہیں روک دیا گیا تو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ ستر ہزار آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تھے کیا یہاں تک کہ رحمت اللہ نے انہیں بخشنا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمادیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا جردیا۔ قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔

مویٰ علیہ السلام اور حضرت ہارونؑ نے جب اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اللہ یا اب تو بنی اسرائیل مث جائیں کے چنانچہ انہیں معاف فرمادیا گیا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے خبیر مقتولوں کا غم نہ کرو۔ وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجہ میں ہیں وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پار ہے ہیں۔ اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری موقف ہوئی۔ تلوار نیزے پھرے اور چھپریاں چلنی بند ہوئیں۔ آپس میں باپ بیٹوں بھائیوں میں قتل و خون موقف ہوا اور اللہ تو اب ورجیم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

**وَلَذْ قُلْتُمْ يَمُوسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهَرَةً  
فَاخَدَتُكُمُ الصُّعْقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ هُنَّ ثُمَّ بَعْثَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ  
مَوْتِكُمْ لَعْلَكُمْ تَشَكُّرُونَ هُنَّ**

(تم اے بھی یاد کرو کر) تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے ۰ (جس گستاخی کی سزا میں) تم پر تہارے دیکھتے ہوئے بھلی گری۔ لیکن پھر اس لئے کتنم شکر گزاری کرو۔ اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا ۰

هم بھی اللہ عزوجل کو خود دیکھیں گے: ☆☆ (آیت: ۵۵-۵۶) مویٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے ستر شخصوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنائے تو حضرت مویٰ سے کہنے لگے ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسان سے ان کے دیکھتے ہوئے بھلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ مویٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے اور رورو کر جناب باری میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مارڈا تا۔ اللہ یا یقونوں کی یقینوں کے کام پر نہیں نہ پکڑ۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل پچھڑا پوچھنے والوں میں سے تھے۔ انہیں سزا مل گئی۔ پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کئے گئے۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا ایک دوسرا دیکھتا ہا۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب مویٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں پچھڑا پوچھتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی، پچھڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہادری اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو جنم کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد ستر تھی اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لئے چلے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کر ورنہ روزہ رکھو پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو جب حکم رب ذوالجلال طور سینا پر پہنچ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے جب مویٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اندر اللہ کے قریب ہو گئے جب کلام اللہ شروع ہوا تب مویٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چکنے لگی اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الـ العالمین ختم ہوا بادل چھٹ گیا اور مویٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے مویٰ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

اب مویٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعا میں شروع کیں اور کہنے لگے اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی

ہلاک ہو جاتے۔ یہ قوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کریے لوگ ان کے چیزوں اور پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تھا بھی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا اور پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ ہماری توبہ ہے۔ تو قبول فرمادور ہم پر فضل و کرم کر۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام یونہی خشوع و خضوع سے دعائیں نگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ اب سب نے یک زبان ہو کر بھی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، میں ان کی توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ سدی کبیر کہتے ہیں یہ واقعہ بھی اسرائیل کے آپس میں لڑائے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب گو عام ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد ہی ستر شخص ہیں۔

رازیؒ نے اپنی تفسیر میں ان ستر شخصوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیئے کہ وہ ہمیں نبی ہنادے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی لیکن یہ قول غریب ہے۔ مولیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور اس کے بعد حضرت یوسف بن نون علیہ السلام کے کسی اور کی نبوت ثابت نہیں۔ اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا۔ یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ خود مولیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ پھر بھلا یہ ستر اشخاص دیدار باری کی تاب کیسے لاتے؟ اس آہت کی تفسیر میں ایک دوسرے قول بھی ہے کہ مولیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے جو حکام کا مجموعہ تھی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں کیا بخیر اللہ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے پاتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اس قول پر ان کے اوپر غصب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دیئے گئے۔ پھر زندہ کئے گئے پھر مولیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو قہام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اپر معلق کر دیا کہ اگر نہ ما نتو گے تو یہ پہاڑ تم پر گردایا جائے گا اور تم سب پیش ڈالے جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہی اٹھے اور پھر بھی مکلف رہے یعنی احکام الہی ان پر پھر بھی جاری رہے۔ مادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی، مرنے کے بعد زندہ ہوئے تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گئی۔ اس لئے کہاب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں۔ خود ان پر یہ واردات نہیں آئی۔ اب تصدیق ایک بے اختیاری امر ہو گیا۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں بلکہ باوجود اس کے وہ حکام شرع کے مکلف رہے کیونکہ ہر عاقل مکلف ہے۔

قرطیؒ کہتے ہیں ٹھیک قول ہی ہے۔ یہ امور ان پر قدرتی طور سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے۔ خود میں اسرائیل نے بھی بڑے بڑے مجرمات دیکھے۔ خود ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بالکل نادر اور خلاف قیاس اور زبردست مجرمات تھے باوجود اس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اسی طرح یہ بھی ٹھیک قول ہے اور واضح امر بھی یہی ہے۔ واللہ عالم۔

**وَظَلَّكُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَىٰ مُكَلَّوَانِ**  
**طَيِّبَاتٍ مَارَزَقْنَاكُمْ وَمَا أَظْلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ**  
**يَظْلِمُونَ**

ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوی اتارا (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم

## کیا کرتے تھے

یہود پر احسانات الہیہ کی تفصیل: ☆☆ (آیت: ۷۶) سابقہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ فلاں فلاں بلا میں ہم نے تم پر سے دفع کر دیں۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائیں عمماً غمامۃ کی جمع ہے چونکہ یہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لئے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یا ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادیٰ تیہ میں ان کے سروں پر سایہ کے رہتا تھا جیسے نسائی وغیرہ میں ابن عباس سے ایک بھی حدیث میں مردی ہے، ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ رجع بن انسؓ ابو محیاؓ ضحاکؓ اور سدیؓ نے بھی بھی کہا ہے۔ حسنؓ اور قادہؓ بھی یہی کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمده تھا۔ حضرت مجاهد فرماتے ہیں، یہ بھی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ ابو حذیفہ کا قول بھی یہی ہے ہلُّ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ إِلَّا اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل میں آئیں۔ یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔

جو "من" ان پر اتراؤہ درختوں پر اتراتھا۔ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھالیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا۔ کوئی کہتا ہے شبم کی وضع کا تھا۔ حضرت قادہؓ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اتراتھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب تک اترتا تھا۔ ہر خص اپنے گھر بار کے لئے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگز جاتا تھا۔ جمع کے دن وہ دودن کا لے لیتے تھے جماد اور ہفتہ کا اس لئے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ رجع بن انس کہتے ہیں، من شہد چیزیں چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے ٹھیٹی فرماتے ہیں تھا را یہ شہداں "من" کا ستر دا حصہ ہے۔ شعروں میں یہی "من" شہد کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی اور اگر پانی میں مالایا جائے تو پینے کی چیز تھی اور اگر دوسرا چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جائے تو اور چیز ہو جاتی تھی لیکن یہاں "من" سے مراد یہی من مشہور نہیں۔

صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، کبھی "من" میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفایہ ہے۔ ترمذیؓ سے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ عجمہ جو مدینہ کی بھوروں کی ایک قسم ہے۔ وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاق ہے اور کبھی "من" میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوائی ہے سید حدیث حسن غریب ہے۔ دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مردی ہے۔ اب مردی کی حدیث میں ہے کہ صحابہؓ نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتیں۔ بعض کہنے لگے کبھی کا درخت ہے۔ آپؐ نے فرمایا، کبھی تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفایہ ہے۔ سلوی ایک قسم کا پرندہ ہے۔ چیزیاں سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرفی مائل رنگ کا، جنوبی ہوا میں چلتی تھی اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذنوب کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گذر کرنے جاتا تو وہ بگز جاتا تھا اور جماد کے دن دودن کے لئے جمع کر لیتے تھے کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لئے عید کا دن ہوتا تھا، اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برادر ہوتے تھے، ایک میل کی لمبائی چڑائی میں ایک نیزے کے برادر اونچاڑی ہیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادیٰ تیہ میں اتری تھیں جہاں انہوں نے اپنے میغیر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہو گا، تب ان پر من و سلوی اتارا گیا اور پانی کے لئے جب حضرت مولیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔

عصا لگتے ہی اس سے بارہ چشے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے بارہ ہی فرقے تھے۔ ہر قبیلہ نے ایک ایک چشمہ اپنے لئے بانٹ لیا پھر سایہ کے طالب ہوئے کہ اس چھٹیل میدان میں سایہ بغیر گذر مشکل ہے۔ تو اللہ جبار ک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا رہ گیا الہام توقدرت الہی سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ ایک سال کے بچ کا لباس جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا، لباس بھی بڑھتا جاتا، نہ پھشتا نہ خراب ہوتا، نہ میلا ہوتا، ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے جیسے یہ آیت اور ادا سُتَّسُقِی وَالی آیت وغیرہ۔

ہندی کہتے ہیں کہ سلوی شہد کو کہتے ہیں لیکن ان کا یہ قول غلط ہے۔ ثورن ٹھن نے اور جو ہری نے بھی کہا ہے اور اس کی شہادت میں عرب شاعروں کے شعر اور بعض لغوی محاورے بھی پیش کئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک دوا کا نام ہے۔ کسانی کہتے ہیں سلوی واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاوی آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفرد میں بھی صیغہ رہتا ہے یعنی لفظ سلوی۔ غرض یہ اللہ کی دعوییں تھیں جن کا کھانا ان کے لئے مباح کیا گیا لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا باوجود یہ کہ اس سے پہلے بہت سچھا اللہ کی دعوییں ان پر نازل ہو چکی تھیں۔

تفابی جائزہ: ☆☆ بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر اصحاب رسول اللہ ﷺ کی حالت پر نظر ڈالو کہ باوجود دخت سے سخت مصیبیں جھیلیں اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی پر اور عبادت الہی پر تھے رہے نہ مجرمات طلب کئے نہ دنیا کی راحتیں مانگیں نہ اپنے تیش کے لئے کوئی نیچی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں جبکہ بھوک کے مارے بیتاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا تب حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا کیجئے اور جس کے پاس جو کچھ چا کچھ تھا، جمع کر کے حاضر کر دیا۔ جو سبل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا، حضور نے دعا کی اور اللہ جبار ک و تعالیٰ نے قول فرمایا کہ اس میں برکت دی انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام تو شے دان بھر لئے پانی کے قطرے قطرے کو جب تر نئے لگے تو اللہ کے رسول کی دعا سے ایک ابرا یا اور ریل پنی کردی پیا پلایا اور مشکلیں اور مشکلیں سب بھر لئے پس صحابہؓ کی اس ثابت قدمی اولوالعزی، کامل اتباع اور چی تو حیدنے ان کی اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر قطعی فضیلت ثابت کر دی۔

**وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ  
رَغْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِلَّةً ۝ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ  
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَذَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي  
قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا  
كَانُوا يَفْسُدُونَ ۝**

ہم نے تم سے کہا کہ اس بھتی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فرا غست کھاؤ یا اور دروازے میں سے بھدے کرتے ہوئے گزر او رزبان سے حلقہ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے ۱۰ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جوان سے کہی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فتن و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا ۱۰

یہود کی پھر حکم عدوی: ☆☆ (آیت: ۵۸-۵۹) جب موئی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا جو ان کی موروثی زمین تھی ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمائدی ہیں ان سے جہاد کرو تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان تیہہ میں ڈال دیا گیا جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ قریبہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سدیٰ ربیع، قادہ، ابو مسلم وغیرہ نے بھی کہا ہے قرآن میں ہے کہ موئی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لئے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ریخاء ہے، بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ تیہہ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی بلکہ سورج کو ان کے لئے ذرا سی دریٹھہ را دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے، فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ جو اس فتح کے اظہار تشكیر کا مظہر ہوگا۔

ابن عباسؓ نے سجدے سے مراد کوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع خضوع ہے کیونکہ حقیقت پر اسے محول کرنا ممکن ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا اس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازیؓ نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھلکھلنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کے بجائے اور اونچا کر لیا۔ حِطَّةَ کے معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ امر حق ہے۔ عکرمؓ کہتے ہیں، اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں، ان میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسنؓ اور قادهؓ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی بستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو گے تو چونکہ یہ جیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں تمہاری خطاؤں سے درگذر کرلوں گا۔ فتح کمکے موقع پر فرمان الہی سورہ اِذَا حَاءَ نازل ہوئی تھی اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آجائے، کمک فتح ہو اور لوگ دین الہی میں فوج درفعہ آنے لگیں تو اے نبی تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد و شنبایان کرو اس سے استغفار کرو۔ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے وہاں حضورؐ کے آخری وقت کی خبر تھی۔ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ کے سامنے اس سورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے فرمایا تھا جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضورؐ شہر میں داخل ہوئے تو انہی توضیح اور مکینی کے آثار آپ پر تھے یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے اُنہی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے فتنی کے وقت آٹھ رکعت نماز ادا کی جو فتنی کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی، دونوں طرح کے قول محدثینؓ کے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی دقادس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسری کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق آٹھ رکعتیں پڑھیں، دو دو رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا نام ہب ہے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آٹھ ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں۔ واللہ عالم۔

صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر کھستے ہوئے اور حطہ کی بجائے حبته فی شعر کہتے ہوئے جانے لگے۔ نسائی، عبد الرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث بے اختلاف الفاظ موجود ہے اور سنداً صحیح ہے۔

حضرت ابوسعید، خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے۔ ذات الحظل نای گھائی کے قریب پہنچتا آپ نے فرمایا کہ اس گھائی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حِطَّةَ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنْ سُفَهَاءِ يَعْنَى جاہلُوں سے

مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو بدلتا تھا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جستہ کے بدلتے انہوں نے جنتہ حبہ حمراء فیہا شعیرہ کہا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے ہطا سمعانا ازیہ مزبا ابن عباس بھی ان کی اس لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلتے وہ رانوں پر گھستتے ہوئے اور جستہ کے بدلتے حنطة کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت عطاء مجاهد عکرمہ "ضحاک" حسن قادة رضی اللہ عنہ بھی نے بھی میں بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے مذاق اڑایا جو صریح مخالفت اور معاندت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے طالبوں پر ان کے نقش کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رجز سے مراد عذاب ہے کوئی کہتا ہے غصب ہے کسی نے طاعون کہا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتنا رکھا گیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیتے گئے تھے۔

**وَإِذْ أَسْتَسْقى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ  
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتْ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّا  
كُلُّوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ**

اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو۔ جس سے بارہ جھٹے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا (اور ہم نے کہہ دیا کہ) اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے پیتے رہا اور زمین میں شادا نہ کرتے پھر وہ

یہود پر تسلسل احسانات: ☆☆ (آیت: ۲۰) یہ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے جھٹے بہادیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا اور تمہارے ہر قبیلے کے لئے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کر دیا جسے ہر قبیلہ نے جان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوی کھاتے رہا اور ان چشموں کا پانی پیتے رہے جن حت کی روزی کھا پی کر رہا ری عبادت میں لگے رہوئا فرمائی کر کے زمین میں فساد مرت پھیلا دا ورنہ یہ نیتیں چھوئیں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک چکور پتھر تھا جو جان کے ساتھ رہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھکم اللہ وندی اس پر لکڑی ماری چاروں طرف سے تین تین نہریں بٹکیں۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لا دیا جاتا تھا۔ جہاں اترے تو رکھ دیتے اور عصا کی ضرب لکتے ہی اس میں سے نہریں بٹکتیں۔ جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتیں اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا۔ ایک ہاتھ لے با اور ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ جنکی پتھر تھا، دس دس ہاتھ لے با چوڑا تھا، دو شاخیں تھیں جو جنکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدمؑ کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یونہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیبؑ کو ملا تھا۔ انہوں نے لکڑی اور پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ اپنے کپڑے رکھ کر نہار ہے تھے اور بھکم الہی یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگتا تھا، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرايل کے مشورہ سے اٹھا لیا تھا۔ جس سے آپ کا مجرمہ ظاہر ہوا۔

زختری کہتے ہیں کہ مجرمہ الفلام جس کے لئے ہے عہد کے لئے نہیں یعنی کسی ایک پتھر پر عصا مارو نہیں کہ فلاں پتھر ہی پر مارو۔ حضرت حسن سے بھی بھی سروی ہے اور بھی مجرمے کا کمال اور قدرت کا پورا اظہار ہے، آپ کی لکڑی لکتے ہی وہ بہنے لگتا اور پتھر دسری لکڑی

لگتے ہی خشک ہو جاتا۔ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پھر گم ہو گیا تو ہم پیاس سے مر نے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکڑی نہ مارو صرف زبانی کہوتا کہ انہیں یقین آجائے۔ واللہ اعلم۔

ہر ایک قبیلہ اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی پھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے جسٹے جاری ہو جاتے جس شخص کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ چشمہ تمہارا ہے یہ واقعہ میدان تیہہ کا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعہ کا بیان ہے لیکن چونکہ وہ سورت کی ہے اس لئے وہاں ان کا بیان غائب کی خیر سے کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر نازل فرمائے تھے وہ اپنے رسول کے سامنے دو ہرائے ہیں اور یہ سورت مد نی ہے اس لئے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں فائدہ حسست کہا اور یہاں فانفجھر ٹ کہا اس لئے کہ وہاں اول اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے۔ واللہ اعلم۔ اور ان دونوں جگہ کے بیان میں دس وجہ سے فرق ہے جو فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی زختری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت اس میں قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

وَإِذْ قُلْتُمْ لِيَمُوسِى لَكُنْ لَصَبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ  
يُنْخِرُخْ لَنَا مِمَّا تَنْهَىَتِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَهَا وَقَثَلَهَا وَقُوْمَهَا  
وَعَدَسَهَا وَبَصِلَهَا ۚ قَالَ أَتَسْتَبِدُ لَوْنَ الدِّىْ هُوَ آدْنَى بِالْدِىْ هُوَ  
خَيْرٌ إِهْبِطُوا مِصْرَا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ

اور جب تم نے کہا کہ اے موی ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا۔ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی بیوی اور ساگ، گکری، گیہوں صور اور پیاز دے آپ نے فرمایا۔ بہتر چیز کے بد لے یا ادنی چیز کوں طلب کرتے ہو اچھا کسی شہر میں جاؤ۔ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزوں میں گی۔

احسان فراموش یہ ہو: ☆☆ (آیت: ۶۱) یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت اللہ کی ناقدری بیان کی جا رہی ہے کہ مدن و سلوی جیسے پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے ایک طعام سے مراد ایک قسم کا لکھانا یعنی من و سلوی ہے۔ فوُم کے معنی میں اختلاف ہے: ابن سعوڈ کی قرات میں ثُوُم ہے، مجاهد نے فوُم کی تغیر فوُم کے ساتھ کہی ہے یعنی ہمس، حضرت ابن عباس سے بھی یہ تغیر مروی ہے۔ اگلی لغت کی کتابوں میں فوُمُوا لَنَا کے معنی اخْتَبِرُوا یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں، امام ابن حجر قریما تے ہیں، اگر یہ صحیح ہو تو یہ حروف مبدلہ میں سے ہیں جیسے عَاثُورُشُرْ عَافُورُشُرْ، اثنافی، اثنافی، مَغَافِيرُ، مَغَافِيرُ، غیرہ جن میں ف سے ت اور ث بدل لے گیا کیونکہ یہ دونوں مخرج کے انتبار سے بہت قریب ہیں۔<sup>۱</sup> واللہ اعلم۔ اور لوگ کہتے ہیں فوُم کے معنی گیہوں کے ہیں، حضرت ابن عباس سے بھی بھی تغیر مقول ہے اور اچھے کے شعر میں بھی فوُم گیہوں کے معنی میں آیا ہے۔ بنی ہاشم کی زبان میں فوُم گیہوں کے معنی میں مستعمل تھا۔ فوُم کے معنی روٹی کے بھی ہیں، بعض نے سنبلہ کے معنی کہے ہیں۔

حضرت قیادہ اور حضرت عطا فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوُم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں فوُم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں، حضرت موی نے اپنی قوم کو دشنا کہم ردوی چیز کو بہتر کے بد لے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فرمایا شہر میں جاؤ، وہاں یہ سب چیزوں پاؤ گے۔

جہوہر کی قرات ”مَصْرًا“ ہی ہے اور تمام قراؤں میں بھی لکھا ہوا ہے۔

ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ۔ ابی بن کعبؓ اور ابن مسعودؓ سے مصر کی قرات بھی ہے اور اس کی تفسیر مصر شہر سے کی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر اسے بھی مراد نہ صوص شہر مصریاً کیا ہو اور یہ الف مِصْرًا کا ایسا ہو جیسا قَوَارِيرَا قَوَارِيرَا میں ہے۔ مصر سے مراد عام شہر لینا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم طلب کرتے ہوئے تو آسان چیز ہے جس شہر میں جاؤ گے یہ تمام چیزیں وہاں پالو گے۔ میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کا یہ قول حضن تکبر سرکشی اور بُوائی کے طور پر تھا۔ اس نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا وہاں اعلم۔

**وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلْلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَأْءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَ النَّبِيِّنَ  
يُغَيِّرُ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ  
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالظَّبَّى مَنْ أَمَنَ بِإِيمَانِهِ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غصب لے کر وہ لوٹے۔ یہاں لئے کہ وہ اللہ کی آئیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہن کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے ۰ مسلمان ہوں یہودی ہوں نصاریٰ ہوں یا صابی ہوں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرنے اس کے اجران کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اوسی ۰

**پاداش عمل:** ☆☆ (آیت: ۶۱) مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلنے انہیں ڈال دیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی۔ اللہ کا غصب و غصہ ان پر اترا۔ ”آباؤ“ کے معنی لوٹنے اور ”رجوع کیا“ کے ہیں۔ باء کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ اور بکھی برائی کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں برائی کے صلے کے ساتھ ہے۔ یہ تمام عذاب ان کے تکبر، عناد حق کی قولیت سے انکار اللہ کی آئیوں سے کفر، انیمیا اور ان کے تابعداروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفر اور کون سا ہو گا کہ اللہ کی آئیوں سے کفر کرتے اور اس کے نبیوں کو بلا جگہ قتل کرتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، تکبر کے معنی حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں۔ مالک بن مرارہ رہاویؓ ایک روز خدمت رسولؐ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں خوبصورت آدمی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر قتل انیمیاء تک پہنچ گیا تھا، اس لئے اللہ کا غصب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک بنی اسرائیل ان میں موجود تین سو نبیوں کو قتل کر دلتے تھے۔ پھر بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں مشغول ہو جاتا (ابوداؤ و طیالی)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں سب سے زیادہ خت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہو گا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مارڈا ہوا اور گر انہی کا وہ امام جو تصویریں بنانے والا یعنی مصور ہو گا۔ یہ ان کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کا بدلہ تھا، یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کئے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فرماں برداری کے لئے بشارت: ☆☆ (آیت: ۲۲) اور چونکہ نافرمانوں کے عذاب کا ذکر تھا تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے، ان کے ٹوپ کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لئے یہ بشارت تاقیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ذرہ نہ یہاں حاصل نہ ہونے والی اشیاء کا افسوس و حرث۔ اور جگہ ہے الٰٰ اَنَّ اُولَيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں اور وہ فرشتے جو مسلمان کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ لَا تَحَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا بُشِّرُوْ بِالْحَجَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تَوْعَدُوْنَ تمْ ذُرْنَبِیْسِ، تم اداں شہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا، ان کی عبادت اور نماز روزے دے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری (ابن ابی حاتم) ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمانؓ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی روزہ دار ایماندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ معمouth ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم ہیں، حضرت سلمانؓ کو اس سے بڑا رنخ ہوا۔ وہیں یہ آیت نازل ہوئی لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایمانداروہ ہے جو تو نہ کو ما نہیں اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آجائیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو بحق سمجھے۔ اگر اب بھی وہ تو نہ آور سنت موسیٰ پر بحarr ہے اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرے اور تابعداری نہ کرے تو پھر بے دین ہو جائے گا۔

اسی طرح نصرانیوں میں سے ایمانداروہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسیٰ پر عمل کرے اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو پالے تو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر بھی وہ انجیل کو اور ایتاء عیسیٰ کو نہ چھوڑے اور حضورؐ کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہو گا۔ (ابن ابی حاتم) سدیؓ نے یہی روایت کی ہے اور سعید بن جیبریلؓ یہی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابعدار اس کا مانے والا ایماندار اور صاحب ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے لیکن جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔

قرآن کی ایک آیت تو یہ جو آپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُفْلِمَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأُخْرَةِ مِنَ الْخَسِيرِینَ<sup>③</sup> یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو، اس سے قول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہو گا۔ ان دونوں آیتوں میں یہی تلقین ہے۔ کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تا وقتنکہ وہ شریعت محمدؐ کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ آپ معمouth ہو کر دنیا میں آگئے۔ آپ سے پہلے جس نبی کا جزو مانہ تھا اور جو لوگ اس زمانہ میں تھے ان کے لئے ان کے زمانہ کے نبی کی تابعداری اور اس کی شریعت کی مطابقت شرط ہے۔

یہود کون ہیں؟ ☆☆ لفظ یہود ہو دے ماخوذ ہے جس کے معنی مودہ اور دوستی کے ہیں یا یہ ماخوذ ہے تہود سے، جس کے معنی توبہ کے ہیں جیسے قرآن میں ہے اِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ<sup>④</sup> حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں پس انہیں ان دونوں جو باتیں کی بنا پر سے یہود کہا گیا ہے، توبہ کی وجہ اور آپس میں دوستی کی وجہ سے اور بعض کہتے ہیں یہ یہود اکی اولاد میں سے تھے اس لئے انہیں یہود کہا گیا ہے، یہود اور حضرت یعقوبؑ کے بڑے بڑے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تو را ڈھنے وقت بلتے تھے۔ اس بنا پر انہیں یہود یعنی

حرکت کرنے والا کہا گیا ہے۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو میں اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتنا دلای واجب ہوئی۔ تب ان کا نام نصاریٰ ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی۔ انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے مَنْ أَنْصَارِيٌ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْكَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ اللَّهُ كَدِينِ مِنْ مَيْرَادِ دَگَارِ كُونَ ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا۔ اس لئے انہیں نصاریٰ کہا گیا۔ قادہٗ اور ابن جرجنگ کا یہی قول ہے۔ ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ واللہ اعلم۔

نصاریٰ نصران کی جمع ہے جیسے نشوان کی جمع نشاویٰ اور سکران کی جمع سکاریٰ۔ اس کا مونث نصرانیہ آتا ہے۔ اب جبکہ خاتم النبین ﷺ کا زمانہ آیا اور آپ تمام دنیا کی طرف رسول و نبی ہنا کر بھیجے گئے تو ان پر بھی اور دوسرے سب پر بھی آپ کی تقدیق و اتباع واجب قرار دی گئی اور ایمان و یقین کی چلکی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام مونمن رکھا گیا اور اس لئے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک توبے دین اور لاذہب کئے گئے ہیں اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی یہ تھا جوز بور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابوحنیفہؓ اور الحنفیؓ کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لئے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں یہ گروہ مجوہیوں کی مانند ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پیجاري تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ پانچ وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو اپنے ارادہ سے باز رہے۔

ابوالزناد فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں۔ بکوٹی کے رہنے والے سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہر سال تیس روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ بدن مجبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبدالرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیہ موصل میں یہ لوگ تھے۔ لا إله إلا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے۔

بشریکین اسی بنا پر آنحضرور اور آپ کے صحابہ کو لا إله إلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یعنی کہنے کی بنا پر۔ ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا۔ ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوحؑ کے دین پر تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوہوں کے دین کا خلط ملطیہ مذہب تھا۔ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا منوع ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تاثیر اور نجوم کے معتقد تھے۔

ابوسعید اصحابیؓ نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ رازی فرماتے ہیں یہ ستارہ پرست لوگ تھے کثرانیوں میں سے تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محسن اللہ تعالیٰ کو ہے مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے نہ نصاریٰ نہ مجوہی نہ مشرک بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے اور اسی معنی میں بشریکین اصحاب رسول اللہ ﷺ کو صابی کہا کرتے تھے یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ واللہ اعلم۔

وَإِذْ أَخَذَنَا مِيشَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ مُحْذِّلُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ  
 بِنُقُوقٍ وَإِذْ كُرْرُوا مَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَشْتَقُونَ هُنُّمْ تَوَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ قِنْ الْخَسِيرُونَ  
 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَبِ فَقُلْنَا لَهُمْ  
 كُوْنُوا قِرَدَةً خَسِيرُونَ هُنَّمْ فَجَعَلْنَاهُنَّا نَكَالًا لِمَا أَبَيْتُ يَدِيهَا وَمَا  
 حَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پر ہاڑا کر کھڑا کر دیا (اور کہا) جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے قام اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کروتا کرم فی  
 سکو ○ لیکن تم اس کے بعد بھی بھر گئے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کافل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے ○ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم  
 میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذیل بندر بن جاؤ ○ اسے ہم نے ان لوگوں پہلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیز  
 گاروں کے لئے وعظ و نصیحت کا

عہد شکن یہود: ☆☆ (آیت: ۶۳-۶۴) ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور  
 میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لئے میں نے طور پر ہاڑا کو تمہارے سروں پر  
 لا کر کھڑا کر دیا تھا جیسے اور جگہ ہے وَإِذْ نَقَنَّا الْجَبَلَ فَوَفَّهُمْ إِنْجَبٌ جب ہم نے ان کے سروں پر سائبان کی طرح پرہاڑا کر کھڑا کیا اور وہ  
 یقین کر چکے کہ اب پرہاڑا ان پر گر کر انہیں پکل ڈالے گا۔ اس وقت ہم نے کہا، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھا معاور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد  
 کرو تو نجگو جاؤ گے، طور سے مراد پرہاڑا ہے جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے اور جیسے صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے ثابت ہی ہے کہ  
 طور اس پرہاڑا کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہو۔ حدیث نمون میں برادیت ابن عباس مژروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا، اس  
 وقت یہ پرہاڑا ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا کہ اب تو احکامات نہیں۔ سدیٰ کہتے ہیں، ان کے بعد سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر  
 پرہاڑا آ گیا لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے نکھلیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرم فرمایا اور  
 پرہاڑا بھالیا اس وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا ہر مسجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اوپر ڈیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا  
 اس سے مراد توراۃ ہے۔ قوت سے مراد اطاعت ہے یعنی توراۃ پر مضبوطی سے جنم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پرہاڑا تم پر گردایا جائے گا اور اس  
 میں جو ہے، اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو یعنی توراۃ پر ہستے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ یہاں، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر  
 زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی۔ اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر وہ تو بقبول نہ فرماتا اور  
 نبیوں کے سلسلہ کو بر ابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو تو زنے کی بنا پر دنیا اور آخوند میں تم بر باد ہو جاتے۔  
 صورتیں مسخ کر دی گئیں: ☆☆ (آیت: ۶۵-۶۶) اس واقعہ کا بیان تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے جہاں فرمایا وَسَعَلَهُمْ  
 عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْجَيْتُ لَهُ وَهِيَ اس کی تفسیر بھی پوری بیان ہو گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمہ تسمی کے باشندے تھے۔ ان پر ہفتے کے دن تنظیم  
 ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھیں تو انہوں نے مکاری کی۔

گڑھے کھو دئے رہیں اور کائی ڈال دیئے۔ ہفتہ والے دن وہ آگئیں۔ یہاں پھنس گئیں۔ اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا، اس جم پر اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔

حضرت مجاہد قرماتے ہیں، صورتیں نہیں بدی تھیں بلکہ دل منع ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہے جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدوں سے مثال دی ہے لیکن یہ قول غریب ہے اور عبارت قرآن کے ظاہر الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت وَسُلَّهُمْ أَنْ يَرُوا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ اخْرَى نَظَرًا إِلَيْهِ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے سور بنا دیئے گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد اور عورت دم والے بندر ہنادیے گئے۔ آسانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس کمرہ حیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو، ہم پہلے سے تمہیں منع کرتے تھے۔ تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، تھوڑی مدت میں وہ سب بلاک ہو گئے ان کی نسل نہیں ہوئی۔ تین دن سے زیادہ کوئی منع شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی تین دن میں ہی یونہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ بندر جواب ہیں اور جو اس وقت بھی تھے یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کئے گئے تھے، اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جس طرح کا چاہے بنا دیتا ہے (اللہ اپنے غصب و غصہ سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنے دنیوی اور اخروی عذابوں سے نجات دے۔ آمین) خاسین کے معنی ذیل اور کمیز۔ ان کا داتھ تفصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ سب سن لیجئے۔ ان پر جمکی عزت و ادب کو فرض کیا گیا لیکن انہوں نے جسم کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتہ کا دن رکھا۔ اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھلینا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتہ والے دن تمام محچلیاں اور آجایا کرتی تھیں اور کوئی اچھتی رہتی تھیں لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔

ازال بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ حیلہ نکالا کہ ہفتہ والے دن محچلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر دوئی کو کنارے پر کی چیز سے باندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوبصور پا کر پوچھا تو اس نے کہا، میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس حیلہ کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب محچلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھو دئے، ہفتہ والے دن جب محچلیاں اس میں آ جاتیں تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے، کچھ لوگ جوان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے، وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتہ کو شکار ہی نہیں کھلتے۔ ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھلینے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا وہ تو ان کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ ان کا نہ شکار کھلتے تھے نہ شکار یوں کو روکتے تھے بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں وعدو انصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کرچے، انہیں منع کرچے جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو۔ یہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم مخدوڑ ہو جائیں اس لئے اور دوسرے اس لئے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہاں جائیں اور عذاب الہی سے نجات پائیں۔

بالآخر مسلم جماعت نے اس حیلہ جو فرقہ کا بالکل بایکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافرمانوں کے لئے، اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزرنگی۔ ایک دن صبح مسلمان جا گے۔ دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنادروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آرہی تھیں۔ یہ لوگ

محیر تھے کہ آج کیا بات ہے؟ آخرب جب زیادہ دیر لگ گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب مظہر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمان لوگ مع عورتوں بچوں کے بندربن گئے ہیں، ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے، اسی طرح بند ہیں اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہیں؛ جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عتاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میں جوں ترک نہ کیا تھا۔ صرف وہ بچے جو انہیں منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلک ہو گئے تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کافی ایک آیتیں وغیرہ شاہد ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں۔ سچ مجھ بندر بنا دیئے گئے نہ یہ کہ معنوی مسخ تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے جیسے کہ جاہدگا قول ہے۔ ثمیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔

**فَجَعَلْنَا هَا مِنْ هَـا كِـي ضِيرَ كَـا مـارـجـعَ قـرـدـةَ** ہے یعنی ہم نے ان بندروں کو سبب عبرت بنایا۔ اس کا مرجع حیثیات ہے یعنی ان مچھلیوں کو یا اس کا مرجع عُقُوبَةٌ ہے یعنی اس سزا کا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرجع قریب ہے یعنی اس بستی کو ہم نے انگلے چھلوں کے لئے عبرتاک امر واقعہ بنادیا اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قریب مراد ہے اور قریب سے مراد اہل قریب ہیں۔

نکال کہتے ہیں عذاب و سزا کو جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَجْرَةِ وَالْأُولَى** اس کو عبرت کا سبب بنایا آگے بیچھے والی بستیوں کے لئے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحْوَلُكُمْ مِنَ الْقُرْبَى** اخْ ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں اور ارشاد ہے اولم يَرَوْا آنَا نَاتَقِي الْأَرْضَ اخْ قادر یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کے موجود لوگوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے یہ عبرت ناک واقعہ دلیل راہ بن جائے۔

گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لئے یہ واقعہ گوکتاہی زبردست عبرتاک ہو، اگلوں کے لئے دلیل نہیں بن سکتا اس لئے کہ وہ تو گذر چکے تو ثمیک قول یہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے یعنی آس پاس کی بستیاں اور یہی تفسیر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کی۔ واللہ اعلم۔

**وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً  
قَالُوا مَا تَحِدِّذُنَا هُمْ رَوَّاْتُمْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجُمَلِينَ ﴿٦﴾**

(حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسمیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جمال ہونے سے اللہ کی پناہ پکرتا ہوں ॥

اور یہ بھی معنی بیان کئے گئے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایسے ہی گناہوں کے لئے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا۔ لیکن صحیح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی یعنی آس پاس کی بستیاں۔ قرآن فرماتا ہے **وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحْوَلُكُمْ** اخْ اور فرمان ہے **وَلَا يَزَّأْلُ الْذِينَ كَفَرُوا** اخْ اور فرمان ہے **أَفَلَا يَرَوْا آنَا نَاتَقِي الْأَرْضَ** اخْ۔

غرض یہ عذاب ان کے زمانے والوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ایک سبق ہے اور اسی لئے فرمایا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ یعنی یہ جو بعد میں آئیں گے ان پر ہیز گاروں کے لئے موجب نصیحت ہو۔ موجب نصیحت یہاں تک کہ امت محمد ﷺ کے لئے بھی کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب وہ زماں میں ان پر ان کے حیلوں کی وجہ سے ان کے کمر و فریب سے حرام کو حلال کر لینے کے باعث تازل ہوئیں، اس کے بعد بھی جو ایسا کرے گا ایسا ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب اس پر بھی آ جائیں۔

ایک صحیح حدیث امام ابو عبد اللہ بن بطّانے وارد کی ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبْتُ الیَهُوْدُ فَتَسْتَحْلُوا مَحَارَمَ اللَّهِ بِاَذْنِي الْحَيْلِ یعنی تم نہ کرو جو یہود یوں نے کیا یعنی حیلے خواں والوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو۔ یعنی شرعی احکام میں حیلے خواں سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب روایتیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

قاتل کون؟ ☆☆☆ (آیت: ۲۶) اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تو نگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بدھارم تباہی نہیں تو ورش کے لائچی میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں؟ اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کروں۔ قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقعہ پا کر اپنے چچا کو قتل کر دا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھٹکوں بکھیزوں سے نکل آ کر یکسوہو کران سے الگ ایک اور شہر میں رستے تھے۔ شام کا پانچ قلعہ کے پھانک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھانک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا پھر ہائے دہائی چوادی کے میرے چچا کو کسی نے مار دا۔ آخ کاران قلعہ والوں پر تہمت لگا کران سے دیت کاروپ پر طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا لیکن یہ اڑ گیا یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کران سے لڑائی کرنے پر ٹلی گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص خواہ خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بالله (مسائل شرعیہ کے موقعہ پر) مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ عز وجل کا حکم ہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا، وہ گائے کیسی ہونی چاہئے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جو ان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وحی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے۔ ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں چھتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت اسی گائیں بھی بہت سی ہیں۔ کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی مل میں نہیں جوتی گئی۔ کھیتوں کو پانی نہیں پلا یا، ہر عیوب سے پاک ہے۔ یک رنگی ہے۔ کوئی داغ دھنپیں، جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔

احترام والدین پر انعام الہی : ☆☆☆ اب اسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی بیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی۔ ایک سو دا ایک قیمتی ہیرا بچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا۔ میں خریدوں گا۔ قیمت ستر ہزار روپیہ ہوئی۔ لڑکے نے کہا۔ ذرا مخبر و جب میرے والد جائیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، بھی دے دو تو دس ہزار کم کر دیتا ہوں اس نے کہا

نہیں حضرت میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں۔ تم اگر تھہر جاؤ تو میں بجائے ستر ہزار کے اسی ہزار دوں گا۔ یونہی ادھر سے زیادتی ہوئی شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ تا جتنی ہزار قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو میں ہزار میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم تھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ۔ میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں ایگ لاکھ دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرو اپنے لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔

جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے لکھتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے، اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بد لے دو گائے لے لو۔ یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں۔ تین لے لو۔ چار لے لو میکن یہ راضی نہیں ہوتا، دس تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت مویؐ سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی جبکہ یہ بہت محجحت ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور شکنگی کے دن بس کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذمہ دینے کیا گیا۔ اور اس کے جسم کا ایک مکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ ہی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا میرے سمجھنے نے۔ اس لئے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ وجدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ قندوب گیا۔ اس سمجھنے کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بد لے میں قتل کر دلا گیا۔ یہ قسم مختلف الفاظ سے مردی ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کر میں نے عادت کے خلاف بطور مجرم کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا قندوب گیا۔

قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ لِنَّهَا  
بَقَرَةٌ لَاْ فَارِضٌ وَلَا يَكُنْ حُوتٌ عَوَانٌ حِجَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَاعْلُوْمَا  
نُؤْمَرُونَ ﴿١﴾ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنَهَا مَا قَالَ إِنَّهُ  
يَقُولُ لِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءٌ قَاقِعٌ لَوْنَهَا تَسْرُ النَّظَرِينَ ﴿٢﴾ قَالُواْ  
اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ لَاَنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا مَا  
وَإِنَّا لَأَنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَمْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

انہوں نے کہا ہے مویؐ دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے لئے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو ہو گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہے نہ پچھلے درمیانی عمر کی نوجوان ہے پس اب جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے جبالاً ۰۰ مہروہ کہنے لگے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرور رنگ ہے۔ چکلیا اور دیکھنے والوں کو بھلا لکھنے والا اس کا رنگ ہے ۰۰ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ساری

ہیں۔ پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے ۰

جمت بازی کا انجام: ☆☆ (آیت: ۲۸-۲۹) نبی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم اللہ، امر اللہ وضاحت کے ساتھ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتتے ہی اس پر عمل نہ کرڈا بلکہ شقین نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ این جریغہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حکم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو بھی ذبح کر دلتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے پر درپے سوالات شروع کئے اور کام میں سختی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آخر میں وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ملتی اور مطلوبہ گائے ملتا اور مشکل ہو جاتی۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھا ہے نہ بالکل کم عمر ہے۔ بلکہ دمیانی عمر کی ہے پھر دوسرا سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد اور چمکدار رنگ کی ہے جو دیکھنے والوں کے دل کو بہت پسند آئے۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ جوز رد جوتی پینے وہ ہر قیمت خوش و خرم رہے گا اور اس جملہ سے استدلال کیا ہے تَسْرُّ اللَّهُ نَظَرِيْنَ بعض نے کہا ہے کہ مرادِ ختنت سیاہ رنگ ہے لیکن اول قول ہی صحیح ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوفی اور چکلیے پن سے وہ مثل کا لے رنگ کے لگتا تھا۔ وہب بن معبدؓ کہتے ہیں اس کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعائیں اس سے اٹھ رہی ہیں تو راۃ میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے لیکن شاید عربی کرنے والوں کی غلطی ہے۔ واللہ اعلم۔

چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی پوچھئے تاکہ شہر مث جائے ان شاء اللہ اب ہمیں رستیل جائے گا اگر یہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر عائد نہ ہوتی بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے، کفایت ہو جاتی۔ میضون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے لیکن اس کی سند غریب ہے۔ صحیح بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا پناہ کلام ہے۔ واللہ اعلم۔

اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کئے گئے کہ وہ مل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چڑے پر کوئی داغ دھنپیں۔ یہ کوئی سارے بدن میں نہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور تو اانا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہاں کھبیت کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی مگر یہ قول غلط ہے اس لئے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ مل نہیں جوتی اور نہ پانی پلاتی ہے اس میں نہ کوئی داغ دھبہ ہے۔ اب اتنی بڑی کلد و کاوش کے بعد بادل خواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی لئے فرمایا کہ یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے ملاش کرتے تھے کسی نے کہا ہے اس لئے کہ انہیں اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ جانیں کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گہرا گئے تھے لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل تین دینا اس کی قیمت لگی تھی لیکن یہ تین دینا روایتی گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتیں نبی اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ حکم کی بجا آوری کا تھا ہی نہیں لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا۔ واللہ اعلم۔

اس آیت سے اس مسئلہ پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو دیکھے بغیر ادھار دینا جائز ہے اس لئے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا اور اوصاف پورے بیان کر دیئے گئے جیسے کہ حضرت امام مالکؓ امام اوزاعیؓ امام شافعیؓ امام احمدؓ اور جمہور علماء کانہ ہب ہے۔ اسلام اور متاخرین کا بھی اور اس کی دلیل صحیحین کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، قتل خطا اور وہ قتل جو مشابہ ”عم“ کے ہے ہاں امام ابو حنفیؓ اور دوسرے کوئی اور امام ثوریؓ وغیرہ بیع سلم کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال

پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کی حکایت ابن مسعودؓ خذیلہ بن یمانؓ اور عبد الرحمن بن سرہؓ وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔

**قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلْوَلٌ تَشِيرُ إِلَأَرْضَ وَلَا تَسْقِي  
الْحَرَثَ مُسْلَمَةً لَا شَيْةً فِيهَاٰ قَالُوا إِنَّهُ جِئْتَ بِالْحَقِّٖ  
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ لَهُ وَلَذِقْتَهُمْ تَفْسِاقًا ذَرَءَتْهُمْ  
فِيهَاٰ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ لَهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ  
بِبَعْضِهَاٰ كَذَلِكَ يُخْبِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ**

آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں بال جوتتے والی نبیں۔ وہ تدرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گودھ عکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذئع کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دا۔ پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا، اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا متول کے جسم پر لگا (دہ جی اٹھے گا) اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری ٹھنڈی کے لئے اپنی نشانیں دکھاتا ہے۔

بلوجہ تحسیں موجب عتاب ہے: ☆☆ (آیت: ۷۲-۷۳) صحیح بخاری شریف میں ”ادارء تم“ کے معنی ”تم نے اختلاف کیا“ کے ہیں۔<sup>①</sup> حضرت مجاہد وغیرہ سے بھی بھی روی ہے میتب بن رافع کہتے ہیں کہ جو شخص سات گروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سات گروں میں تحسیں کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔

پھر یہ آیت تلاوت کی وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یہاں وہی واقعہ پچا سنتیج کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں ذبیحہ گاؤ کا سکم ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کونسا تھا؟ اس کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں اور نہ اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے اور معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے، سلامت روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں، ہم بھی اس کی طلاق و تقیش میں نہ پڑیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ غضروف کی ہڈی زرم تھی، کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں بلکہ ان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے جسے اللہ نے نہ بھی رکھا ہے، ہم بھی نہیں رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لکھتے ہی وہ مردہ جی اخھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ اسی سورت میں پانچ جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو آیت ۷۴م بعثتکم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ<sup>②</sup> میں اور دوسرا اس قصے میں، تیرے ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں لٹکتے تھے اور ایک اجڑا بھتی پر ان کا گذر ہوا تھا، چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چار پرندوں کے مارڈا لئے کے بعد زندہ ہو جانے میں پانچ یہ زمین کی مردی کے بعد رو سیدگی کو موت و زینت سے تشبیہ دینے میں۔

ابوداؤ دطیاری کی ایک حدیث میں ہے، ابو زین عقیلؓ نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کس

طرح جلائے گا۔ فرمایا بھی تم بخوبی میں پر گذرے ہو؟ کہا۔ ہاں فرمایا پھر بھی اس کو سبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَآیةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمُيَتَّةُ اخْ لیعنی ان مکریں کے لئے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکلتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں اور جس میں ہم بھروسیں اور انگروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل جیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان چھلوں کو مزے سے کھائیں حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنا یا ہوا یا پیدا کیا ہو انہیں۔ کیا پھر بھی یہ شکر گذاری نہ کریں گے؟ کوئی زخمی شخص اگر کہے کہ فلاں شخص نے مجھے برائیختگی کے باعث قتل کیا ہے تو اس کا یہ قول ثبوت سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے پر اس آیت سے استدال کیا گیا ہے اور حضرت امام مالک کے نہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے اس لئے کہ مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخرالیں حالت میں انسان عموماً جسی بولتا ہے اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک اڑکی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پتہ بنی یهودی کو لگا تو آپ نے فرمایا اس اڑکی سے پوچھو کر اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور با صرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو حضور نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے اور امام مالک کے نزدیک جب یہ برائیختگی کے باعث ہو تو مقتول کے دارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور قاسمہ کے لیکن جمہور اس کے خلاف اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔

**ثُمَّ قَسَّتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ  
قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ  
مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ  
خَشِيَّةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝**

پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تہمہر بھئیں اور بعض پتھر جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ذرے گر گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو ۰

پتھر دل لوگ ☆☆ (آیت: ۲۷) اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبخ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست مجرمے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر بن گئے۔ اسی لئے ایمان والوں کو اس طرح کی سختی سے روکا گیا اور کہا گیا اللہ یا ان لیلذین امْنُوا ان تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَمْكُونُ أَكَالِذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَبَيِّرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُؤُنَّ یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں؟ اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل لمبا زمانہ گذرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ اس مقتول کے سبقتے نے اپنے چچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب مر گیا تو

کہا کہ اس نے جھوٹ کہا اور پھر کچھ وقت گذر جانے کے بعد نی اسرائیل کے دل پھر پھٹ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پھروں سے تو نہیں نکلی اور بینے لگتی ہیں بعض پھر پھٹ جاتے ہیں جا ہے وہ بینے کے قابل نہ ہوں۔ بعض پھر خوف الہی سے گر پڑتے ہیں لیکن ان کے دل کسی عذالت و صحت سے کسی پند و موعظت سے زم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پھروں میں ادراک اور سمجھ ہے۔ اور جگہ ہے تسبیح لہ السُّمُوْتُ السَّبِيْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَإِنْ شَاءَ إِلَّا يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ حلم و برداہی والا اور بخشش و غزوہ والا ہے۔ ابو علی جبائی نے پھر کے خوف سے گر پڑنے کی تاویل ادلوں کے برنسے سے کی ہے لیکن یہ تھیک نہیں رازی بھی غیر درست بتلاتے ہیں اور فی الواقع یہ تاویل صحیح نہیں کیونکہ اس میں لفظی معنی بے دلیل کو چھوڑنا لازم آیا ہے۔ واللہ اعلم۔ نہیں بہہ لکھنا زیادہ رونا ہے۔ پھٹ جانا اور پانی کا لکھنا اس سے کم رونا ہے۔ گر پڑنا دل سے ڈرنا۔ بعض کہتے ہیں یہ مجاز کہا گیا جیسے اور جگہ ہے یہ یہ یہ دیوار گر پڑنا چاہ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مجاز ہے۔ حقیقتاً دیوار کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔

رازی رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں، ایسی تاویلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو صفت جس چیز میں چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھنے اس کا فرمان ہے انا عَرَضْنَا إِلَّا مَائِنَةً إِنْ لَيْسَ هُنَّ نَّاسٌ نَّوْمٌ اور پھاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اور آیت گذر چکی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُنَ یعنی اکاس تمل اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور فرمایا یَنْفَيْهُ ظَلَلَةُ إِنْ اور فرمایا فالاتاً اتینا طَائِبِيْنَ زمین و آسمان نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں اور جگہ ہے کہ پھاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر کے مارے پھٹ جاتے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا إِلَّا حَلُوْدِهِمْ إِنْ لَيْسَهُمْ كَانَهَا گار لوگ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم سے اس اللہ نے بات کرائی جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ احمد پھاڑ کی نسبت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ پھاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر فیک لگا کہ حضور جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر پنا اور وہ تناہیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، مجرم اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوس دیا ہو گا، یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا اور اس طرح کی بہت سی آیات اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس ہے اور یہ تمام باقی حقیقت پر محول ہیں نہ کہ مجاز پر۔ آیت میں لفظ ”او“ جو ہے اس کی بابت قرطبی اور رازی تو کہتے ہیں کہ یہ تغیر کے لئے ہے یعنی ان کے دلوں کو خواہ جیسے پھر سمجھ لو یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ رازی نے ایک وجہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لئے ہے گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے دو چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پھر جیسے اور بعض اس سے زیادہ سخت ہیں۔ واللہ اعلم۔

اس لفظ کے جو معنی یہاں پر ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اس پر تو اجماع ہے کہ آدمیک کے لئے نہیں۔ یا تو یہ معنی میں واو کے ہے یعنی اس کے دل پھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَا تُطْعِنْهُمْ اِنَّمَا اُوْ كَفُورًا

میں اور عَذْرًا وَ نُذْرًا میں شاعروں کے اشعار میں اوداؤ کے معنی میں جمع کے لئے آیا ہے یا اوپرہاں پرمتی میں بل یعنی بلکہ کے ہے جبے کَحْشِيَّةُ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ حَشْيَّةً میں اور أَرْسَلَنَةُ إِلَى مِائَةِ الْفِيْ أَوْ يَزِيدُونَ میں اور فَكَانَ قَابَ قَوْسِيْنَ أَوْ أَذَنَی مِنْ لِعْنَ کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جیسے ہیں یا تھیں میں تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ۔ بعض کہتے ہیں صرف مخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے اور یہ شاعروں کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پختہ علم و یقین کے صرف مخاطب پر ابہام ڈالنے کے لئے آیا کلام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَعَلَى هُدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یعنی ہم یا تم صاف ہدایت یا کھلی گمراہی پر ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ہدایت پر ہوتا اور کفار کا گمراہی پر ہوتا یعنی چیز ہے لیکن مخاطب کے ابہام کے لئے اس کے سامنے کلام نہ کہم بولا گیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل ان دو سے خارج نہیں یا تودہ پھر جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت یعنی بعض ایسے اس قول کے مطابق یہ بھی ہے کمثل النذی استوقد نارا پھر فرمایا او کصیب او فرمایا ہے کسراب پھر فرمایا او کظملمات مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمَ۔ تفہیم ابن مردویہ میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باقی نہ کیا کرو کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور اس کے ایک طریقہ کو غریب کہا ہے۔ بزار میں حضرت انسؓ سے مرفوع اور احادیث میں ہے کہ چار چیزیں بدختی اور شفاقت کی ہیں۔ خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لاچی بن جانا۔

**أَفَتَطْمَعُونَ أَتْ يَوْمَ نَمُوَالُكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ  
يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ هُنَّهُ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا قَالُوا أَمْنَا هُنَّ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ  
إِلَى بَعْضٍ قَالُوا تَحْدِ ثُوَنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ  
إِلَيْهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هُنَّ أَوْلَى يَعْلَمُونَ أَتَ اللَّهُ  
يَعْلَمُ مَا يُسْرُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝**

(مسلمان!) کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کوں کر عقل و علم ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے تھے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باقی ہے تو یہ تھیں کھاتی ہیں۔ کیا جانتے نہیں کہ یہ اللہ کے پاس تم پران کی جنت ہو جائے گی ॥ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے ॥

یہودی کردار کا تجزیہ: ☆☆ (آیت: ۷۵-۷۶-۷۷) اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور آپ کے صحابہ گونا امید کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے دل سخت پھر جیسے بنا لئے اللہ کے کلام کوں کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر دی تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ تھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا قَبِيمَا نَقْضُهِمْ مَيْتَاقُهُمْ اُخْ یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیتے یہ اللہ کے کلام کو رو بدل کر ڈالا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا۔ اس سے مراد حضرت موسیؓ کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے

سخن کی درخواست کی تھی اور جب وہ پاک صاف ہو کہ روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پر ہاڑ پہنچ کر سجدے میں گرفتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ دامہں آئے اور نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سدیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تواناۃ میں تحریف کی تھی۔ یہی عام معنی تھیک ہیں جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فَاجْرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ يَعْلَمُ مشرکوں میں سے کوئی اگر تھے سے پناہ طلب کرے تو توانے سے پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ نے لے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے نہ ہے بلکہ قرآن نے تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تواناۃ ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھانے والے ان کے علماء تھے۔ آنحضرتؐ کے جو اوصاف ان کی کتاب میں تھے ان سب میں انہوں نے تاویلیں کر کے اصل مطلب دور کر دیا تھا، اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق لکھ دیا کرتے تھے۔ رشوتیں لیتی اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی ہاں بھی بھی جبکہ رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا، مریدوں سے بھی الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے کہ تمہارے نبی پچے ہیں۔ یہ حق رسول ہیں لیکن پھر آپس میں بینچہ کر کہتے، عربوں سے یہ باتیں کیوں کہتے ہو۔ پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے۔ اللہ کے ہاں بھی جسمیں لا جواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہوقوفوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مدینہ میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے تو ان کا فروں اور یہودیوں نے کہا، جاؤ کہہ دو ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور یہاں آؤ تو پھر ویسے ہی رہو۔ جیسے تھے۔ پس یہ لوگ صحیح آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور شام کو جا کر کفار میں شامل ہو جاتے تھے۔ قرآن میں ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِمْنَوْا بِاللَّذِي يُعِينُ الْأَهْلَ كتاب کی ایک جماعت نے کہا، ایمان والوں پر جواتا ہے اس پردن کے شروع حصہ میں ایمان لاو پھر آخر میں کفر کروتا کہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گراہ کرنا چاہتے تھے مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ نے کھوں دیا۔ جب یہ یہاں ہوتے اور اپنا ایمان اسلام ظاہر کرتے تو صحابہ ان سے پوچھتے، کیا تمہاری کتاب میں حضور کی بشارت وغیرہ نہیں؟ وہ اقرار کرتے۔ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانتھے اور کہتے، اپنی باتیں ان سے کہہ کر کیوں ان کی اپنی خالق کے ہاتھوں میں تھیار دے رہے ہو؟ مجہدؓ نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعہ تلے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بندرا! اور خزیر! اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیو! تو وہ آپس میں کہنے لگے، یہاں کے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دیں، خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ دوڑتے انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میرا آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گوتم چھپا لیکن، مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یہ جو پہلے چکپے اپنے والوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ اور اپنی کتاب کی بالوں کو چھپاتے ہو تو میں تمہارے اس برے کام سے بخوبی آ گاہ ہوں اور تم جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو۔ تمہارے اس اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح ہے۔

وَمِنْهُمْ أَمِيَّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانَتْ وَإِنْ  
هُمْ إِلَّا يَضْلُّونَ ۝ قَوَىٰ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ  
إِلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشَرُّوْا بِهِ ثَمَّا

# قَلِيلٌ فَوْيَلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ آيَدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

ان میں سے بعض ان پڑھا ہے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف مگان اور انکل ہی پر ہیں ۶۰ ان لوگوں کے لئے دلیل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو دلیل اور افسوس ہے ۶۰

ای کا مفہوم اور دلیل کے معنی: ☆☆ (آیت: ۷۸-۷۹) ای کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو امیون اس کی جمع ہے۔ آنحضرت ﷺ کی صفت میں ایک صفت ”ای“ بھی آئی ہے اس لئے کہ آپ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتَلَوَّ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُلُهُ يَعْمِلُنَّ إِذَا لَأْرَاتَ الْمُبْطَلُونَ یعنی تو اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتا تھا اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کے شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں، ہم ای اور ان پڑھ لوگ ہیں نہ لکھنا جائیں نہ حساب، مہینہ، بھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا، پہلی بار تو آپ نے دونوں ہاتھوں کی کل انگلیاں تین بار نیچے کی طرف جھکائیں یعنی تیس دن کا دوبار اور تیسرا مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقوہ بنالیسی انتیں دن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں بے پڑھ آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر ای انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی نہ کسی کتاب کو مانا تھا اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اور وہیں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف ہے۔ دوسرے اس قول کی سند تھیک نہیں۔ امانی کے معنی پاتیں اور اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے ”کذب“، ”آرزو“، ”جمحوت“ کے معنی بھی کئے گئے ہیں۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مردی ہیں جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے إِلَّا إِذَا تَمَنَّى یہاں تلاوت کے معنی صاف ہیں۔ شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے اور وہ صرف مگان ہی پر ہیں یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور اس پر حق کا مگان کرتے ہیں اور اوٹ پناغ باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا یہاں ہورتا ہے جو پڑھے کہ لوگ تھے اور گمراہی کی طرف دوسروں کو بلاتے تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور سریدوں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔

وہیں کے معنی ہلاکت اور بر بادی کے ہیں اور جہنم کے گڑھ کا نام بھی ہے جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑا لے جائیں تو دھوکا ہو جائیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم کی ایک دادی کا نام دلیل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے۔ چالیس سال کے بعد تملے میں پہنچیں گے اتنی گہرائی ہے لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب بھی ہے مگر بھی ہے اور ضعیف بھی ہے اور ایک غریب حدیث میں ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام دلیل ہے یہودیوں نے تو رواۃ کی تحریف کر دی۔ اس میں کسی یا زیادتی کی آنحضرت ﷺ کا نام نکال ڈالا اس لئے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور تو رواۃ اٹھائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے اور ان کی کمائی بر باد اور ہلاک ہو۔ دلیل کے معنی سخت عذاب، بر بادی، ہلاکی، افسوس، درد، دھڑکن، رنج، دمaal وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ دلیل، ویش ویش، ویک ویک ویب سب ایک ہی معنی میں ہیں۔ گوبلس نے ان الفاظ کے جدا جادا معنی بھی کئے ہیں لفظ دلیل نکرہ ہے اور نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا لیکن چونکہ یہ معنی میں بد دعا کے ہے اس لئے اسے مبتدا بنا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز سمجھا ہے لیکن دیلاکی قرات نہیں۔ یہاں یہودیوں کے علماء کی بھی نہ مت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے والوں کو خوش کر

کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو؟ اللہ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ عزوجل کی طرف منسوب کر دیا۔ اس کی تشریکی۔ پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے مدیافت کرتے پھر دھوڑے مول سے مراد ساری دنیا میں جائے تو بھی آخرت کے مقابلہ میں کمتر ہے۔ اور جنت کے مقابلہ میں بے حد خیر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ درب العزت کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں بلاکت اور بر بادی ہے۔

**وَقَالُوا لَكُمْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتٍ أَمَّا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَتَخَذُنَّهُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَمَّا يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْرٌ تَقُولُونَ  
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کوئی کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا (هرگز نہیں) بلکہ تم تو یہ علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ باشیں کہ میریا کرتے ہو

چالیس دن کا جہنم: ☆☆ (آیت: ۸۰) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت سات ہزار سال ہے۔ ہر ہزار سال کے بد لے ایک دن میں عذاب ہو گا تو صرف سات دن میں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ چالیس دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے بڑوں نے چالیس دن تک پھرے کی پوچھرے کی پوچھرے کی تھی بعض کا قول ہے کہ یہ دو کافی اس سے کافی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک چالیس سال کا راستہ ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور کے سامنے آ کر کہا کہ چالیس دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے۔ پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آجائیں گے لیکن آپؐ کی امت۔ آپؐ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ہیں بلکہ تم یعنی تم بیشہ بیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، فتح تیبریز کے بعد حضورؐ کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلو گوشت آیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ یہاں کے یہودیوں کو جمع کرلو۔ پھر ان سے پوچھا تھا رابا پ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپؐ نے فرمایا جھوٹ نہ ہو بلکہ تمہارا بابا فلاں ہے۔ انہوں نے کہا جبار شاد ہوا۔ وہی ہمارا بابا ہے آپؐ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں کیجیے بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم ﷺ اگر جھوٹ کہیں گے تو آپؐ کے سامنے نہ پڑلے گے۔ ہم تو آزمائیں۔ آپؐ نے فرمایا بتاؤ جیجنی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا پچھو دن تو ہم ہیں پھر آپؐ کی امت۔ آپؐ نے فرمایا، غلو ہرگز نہیں پھر فرمایا اچھا بتاؤ اس گوشت میں تم نے ذہر طلبایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اگر آپؐ سچے ہیں تو یہ زہر آپؐ کو ہرگز ضرر نہ دے گا اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپؐ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ (مسند احمد بخاری، نسائی)

**بَلِّي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ حَطِيعَةٌ فَأَوْلَيَ  
أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا**

## الصِّلْحَتُ اُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٤﴾

یقیناً جو بھی برے کام اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے اور جو لوگ ایمان لائیں اور یہ کام کریں وہ بھتی ہیں جو جنت میں ہمیشور ہیں گے ۰

جہنمی کون؟ ☆☆☆ (آیت: ۸۲-۸۱) مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد ہیں جو نیکیوں سے خالی ہے وہ جہنمی ہے اور جو شخص اللہ، رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ بھتی ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا تھا یا مانی تکم اُنْ يَعْنِي شَهْرَ تَهْمَارَ مَنْصُوبَةً جَلَّ سَكِينَ گے اور نہ اہل کتاب کے ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر بھلائی کرنے والا ثواب پائے گا۔ اپنی نیکیوں کا اجر پائے گا مگر برے کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ کسی مرد کا عورت کا اور بھلے آدمی کا کوئی عمل برباد نہ ہو گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے۔ ابووالیل "ابو العالیہ" مجاہد، عکرمه "حسن" قادہ ریبع بن انس وغیرہ سے یہی مردوں سے سعدی کہتے ہیں مراد کبیرہ گناہ ہیں جو تہہ بہ تہہ ہو کر دل کو گندہ کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ فرماتے ہیں مراد شرک ہے جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے۔ ریبع بن خشم کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور تو بہ نصیب نہ ہو۔ مند احمد میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں گناہوں کو تحریر نہ سمجھا کر رؤہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے۔ پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ پھر ایمانداروں کا حال یہاں فرمایا کہ جو تم ایسے عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلہ میں ان کا ایمان پختہ ہے۔ تمہاری بد اعمالیوں کے مقابلہ میں ان کے پاکیزہ اعمال مشکم ہیں انہیں ابدی راحیں اور ہمیشہ کی مسکن جنتیں ملیں گی۔ اور اللہ کے عذاب و ثواب دونوں لازواں ہیں۔

## وَإِذْ أَخَذْنَا مِيَثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الرِّزْكَوَةَ ثُمَّ تَوَكَّلُوْنَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤﴾

اور جب ہم نے نبی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سواد و سرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھال سلوک کرنا اسی طرح قربت داروں یقینوں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا۔ نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰت دیتے رہا کرنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ فہم سب پھر گئے اور منہ موزیلیا ۰

معبدوں ان باطل سے بچو: ☆☆☆ (آیت: ۸۳) نبی اسرائیل کو جو حکم احکام دیئے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا، ان کا بیان ہو رہا ہے اور ان کی عہد بھکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ تو حید کو تسلیم کریں۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں یہ حکم صرف بنو اسرائیل کو ہی نہیں بلکہ تمام خلق کو دیا گیا ہے فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ یعنی تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قبل عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں۔ سب لوگ یہی عبادت کریں اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ یعنی ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سواد و سرے معبدوں ان باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اس کے تمام حقوق میں براحت ہی ہے کہ

اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے۔ بندوں کے حقوق میں مان باب کا حق سب سے بڑا ہے۔ اسی لئے پہلے ان کا حق بیان کیا گیا ہے ارشاد ہے آن اشکر لی وَلَوْ الْدِيْنُ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان۔ اور جگہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ لِنَّ تَيْرَهُ رب کافیصلہ ہے کہ اس کے سوادسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہو۔ حیثیں میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کو نا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، پوچھا اس کے بعد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا۔ پوچھا پھر کونسا؟ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کسی نے پوچھا حضور میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرو؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ پوچھا پھر کس کے ساتھ فرمایا؟ اپنی ماں کے ساتھ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور قریب والے کے ساتھ پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ آیت میں لا تَعْبُدُوْنَ فرمایا اس لئے کہ اس میں نہ نسبت لا تَعْبُدُوْنَ کے مبالغہ زیادہ ہے۔ ”طلب“ یہ خبر منی میں ہے۔ بعض لوگوں نے آن لا تَعْبُدُوْنَ بھی پڑھا ہے۔ ابی اور ابن مسعود سے یہ بھی مردی ہے کہ وہ لا تَعْبُدُوْنَ پڑھتے تھے۔ یقین ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سر پرست باپ نہ ہو مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پروش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کی مزید تشریح ان شاء اللہ العظیم سورہ نساء کی اس معنی کی آیات میں آئے گی۔ پھر فرمایا لوگوں کو کچھی باتیں کہا کر یعنی ان کے ساتھ زم کلائی اور کشاوہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ جملی باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکا کرو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو۔ برائی سے روکو۔ برداری اور گزراور خطاؤں کی معافی کو پاناشیوہ بنالو۔ یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ابھی چیز کو تقریر نہ بھوکھو اگر اور پکھنہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہستے ہوئے چہرے سے ملاقات تو کر لیا کرو (منداہم)۔ پس قرآن کریم نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ پھر ابھی باتیں کہنے کا۔ پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا۔ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد فتنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے مگر تھوڑے سے پابند عہدرہ ہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ فرمایا وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْئًا بِاللَّوْلَدِيْنِ احْسَانًا اللَّهُكِ عِبَادَتُ كرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شتریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ قرابت دار پڑھیوں کے ساتھ قرابت دار پڑھیوں کے ساتھ ابھی پڑھیوں کے ساتھ، ہم مشرب ملک کے ساتھ مسافروں کے ساتھ لونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکوب تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الحمد للہ کہ یہ امت نہ نسبت اور امتوں کے ان فرمانوں کے مانے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اسد بن دادع سے سروی ہے کہ وہ یہود یوں اور نصرانیوں کو سلام کیا کرتے تھے اور یہ دلیل دیتے تھے کہ فرمان باری ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لیکن یہ اثر غریب ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہود نصاری کو ابتداء اسلام علیک نہ کیا کرو۔ واللہ اعلم۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْشَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ أَنْفُسَكُمْ  
 مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشَهَّدُوْنَ هَذِهِ ثُمَّ  
 أَنْتُمْ هُوَلَاءِ تَقْتَلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ  
 دِيَارِهِمْ تَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْأِشْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ  
 أَسْرَى تُقْدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ لَا خَرَاجُهُمْ أَقْتُلُوْمُنُوْنَ

**بِعْضُ الْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ  
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَرْجٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ  
إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﷺ وَلِلّٰهِ  
الَّذِينَ اسْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﷺ**

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپ میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو بلاطن نہ کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے ۔ لیکن ہم بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلاوطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں قیدی بن کرتہ ہمارے پاس آئے تو تم نے ان کے فریئے دیئے لیکن ان کا کالا جو تم پر حرام تھا (اس کا کچھ خیال نہ کیا) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کر دنیا میں رسولی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار اللہ تعالیٰ تھمارے اعمال سے بخوبیں ۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بد لے مولیا ہے۔ ان سے نہ تو عذاب بلکہ ہوں گے اور نہ ان کی مردگی کی مدد کی جائے گی

اوہ و خروج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد: ☆☆ (آیت: ۸۲-۸۳: ۸۲-۸۳) اوس اور خزرجن انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی بھتی نہ تھی۔ آپس میں ہمیشہ جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے۔ بنی قبیقاع، بنی قبیطہ، بنی قریظہ اور بنو قریظہ۔ بنو قبیقاع اور بنی قبیطہ تو خزرجن کے طرف دار اور ان کے بھائی بندے ہوئے تھے۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس و خزرجن میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کے ہاتھ مارے کبھی جاتے اور موتحہ پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجازہ دلتے، دلیں نکالا بھی دے دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب بڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیدی دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیدی دے کر چھڑاں ایں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو گھروں سے نہ کالو۔ اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بھاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ کالو۔ یہ اس لئے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کے مانند ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایمانداروں تی اخوت صدر حجی اور حرم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لئے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ المحن اچاٹے۔

عبد خیر کہتے ہیں، ہم مسلمان بن ربیعہ کی ماتحتی میں "نکھر" میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہود لوٹی کو سات سو میں خریدا۔ راس الجالوت

کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبد اللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا یہ لوٹدی تیری ہم نہ ہب ہے۔ میں نے اسے سات سو میل خریدا ہے۔ اب تم اسے مجھ سے خرید لواز آزاد کرو۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ میں چودہ سو دینا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو چار ہزار سے کم نہیں بیکوں گا۔ اس نے کہا، پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا، سن یا تو تو اسے خرید ورنہ تیرادیں جاتا رہے گا۔ تو راۃ میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فریدے دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو راۃ کو مان کر اسے خریدا تو راۃ کا مکفر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبد اللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں چنانچہ چار ہزار لے آیا، آپ نے دو ہزار لے لئے اور دو ہزار لوٹا دیے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا۔ یہ ان لوٹیوں کا فدیہ نہیں دینا تھا جو عرب سے نہ پچی ہوں۔ اس پر حضرت عبد اللہ نے اسے تو راۃ کی یہ آیت سنائی۔ غرض آیت میں یہودیوں کی نعمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امامتداری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی ﷺ کی صفتیں، آپ ﷺ کی نشانیاں، آپ ﷺ کی نبوت کی تصدیق، آپ ﷺ کی جائے پیدائش جائے ہجرت وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضورؐ کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دینوںی روائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور دینی آخرين کا عذاب بھی۔

**وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَنِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ إِنَّمَا كَيْلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِنَّمَا كَيْلَمَا بَرَثْتُمْ فَقَرِيقًا كَذَبَتُمْ وَقَرِيقًا تَقْتَلُوْنَ**

ہم نے (حضرت) موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچے اور رسولؐ بھی بیسیے اور ہم نے (حضرت) عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور رووح القدس سے اس کی تائید کرائیں یکن جب کمی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا۔ بعض کوتو جملادا یا اور بعض کو قتل بھی کرو ۱۰

خود پرست اسرائیلی: ☆☆ (آیت: ۸۷) بنی اسرائیل کے عناوں تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تو راۃ میں تحریف و تبدل کیا حضرت موسیٰ کے بعد انہی کی شریعت اور آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی چنانچہ فرمایا اینا اَنْزَلْنَا التُّوْرَاةَ اَنْ لَيَقُولَنَا مَنْ نَزَّلَهُ ہم نے تو راۃ تازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور رویش ان پر عمل کرنے کا حکم کرتے تھے۔ غرض پر درپے کیے بعد دیگرے انبیاء کرام نبی اسرائیل میں آتے رہے بیہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں ابھی ملی جس میں بعض احکام تو راۃ کے خلاف بھی تھے۔ اسی لئے انہیں نئے نئے مجرمات بھی مل جیسے مردوں کو بھکم رب العزت زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر بھکم رب العزت اڑا دینا، بیاروں کو اپنے دم جھاڑے سے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض بعض غیب کی خبریں رب العزت کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ آپ کی تائید پر رووح القدس یعنی حضرت جبریل کو لگا دیا لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں اور بڑھ کئے اور زیادہ حسد کرنے لگے اور ان تمام انبیاء کرام میں مسلمان کے ساتھ بربے سلوک سے پیش آئے۔ کہیں جھلاتے اور کہیں مارڈا لئے تھے محض اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و

اکھام ان کی قبولیت سے مکراتے تھے۔ اس لئے دشمنی پر قتل جاتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ محمد بن کعب، اسماعیل بن خالدؓ سدیؓ ریچ بن انسؓ عطیہؓ عوفیؓ اور قادہؓ غیرہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہیں جیسے قرآن شریف میں اور جگہ ہے نَزَّلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينُ یعنی اسے لے کر روح امین اترے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسانؓ شاعر کے لئے مسجد میں منبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی بھوکا جواب دیتے تھے اور آپؐ ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عزوجل حسان کی مدروج القدس سے فرمائیں کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔

صحیحین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد بنوی میں کچھ اشعار پڑھا رہے تھے حضرت عمرؓ نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپؐ نے فرمایا میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں تم سے بہتر شخص موجود تھے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے نہیں سن؟ کہ اے حسانؓ تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دئے اے اللہ تو حسان کی تائید روح القدس سے کہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، اہل اللہ کی قسم میں نے حضورؐ سے یہ سنائے۔

بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، حسان تم ان مشرکین کی بھوکرو۔ جبریل بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت حسان کے شعر میں بھی جبریل کو روح القدس کہا گیا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے روح کی بابت پوچھا تو آپؐ نے فرمایا تمہیں اللہ کی قسم کی نعمتوں کو یاد کر کے کہو۔ کیا خود تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جبریل ہیں اور وہی میرے پاس بھی وحی لاتے ہیں۔ ان سب نے کہا پیشک (ابن احراق) اہن جہان میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کے بغیر نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔

بعض نے روح القدس سے مراد اسمِ عظیم لیا ہے۔ بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے۔ بعض کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبریل ہے، کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت، کسی نے کہا ہے پاک، کسی نے کہا ہے روح سے مراد انجیل ہے جیسے فرمایا وَ كَذَلِكَ أَوْ حَيَّنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا یعنی اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن حجر پر حمد اللہ علیہ کافیصلہ تھی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جیسے اور جگہ ہے اِذَا آتَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ اخْرَجْتُ مِنْ رُوحِ الْقُدْسِ کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت، تواریخ و انجیل کے سکھانے کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اور جیز ہے اور وہ اور چیز، علاوه ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

قدس سے مراد مقدس ہے جیسے حاتم حُوذُ اور رَحْلُ صَدْقٍ میں روح القدس کہنے میں اور روح منه کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ روح مردوں کی پیشوں اور حیض والے رحموں سے بے تعلق رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح لی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک فرقہ کو تم نے جھٹالا یا اور ایک فرقہ کو تم قتل کرتے ہو، جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا اس لئے کہ ان کا حال آبیت کے نزول کے وقت بھی یہی رہا چنانچہ حضور ﷺ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آسودہ قسم کا اثر بر ابر مجھ پر رہا جو میں نے خیر میں کھایا تھا اس وقت اس نے رک رک کر جان کاٹ دی۔

**وَقَالُوا قُلُّوْبُنَا غُلْفٌ حَوْلَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ يُكَفِّرُهُمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ** ﴿۵﴾  
**وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا**  
**مِّنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا هُنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا**  
**عَرَفُوا أَكَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ** ﴿۶﴾

اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے ۰ ان کے پاس جب اللہ کی کتاب کو پڑا کرنے والی آئی جس کے پہلے یہ خداوس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آجانے اور باوجود پیچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہوان کافروں پر ۰

غلف کے معنی: ☆☆ (آیت: ۸۸) یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں یعنی یہ علم سے بھر پور ہیں۔ اب ہمیں نے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لئے جواب ملا کہ غلاف نہیں بلکہ لعنت الہی کی مہر لگ گئی ہے ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ غلف کو غلف بھی پڑھا گیا ہے یعنی یہ علم کے برتن ہیں۔ اور جملہ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا قُلُّوْبُنَا فِي أَكِنَّةٍ إِنْ يُعْلَمُ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس چیز سے ہمارے دل پر دے اور آڑ میں اور ہمارے دلوں کے درمیان پر دہ ہے، آڑ ہے ان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ اسے نہیں سمجھتے، اسی بنا پر وہ نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ کفار کے دل ہوتے ہیں سورہ نساء میں بھی ایک آیت اسی معنی کی ہے وَقُولُّهُمْ قُلُّوْبُنَا غُلْفٌ تَحْوِلُّ ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے یعنی قیامت ثواب عذاب وغیرہ کے قائل حضرت مولیٰ پر ایمان رکھنے والے تورۃ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں مگر اس پیغمبر آخرا زمان کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے بلکہ آپ کے ساتھ کفر کر کے اس تحوڑے ایمان کو بھی غارت اور بر باد کر دیتے ہیں۔ تیرے معنی یہ ہیں کہ یہ سرے سے بے ایمان ہیں کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں مثلاً میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔

انکار کا سبب: ☆☆ (آیت: ۸۹) جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عقربیب اللہ کی بھی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ لکر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مت جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کیا کرتے تھے کہ اللہ یا تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم توراة میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ لکر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آگیا ہے لیکن جس وقت حضور مسیح ہوئے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پیچان بھی لیا، دل سے قائل بھی ہو گئے مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حمد کیا اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لعنت یافتہ ہو گئے بلکہ وہ مشرکین مدینہ جوان سے یہ سننے چلے آتے تھے انہیں ایمان نصیب ہوا اور بالآخر حضور کے ساتھ لکر کروہ یہود پر غالب آگئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضرت بشر بن براءؓ حضرت داؤد بن سلمہؓ نے ان یہود میں سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے حضورؐ کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے مگر اب جب کہ وہ اوصاف جو تم حضرت کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں۔ پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن معمک نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارہ میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر کہ اس آیت میں ہے کہ پہلے توانے

تھے۔ منتظر بھی تھے لیکن آپ ﷺ کے آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے ڈر سے صاف انکار کر بیٹھے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**إِنَّمَا أَشْتَرَوُ إِيمَانَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنَّ**  
**يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأْرُو بِغَضَبٍ**  
**عَلَى غَضَبٍ وَلِلَّهِ كُفَّارِينَ عَذَابُ الْمُهَمَّاتِ**

بہت روئی ہے وہ چیز جس کے بد لے انہوں نے اپنے تین بیویوں کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محن اس بات سے مل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غصب پر غصب کے سخت ہو گئے اور ان کا فروں کے لئے رسوائی و اعلیٰ عذاب ہیں ۰

براہو حسد کا: ☆☆☆ (آیت: ۹۰) مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضورؐ کی قدر یقین کے بد لے لکھنی بکی اور آپ پر ایمان لانے کے بد لے کفر کیا۔ آپ کی نصرت و امداد کے بد لے مخالفت اور دشمنی کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غصب الہی کا سزاوار ہنا یا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بد لے انہوں نے لی اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں چونکہ حضورؐ ان کے قبیلہ میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے۔ اس لئے یہ منہ موز کر بیٹھ گئے حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں۔ وہ رسالت کے حق دار کو خوب جانتا ہے۔ وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ پس ایک تو توراة کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غصب نازل ہوا۔ دوسرا حضورؐ کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا۔ یا یوں سمجھ لجئی کہ پہلا غصب حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے اور دوسرا غصب حضرت محمدؐ کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب نہ سدیٰ کا خیال ہے کہ پہلا غصب پھرے کے پوتے کی بابت تھا دوسرا غصب حضورؐ کی مخالفت کی بنا پر۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے حضورؐ کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا اس لئے انہیں ذلیل عذابوں میں بھلا کر دیا گیا تاکہ گناہ کا پورا بدلہ ہو جائے جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الٰذین یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدِ الْحُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ مِيرِی عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں تکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیزوں کی طرح ہو گا جنہیں تمام چیزیں روندی ہوئی چلیں گی اور جہنم کے ”بولس“ نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے نیز ہو گی اور جنہیں کا اہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔

**وَلَذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ**  
**عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ**  
**قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**  
**وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُؤْسِى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ**  
**وَأَنْتُمْ ظَلَمُونَ**

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاو تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو

ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دیافت کرو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو تم نے اگلے انہیاں کو کیوں قتل کیا؟  
تمہارے پاس تو موسیٰ بنی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی پھر اپوجاتم ہو ہی خالم ۰

خود پسند یہودی مور و عتاب: ☆☆ (آیت: ۹۱-۹۲) یعنی جب ان سے قرآن پر اور نبی آخرا زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو راہ انجلیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جو ٹوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضورؐ کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا اللذین اتَّيْنَہُمُ الْكِتَابَ يَعْرُفُونَهُ كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَنَّهُمْ یعنی اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں پس آپ کے انکار کا مطلب تو راہ انجلیل سے بھی انکار کے مترادف ہے۔ اس محنت کو قائم کر کے اب دوسری طرح محنت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تو راہ اور انجلیل پر اگر تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انہیاں جوانی کی تصدیق اور بتا بعد اداری کرتے ہوئے بغیر کسی نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر۔ تم مغض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے غلام ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے بڑے بڑے مجرمے دیکھے، طوفان، مٹیاں، جو کیں، مینڈک، خون وغیرہ جو ان کی بد دعا سے بطور مجرمے ظاہر ہوئے۔ لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوی اتنا رنا، پتھر سے نہیں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے مجرمات جوان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور تم نے پتھرے کو اللہ بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تو راہ پر اور خود حضرت موسیٰ پر بھی تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا یہ بد کاریاں تمہیں ظالم کہلانے والی نہیں؟ میں بعده سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے وَاتَّحَدَ قَوْمٌ مُّؤْسِنِي اُخْرَى یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے پتھرے کو معبد بنالیا اور اپنی جانوں پر اس گنو سالہ پرستی سے واضح فلم کیا جس کا احساس بعد میں خدا نہیں بھی ہوا جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ یعنی جب انہیں ہوش آیا نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محصور کرنے لگے۔ اس وقت کہا اے اللہ یا اگر تو ہم پر حرم نہ کرے اور ہماری خطانہ بخشنے تو ہم زیاد کارہو جائیں گے۔

**وَإِذَا أَخَذْنَا مِيَثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ طَبْدُوا مَا أَتَيْنَكُمْ  
بِفُوقَهُ وَأَسْمَعُوا فَتَالُوا سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ  
الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِتَسْمَائِيَّا مُرْكَمْ بِهِ إِيمَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِينَ ۖ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ  
خَالِصَةٌ مِّنْ دُولِ النَّاسِ فَتَمَتَّمُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۖ  
وَلَنْ يَتَمَتَّهُ أَبَدًا إِمَّا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۖ**

جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط قاماً اور سنتو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نا فرمائی کی اور ان کے دلوں

میں ان کے فری کی جو سے پھرے کی محبت (کویا) پلا دی گئی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان جسمیں بر احکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو ॥ کہہ دو کہ اگر آخوند کا مکر صرف تمہارے ہی لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں تو آپنی چائی کے ٹوٹ میں موت طلب کرو ॥ لیکن اپنے کرو توں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانسیں گے۔ اللہ تعالیٰ خالموں کو خوب جانتا ہے ॥

صدائے بازگشت : ☆☆ (آیت: ۹۳) اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اسرائیل کی خطائیں مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرنما رہا ہے کہ طور پر یاڑ جب سردوں پر دیکھا تو اقرار کر لیا۔ جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ پھرے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے۔<sup>۱</sup> حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پھرے کے گلڈے گلڈے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا جس پانی کو نبی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا، گوپھر انیست و نایود کر دیا گیا لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبدو باطل سے لگا رہا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عبد ہلکیاں، کئی بار کے کفر بھول گئے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے تم نے کفر کیا۔ ان کے بعد کے مشیوروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی بیہاں تک کافل الانیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی نبوت کو بھی نہ مانا جو سب سے بڑا کفر ہے۔

مباهله اور یہودی مع نصاری: ☆☆ (آیت: ۹۴) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی ﷺ کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم پچھے ہو تو مقابلہ میں آؤ۔ ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے۔ لیکن ساتھ ہی، پیشین گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ بھی ہوا کہ یہ لوگ مقابلہ پر نہ آئے اس لئے کہ وہ دل سے حضور گو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلہ میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ روئے زمین پر ایک یہودی باقی شہرتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ پر آتے اور جھوٹے کے لئے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھے لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباهله کے لئے تیار ہوتے تو وہ لوث کرائے الہ و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے (مسند احمد)

سورہ جمعد میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے آیت فُلْ تَأْيِهَا الَّذِينَ هَادُوا آخِرَتْكُمْ پڑھئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نَحْنُ أَنْبَوْهُ اللَّهُ وَأَجْبَاؤهُ ہم تو اللہ کی اولاد اور اس کے پیارے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ دَاوْنَ نَصْرَى جنت میں صرف یہودی اور نصاریٰ ہی جائیں گے اس لئے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر لیں کوئی اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا۔ اس لئے تیار رہوئی اور اس کا کذب سب پر کھل گیا۔ اسی طرح جب نجران کے نصرانی حضور کے پاس آئے۔ بخش مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی بھی کہا گیا کہ تَعَالَوْ أَنْدُعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ أُنْكُمْ آؤ ہم تم دونوں اپنی اولادوں یو یوں کو لے کر لکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی سے مباهله نہ کرو۔ فوراً برا باد ہو جاؤ گے چنانچہ مباهله سے بکار دیا۔ جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ میں بنا کر بحیثیت دیا۔

اسی طرح مشرکین عرب سے بھی کہا گیا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْضَّلَالِ فَلَيَمْدُدْلَهُ الرَّحْمَنُ مَدًا یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھادے اس کی پوری تفسیر اس آیت کے ساتھ بیان ہو گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ایک مر جو

قول یہ بھی ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لئے موت طلب کرو کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلایاں صرف تمہارے لئے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا۔ اس لئے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں بلکہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہ سکتے تھے قباتِ فیصلہ کن نہ ہوتی۔ ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوتی کہ دونوں فریق مل کر جمہوئی کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں اور اس اعلان کے سنتے ہی یہود تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا اور وہ پیشیں گوئی بھی سچی ثابت ہوتی کہ یہ لوگ ہرگز موت طلب نہیں کریں گے۔ اس مبلہ کا نام اصطلاح میں تنی رکھا گیا کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔

**وَلَتَجِدُهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا إِلَهًا  
يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمَرُ أَلْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ بِمُنْزَخِرٍ حِلٌّ مِنَ الْعَذَابِ  
أَنْ يَعْمَرَ وَاللَّهُ بِصَيْرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾**

بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی تو انہی کو پائے گا۔ یہ حرص زندگی میں مشکوں سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے گویے عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے ۰

(۹۶: آیت ۹۶) پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں کیونکہ ان کفار کے لئے دنیا جنت ہے اور ان کی تھنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ خوبی حسن بصری فرماتے ہیں، منافق کو حیات دنیوی کی حوصلہ کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو ایک ہزار سال کی عمریں چاہتے ہیں حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں ان عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے۔ یقین تو چاہیں ان کی اپنی سیاہ کاریاں بھی ان کے سامنے تھیں۔ اس لئے موت سے بہت زیادہ ڈر تھے تھیں انہیں کے برادر بھی عمر پا لیں تو کیا ہو اعذاب سے تو نہیں فوج سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے اور ویسا ہی بدلہ دے گا۔

**قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ يَادِنَ  
اللَّهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾  
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلِئِكَتِهِ وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلَّكَفِرِينَ ﴿٨﴾**

(۱۔ نبی) تم کہہ دو کہ جو جریل کا دشن ہو جس نے تیرے دل میں پیغام پاری اتنا ہے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا ہاتا نے والا اور ایمان والوں کو پہنچات و خوشخبری دینے والا ہے ۰ تو اللہ بھی اس کا دشن ہے ۰ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جریل اور میکل کا دشن ہوا یہے کافروں کا دشن خود اللہ ہے ۰

خصوصت جریل علیہ السلام موجب کفر و عصيان: ☆☆ (آیت: ۹۷-۹۸) امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر تمام

مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبریلؐ کو اپناؤشن اور حضرت میکائیلؐ کو اپنادوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آئت نازل ہوئی تھیں لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو فتنگوان کی حضور سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو مناظرِ حضور کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول ﷺ کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نہیں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت یعقوبؑ کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ تواریخ نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جب حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نذرِ ہاتھی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے تو میں اپنی کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تدرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹی کا دودھ پینا جو آپ کو پسند خاطر تھا، چھوڑ دیا۔ تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر تواریخ بتاؤ یہیج ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں حضور یحییٰ ہے۔ بجا ارشاد ہوا۔ اچھا ہب ہم پوچھتے ہیں کہ عورتِ مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ نے فرمایا، سنورہ کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلہ اور زردی مائل ہوتا ہے جو بھی غالب آجائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شیبیہ بھی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آجائے تو حکمِ الہی سے اولاد زیریہ ہوتی ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آجائے تو حکمِ الہی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مج بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر کہا یہیک آپ نے بجا ارشاد فرمایا۔

آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ بنا�ا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ فرمائیے کہ توراۃ میں جس نبی ای کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ اور اس کے پاس کون افرشتہ وی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جا گتار ہوتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو توراۃ دی، بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہماری اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرمادیجئے۔ اسی پر بحث کا خاتمه ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا ولی جبریلؐ ہے۔ وہی میرے پاس وقی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری لاتا رہا۔ یہ کہوا اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے لیکن چونکہ جبریلؐ ہمارا دشمن ہے وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لئے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائیلؐ وی لے کر آتے جو رحمت بارش پیدا کرے اور غیرہ لے کر آتے ہیں، ہمارے درست ہیں تو ہم آپ کی تابع داری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آئت نازل ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ وعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ گرج کی آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ ملاحظہ ہو مسند احمد وغیرہ۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ

تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب آپؐ کی آمد کی خبر سی تو حضورؐ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضورؐ یہ فرمائی کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ اور کوئی چیز بچ کو بھی ماں کی طرف چھپتی ہے اور کبھی باپ کی طرف۔ آپؐ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی جیرتیل نے مجھے تلاۓ ہیں۔ سنو۔ حضرت عبد اللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا۔ پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوارک محلی کی پلیجی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے یہ جواب سنتے ہی حضرت عبد اللہ مسلمان ہو گئے اور پاکار اشے اشہدُ اَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ پھر کہنے لگے حضور یہودی بڑے یہ قوف لوگ ہیں۔ اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے کہیں گے آپؐ پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپؐ کے پاس جب یہودی آئے تو آپؐ نے ان سے پوچھا کہ عبد اللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا، پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں تامل نہیں ہو گا؟ کہنے لگے الحمد للہ اعوذ بالله عزوجلہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبد اللہؓ جواب تک چھپے ہوئے تھے باہر آگئے اور زور سے کلمہ پڑھا۔ تو تمام کے تمام شور مجاہنے لگے کہ یہ خود بھی برآ ہے۔ اس کے باپ دادے بھی برے تھے۔ یہ بڑا نیچے درجہ کا آدمی ہے۔ خاندانی کمیزہ ہے۔ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا، حضورؐ اسی چیز کا مجھے ذرا قابل۔

سچی بخاری میں ہے، حضرت عمرہؓ ترمذیتے ہیں جبْرِيلُؑ، اسْرَافِ کے معنی عبد یعنی بندے کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں تو جیرتیل وغیرہ کے معنی عبد اللہ ہوئے، بعض لوگوں نے اس کے معنی الٹ بھی کہنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عبد کے ہیں اور اس سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں جیسے عربی میں عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، عبد القدوں، عبد السلام، عبد الکافی، عبد الجلیل وغیرہ لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے اس طرح ایل ہر جگہ باقی ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ بدلتے رہتے ہیں۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ اسی قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے جیسے جیرتیل، میکا تیل، اسرافیل، عزرا تیل وغیرہ۔

اب مفسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سنئے جو لکھتے ہیں کہ یہ گفتگو جناب عمرؓ سے ہوئی تھی۔ شعبہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ روحاء میں آئے۔ دیکھا کر لوگ دوڑ بھاگ کر ایک پھرلوں کے تقدے کے پاس جا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے جواب ملا کہ اس جگہ رسول اللہؓ نے نماز ادا کی ہے۔ آپؐ بہت ناراضی ہوئے کہ حضورؐ گو جہاں کہیں نماز کا وقت آتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے پہلے چلے جایا کرتے تھے۔ اب ان مقامات کو متبرک سمجھ کر خواہ خواہ دیں جا کر نماز ادا کرنا کس نے بتالیا؟ پھر آپؐ اور باتوں میں لگ گئے فرمانے لگے۔

میں یہودیوں کے مجمع میں بھی بھی چلا جایا کرتا اور یہ دیکھتا رہتا تھا کہ کس طرح قرآن تو نہاد کی اور تو نہاد قرآن کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہودی بھی مجھ سے محبت ظاہر کرنے لگے اور اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں ان سے باتمیں کہا ہی رہا تھا تو راستے سے حضورؐ لگئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا رے نبی وہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں لیکن تم یہ تو مذاو تمہیں اللہ وحدہ کی قسم اللہ جل شانہ برحق کو مدنظر رکھو۔ اس کی نعمتوں کا خیال کرو۔ اللہ کی کتاب قسم میں موجود ہے۔ ذرا رب کی قسم کعا کرتیا تو کیا تم حضورؐ کو رسول نہیں مانتے؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ ان کے بڑے عالم نے جوان سب میں علم میں بھی کامل تھا اور سب کا سردار بھی تھا، اس نے کہا اس شخص نے

اتی سخت قسم دی ہے۔ تم صاف اور سچا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، حضرت آپ ہی ہمارے بڑے ہیں۔ ذرا آپ ہی جواب دیجئے۔ اس لاث پادری نے کہا سنے جناب۔ آپ نے زبردست قسم دی ہے لہذا تو یہی ہے کہ تم دل سے جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے پے رسول ہیں۔ میں نے کہا افسوس جب یہ جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں۔ کہا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس آسمانی وحی لے کر آنے والے جریئل ہیں جو نہایت سختی شدت غذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں۔ ہم ان کے اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وحی لے کر حضرت میکائیل آتے جو رحمت و رافت، تخفیف و راحت والے فرشتے ہیں تو ہمیں مانے میں تامل نہ ہوتا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ تو ان دونوں کی اللہ کے نزد دیک کیا قادر و مسلط ہے؟ انہوں نے کہا، ایک تو جناب باری کے دامنے بازو ہے اور دوسرا دوسری طرف۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، جو ان میں سے کسی کا دشمن ہو۔ اس کا دشمن اللہ بھی ہے اور دوسرا فرشتہ بھی کیونکہ جریئل کے دشمن سے میکائیل دوست نہیں رکھ سکتا اور میکائیل کا دشمن جریئل کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نہ ان میں سے کسی ایک کا دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہو سکتا ہے نہ ان دونوں میں سے کوئی ایک باری تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میں پر آ سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ واللہ مجھے نہ تم سے لائیج ہے نہ خوف۔ سنو جو عرض اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبراٹل میکائیل کا دشمن ہو تو اس کا فرکا اللہ وحدہ لا شريك بھی دشمن ہے۔ اتنا کہہ کر میں چلا آیا۔ حضور ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے این خطاب مجھ پر تازہ وحی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا حضور سنایے۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا حضور آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ یہی باتیں ابھی یہودیوں سے میری ہو رہی تھیں۔ میں تو چاہتا ہی تھا بلکہ اسی لئے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کو اطلاع کروں مگر میرے آنے سے پہلے الطیف و خیریت نہ دیکھنے والے اللہ نے آپ کو خیر پہنچا دی۔ ملاحظہ ہوا بن اپی حاتم وغیرہ مگر یہ روایت منقطع ہے۔ سند متصل نہیں۔ معنی نے حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبراٹل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے نہ مانے والوں کو کافر فرمایا ہے۔ فرماتا ہے اَنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَيْبُرِدُونَ إِنَّهُمْ يَنْعَمُونَ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے دوسری آیت کے آخریک۔ پس ان آئتوں میں صراحتاً ان لوگوں کو کافر کہا جو کسی ایک رسول کو ہم نہ مانیں۔ اسی طرح جبراٹل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا تَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزَلُ إِلَّا لِيَعْلَمَ اللَّهُ كَعْلَمُ كَعْلَمُ کے سوانحیں اترتے یہ نازل کیا ہو ارب العالیین کا ہے جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور میرے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تو لوگوں کو ہوشیار کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کی تمام بیانی کلام کی قدریت کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لئے جنت کی خوش خبری دیتا ہے جیسے فرمایا هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءٌ فَرَمِيَ وَ نَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت و شفا ہے۔ رسولوں میں انسانی رسول اور بلکہ رسول سب شامل ہیں جیسے فرمایا اللہ یَصُطَّفُ مِنَ الْمَلِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ تَعَالَى فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتا ہے۔ جبراٹل اور میکائیل بھی فرشتوں میں ہیں لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے

ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے بلکہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل بھی کبھی کبھی انیاء کے پاس آتے رہے ہیں جیسے کہ نبی ﷺ کے ساتھ شروع شروع میں تھے لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبریل ہیں۔ جیسے حضرت میکائیل روئیدگی اور بارش غیرہ پر اور جیسے حضرت اسرافیل صور پر پوچھتے ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ رات کو جب تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تب یہ دعا پڑھتے اللہمَ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَسْرَافِيلَ فَاطِرِ السُّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَاذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اے اللہ اے جبراٹل میکائیل اسرافیل کے رب اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اے ظاہر و باطن کو جانے والے اپنے بنوں کے اختلاف کا فیصلہ تو ہی کرتا ہے۔ اے اللہ اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کرو جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ لفظ جبراٹل وغیرہ کی حقیقت اور اس کے معانی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن عمر فرماتے ہیں انہر شتوں میں حضرت جبراٹل کا نام خادم اللہ ہے۔ ابو سليمانی وارانی یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگئے یہ ایک روایت میری روشنوں کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جبراٹل اور میکائیل کے لفظ میں بہت سارے لغت ہیں اور مختلف قرأت ہیں جن کے بیان کی مناسب جگہ کتب لفت ہیں۔ ہم کتاب کے جنم کو بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ کسی معنی کی سمجھ یا کسی حکم کا مفاد ان پر موقوف نہیں۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ ہمارا بھروسہ اور توکل اسی کی پاک ذات پر ہے۔ آیت کے خاتمه میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے بلکہ فرمایا اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ اے عربی میں مضر کی جگہ مظہر کہتے ہیں اور کلام عرب میں اکثر اس کی مثالیں شعروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گویا یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی اور جو اللہ کا دشمن اس کا دشمن اور جس کا دشمن خود اللہ قادر مطلق ہو جائے اس کے کفر و بر بادی میں کیا شبرہ گیا؟ صحیح بخاری کی حدیث پہلے گذر جگل کہ اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں سے دشمن رکھنے والے کو میں اعلان جگ دیتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں اور حدیث میں ہی ہے جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ میرا ہو کر ہی رہتا ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَتِمْ بَيْنَتَهُ وَمَا يَأْكُلُ فِرْ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ<sup>۱۰۰</sup>  
أَوَ كَلَمًا غَهَدًا عَهَدًا أَبَدَهَ قَرِيقَ حَوْ قِنْهَمَ بَلْ أَكَتْ كَمْهَمَ  
لَا يُؤْمِنُونَ<sup>۱۰۱</sup>

یقیناً ہم نے تیری طرف روشن دلیلیں بھی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا ۱۰۰ یہ لوگ جب کبھی کوئی محبد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے تزوییتی ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں ۱۰۱

سلیمان علیہ السلام جادو گرنگیں تھے: ☆☆ (آیت: ۱۰۰) یعنی اے محمد ﷺ ہم نے ایسی ناشانیاں جو آپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکیں، نازل فرمادی ہیں یہود یوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، ان کی تحریف و تبدیلی احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی محرمنا کتاب قرآن کریم میں بیان فرمادی ہے یہ جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تقدیق کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہود یوں کو ان کا حسد و شخص روک دے ورنہ شخص جان سکتا ہے کہ ایک ای شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا حکم تو والا کلام کہا

نہیں جا سکتا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابن صوری قطوبی نے حضور ﷺ سے کہا تھا کہ آپؐ کوئی اسکی چیز نہیں لائے ہے ہم بچان لیں ڈاپؐ کے پاس کوئی ایسی روشن دلیلیں ہیں۔ اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی چونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخراً زمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑا بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ مدد کا معنی بھیک دیتا ہے چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو اور عہد باری کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا کویا چھینک دیا تھا اس لئے ان کی نذمت میں تبھی لفظ لایا گیا۔

**وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا أَعْهَمُوا بَدَ فَرِيقٌ  
مِّنَ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَ ظُهُورُهُمْ كَانُوكُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ**

جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا۔ ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح بھیجی۔ یعنی ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ ہے۔

(آیت: ۱۰۱) دوسرا جگہ صاف یہاں ہے کہ ان کی کتابوں میں حضور مکاڑ ک موجود تھا۔ فرمایا یعنی حنونہ مکتوبہ عندهم فی التُّورَةِ وَالْأَنْجِيلِ یعنی لوگ تورات و انجلیل میں حضور مکاڑ ک موجود پاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہمارا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی برٹ کر اس طرح اسے چھوڑ دیا چیز کویی علم ہی نہیں۔

**وَاتَّبَعُوا مَا تَنَاهُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَلَیْمَنَ وَمَا كَفَرَ  
سَلَیْمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا  
أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بَبَإِلَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ  
حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُنْ فِرَقٌ تَعْلَمُونَ مِنْهُمَا  
مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ  
بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ مَا يَضْرِهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ  
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا كَاهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ  
وَلَبِسَ مَا شَرَوْا إِلَهَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
أَمْنُوا وَاتَّقُوا الْمُثُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**

اور اس چیز کے بیچے اگ کے جھے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑتے تھے۔ سلیمان نے تو یہ کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطاں کو تھا۔ وہ لوگوں کو جادو دکھایا کرتے تھے اور باہل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکتے تھے جب تک یہندہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک

آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سچئے جس سے مرد و عورت میں جدا ائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتے۔ یہ لوگ وہ سچئے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور لفظ نہ پہنچا سکے اور وہ بالغین جانے ہیں کہ اس کے لیے والے کا آخرين بدترین چیز ہے جس کے بد لے وہ اپنے تیس فرد مدد کر رہے ہیں کاش کر پیدا جانتے ہوتے ۵۰ اگر یہ لوگ ایمان دار مقام بن جاتے تو اللہ کی طرف سے ہبھریں ٹوپ انبیاء میں اگر یہ جانتے ہوتے ۵۰

(آیت: ۱۰۲-۱۰۳) بلکہ جادو کے پیچے پر گئے اور خود حضور پر جادو کیا جس کی اطلاع آپ کو جناب باری تعالیٰ نے دی اور اس کا اثر زائل ہوا اور آپ کو شفافیٰ۔ توانا سے تو حضور کا مقابله نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ وہ تو اس کی تصدیق نہیں کرنے والی تھی تو اسے چھوڑ کر دوسرا کتابوں کی پیروی کرنے لگے اور اللہ کی کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کسی جانتے ہی نہ تھے نفسانی خواہیں سامنے رکھ لیں اور کتاب اللہ کو پیچے پیچے ڈال دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راگ ہائے کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز مَا تَنَّلُ الشَّيْطَيْنُ میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جب آپ بیت الغلام جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو دے جاتے۔ جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو دے دی گئی۔ اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے۔ حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمانؓ وہاں آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ان دونوں میں شیاطین نے جادو دنجوں کیا تھا، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی بخوبی کی تباہیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمانؓ کی کرسی تلے دُن کرنی شروع کر دیں۔ آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر طبعی کو پتچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعہ سے وہ ہواں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے، ان کی کرسی تلے دُن ہیں چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جاسکتے تھے، اس لئے انسانوں نے اسے کھو دا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمانؓ کی حکومت کا راز یہی تھا بلکہ لوگ حضرت سلیمانؓ کی نبوت سے منکر ہو گئے اور آپ کو جادو گر کہنے لگے۔ آنحضرت ﷺ نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادو گری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے۔ حضرت سلیمانؓ اس سے بری الذمہ ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے۔ اس نے کہا کوفہ سے۔ پوچھا۔ وہاں کیا بخوبی ہیں۔ اس نے کہا۔ وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علیؑ انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روپوں ہیں اور عنقریب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دوسرا لکھ نہ کر تیں۔ سنوا شیاطین آسمانی باتیں چالا کیا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے، حضرت سلیمانؓ نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دُن کر دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان ہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسی کا ذکر اس آیت وَاتَّبُعُوا الْخَمْرَ میں ہے۔

اس زمانہ میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمانؓ نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دُن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا، اس کی گردان ماری جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو حضرت سلیمانؓ کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دُن کیا تھا اور ان کے شروع صفحہ پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ اصف بن بر خیا کا جمع کیا ہوا ہے جو حضرت سلیمانؓ

بن داؤد کے وزیر اعظم، مشیر خاص اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ حضرت سلیمان نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے سچے نبی کی برات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کا ابطال کیا۔ وہ حضرت سلیمان کا نام نبیوں کے زمرے میں سن کر بہت بد کتے تھے۔ اس لئے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا بیان کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ حضرت سلیمان نے تمام مذکوری جانوروں سے عہد لیا تھا جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عمارتیں بنائیں کہ جادوگی قسم کے منظر تنزیل پا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا جس کا بطلان ان آیات کریمہ میں ہے۔ یہ یاد رہے کہ ”علیٰ“ یہاں پر ”فی“ کے معنی میں ہے یا ”تَنْلُو“، مضمون ہے تَكْذِيْبُ کا، بھی اوپر اور اسن ہے۔ واللہ اعلم۔

خواجہ حسن بصریؒ کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان کا حضرت موئیؑ کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ داؤد اور جاولت کے قصے میں ہے میں بعد مُوسیؑ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ یعنی تو جادو کرنے گئے لوگوں میں سے ہے۔ پھر فرماتا ہے وَمَا أَنْزَلَ إِلَّا بَعْضَهُ تَكْتَبْتُ ہیں یہاں پر ”مانافیہ“ ہے، یعنی انکار کے معنی میں ہے اور اس کا عطف مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ پر ہے۔ یہودیوں کے اس دوسرے اعتقاد کی کہ جادو فرشتوں پر نازل ہوا ہے، اس آیت میں تردید ہے۔

ہاروت ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے۔ تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے جیسے اُنْ كَانَ لَهُ اخْوَةٌ میں یا اس لئے جمع کیا گیا کہ ان کے مانے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سرفہرست دیا گیا ہے۔ قرطبیؓ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ اس کے سوا کسی اور مفتی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہئے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں، ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہو گا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمانؑ کے زمانہ میں شیطان پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتنا رہے (جیسے اے یہود یو تھا را خیال جریئل و میکا تیلؓ کی طرف ہے) بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو باطل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ان کے مردار دوآ دی تھے جن کا نام ہاروت ماروت تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی زیادؓ اسے اس طرح پڑھتے تھے وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكِينَ دَاؤَدُ وَ سُلَيْمَانَ یعنی داؤد سلیمان دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتنا را گیا یا کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے۔ امام ابن حجرؓ نے اس کا زبردست رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”ما“، معنی میں الَّذِی کے ہے اور ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتنا رہے اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لئے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے لہذا ہاروت ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو جلا رہے ہیں۔

ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ یہ جنوں کے دو قبیلے ہیں۔ ملکیکُنْ یعنی دو بادشاہوں کی قرات پر انزال حلق کے معنی میں ہو گا جیسے فرمایا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَرْوَاحَ اُنْزَلْنَا الْحَدِيدَ اور کہا وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا یعنی ہم نے تمہارے لئے آٹھ قسم کے چوپائے پیدا کئے، لوہا بنا لیا، آسان سے رو زیاں اتنا رہیں۔ حدیث میں ہے مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں، ان سب کے علاج بھی پیدا کئے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے یہاں سب جگہ انزال یعنی پیدائش کے معنی میں ہے ایجاد یعنی لانے اور اتنا نے کے معنی میں نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتوں تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ مضمون بسط و طول کے ساتھ ہے جو ابھی بیان ہو گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو مقصوم ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہی نہیں چہ جائیکہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے اس لئے کہ یہ دونوں بھی عام

فرشتوں میں سے خاص ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ابلیس کی بابت آپ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْكَةِ إِنَّكَ لَكَ تَقْرِيرٌ میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، کعب احبارؓ، حضرت سدیؓ، حضرت مکبیؓ یہی فرماتے ہیں۔

اب اس حدیث کو سننے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتر اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں۔ کیسے نافرمان اور سرکش ہیں۔ ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کرلو۔ میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجا ہوں۔ پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعہ اپنے حکم احکام پہنچتا ہوں لیکن تم سے بلا واسطہ خود کھدا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لئے حسین و ٹھیکیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا جائے دیکھ کر یہ مفتون ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے کہا، اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا، وہ چل گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس پنجے کو قتل کر دا، اتو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا، وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لوا، انہوں نے اسے بلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نہیں مست ہو کر زنا کاری بھی کی اور اس پنجے کو بھی قتل کر دا۔ جب ہوش حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر دا۔ یہ نادم ہوئے، انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کئے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردویہ، ابن جریر، عبد الرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مردی ہے مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے۔ اس میں ایک راوی موصیٰ بن جبیر انصاری سلسلی اللہ کو ابن ابی حاتم نے مستور الحال لکھا ہے۔

ابن مردویہ کی روایت میں بھی ہے کہ ایک رات کو اشاؤسفر میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافعؓ سے پوچھا کہ کیا زہرہ تارا کلما؟ اس نے کہا نہیں۔ دو تین مرتبہ سوال کے بعد کہا۔ اب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے لگے اس سے نہ خوشی ہونے بھلاکی ملے۔ حضرت نافعؓ نے کہا حضرت اک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپؓ سے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الفاظ سنائی لیکن یہ بھی غریب ہے۔ حضرت کعبؓ والی روایت مرفوع سے زیادہ صحیح موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ بنی اسرائیل روایت ہو۔ واللہ اعلم۔ صحابہؓ اور تابعینؓ سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچھ منقول ہیں۔ بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی۔ اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جائتے ہو انہوں نے سکھا دی۔ یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی کھل میں بنا دی گئی۔ بعض مرفوع روایتوں میں بھی یہ ہے لیکن وہ مکر اور غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعہ سے پہلے تو فرشتوں نے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا بات کئے تھے لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لئے دعا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن سے خطاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کرلو یا آخرت کے عذابوں کو اختیار کرلو۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا چنانچہ انہیں بال میں عذاب ہو رہا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے تھے ان میں قتل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی اور یہ حکم بھی تھا کہ

حکم عدل کے ساتھ کریں۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ تین فرشتے تھے لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا۔ پھر دو کی آزمائش ہوئی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیا وند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور بھلی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسان پر چڑھ گئی۔ اتنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جب کبھی ذہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے۔ سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔

حضرت جاہدؓ فرماتے ہیں۔ پہلے پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے۔ صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہتے۔ شام کو آسان پر چڑھ جاتے۔ پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا الغرض ہاروٹ ماروٹ کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے میان کیا ہے جیسے مجاهد سدھی حسنؓ بصریؓ تقادہؓ ابوالعلیؓ زہریؓ رجیع بن انسؓ مقتل بن حیانؓ وغیرہ وغیرہ حبیم اللہؓ جعینؓ اور متفقینؓ اور متاخرینؓ غفرینؓ نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے نقل کیا ہے لیکن اس کا زیادہ تر دارو مدارتی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں آنحضرت ﷺ سے ثابت نہیں اور نہ قرآن کریم میں اس تدریجی تفصیل ہے پس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے (قرآن کریم کے ظاہری الفاظ مسند احمد ابن حبانؓ یعنی وغیرہ کی مرفوع حدیث حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ ابن مسعودؓ وغیرہ کی موقوف روایات تابعین وغیرہ کی تفاسیر وغیرہ ملکراں واقعہ کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے نہ اس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے پھر ظاہر سے بے جاہث اور تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی والذاذ علم) (فتح البیان)

ابن جریر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے۔ اسے بھی سنئے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ خاتونؓ اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دو مدد الجہد کی ایک عورت حضورؓ کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپؐ کی حاش میں آئی اور آپؐ کے انتقال کی خبر پا کر بے جملہ ہو کر رونے پہنچنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخوند کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناجاہد رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا۔ ایک بڑیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا۔ اس نے کہا، جو میں کہوں وہ کرو۔ وہ خود بخود تیرے پاس آجائے گا میں تیار ہو گئی وہ رات کے وقت دو کتے لے کر میرے پاس آئی ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرا پر میں بیٹھنے سخوری ہی دی ریسیں ہم دنوں بابل پہنچ گئیں میں نے دیکھا کہ دو شخص ادھر لئکھ ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جاؤ ران سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔

میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا، سن ہم تو آزمائش میں ہیں۔ تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں کی انہوں نے کہا اچھا پھر جاؤ اس تھوڑی میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی۔ ارادہ کیا لیکن کچھ دھشتی طاری ہوئی۔ میں واپس آگئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں گزرا۔ تیرا! ایمان ثابت ہے۔ اب بھی لوٹ جاؤ کفر نہ کر۔ میں نے کہا، مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا۔ جاؤ اس تھوڑی میں پیشاب کر آ۔ میں پھر گئی لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا۔ واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے۔ میں تیسرا مرتبہ پھر تھوڑے کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے

کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھر سوار منہ پر نقاب ڈالے تکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ واپس چلی آئی۔ ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ توچ کہتی ہے۔ وہ تیر ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا۔ اب جا چلی جائیں آئی اور اس بڑھیا سے کہا۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس مجھے کچھ آگیا۔ اب تو جو کہے گی، ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لئے ایک دانہ گیہوں کا لیا اسے زمین پر ڈال کر کہا، اگ جا، وہ فوراً آگ آیا۔ میں نے کہا۔ تجھ میں بال پیدا ہو جائے چنانچہ ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا وہ بال سوکھ گئے، میں نے کہا، الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا، پھر میں نے کہا سوکھ جا تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا۔ آتابن جاتو آتابن گیا میں نے کہا رونی پک جاتا رونی پک گئی، یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین قسم اللہ کی نہیں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کیا۔ میں یونہی روتوں پرستی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ حضورؐ سے کہوں لیکن افسوس بدقتی سے آپ کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام بھی تمیر تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں؟ ۲۶ خرطعہ صحابہؓ نے کہا، اب سوا اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو۔ توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گذاری کرتی رہو۔

یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ صحابہ کرام فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں تامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی انکل اور رائے قیاس میں گھر گھڑا کر بنانے میں بالکل نہیں۔ رکتے اس کی انساد بالکل صحیح ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”عین“ چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے۔ اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی عین رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے سَحْرُ وَ أَعْيُنَ النَّاسِ لَعْنَى یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور فرمایا یُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى حضرت مولیٰ کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے بابل دنیا وندنہیں۔ اہن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کی زمین میں جا رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت آگیا لیکن آپؐ نے وہاں نماز ادا نکی بلکہ اس زمین کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ میں ملعون ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث مروی ہے اور امام صاحب نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا اور جس حدیث کو حضرت امام ابو داؤد اپنی کتاب میں لائیں اور اس کی سند پر خاموشی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بابل کی سر زمین میں نماز مکروہ ہے جیسے کہ شمود یوں میں نہ جاؤ۔ اگر انقاٹ جانا پڑے تو خوف اللہ سے روتے ہوئے جاؤ۔ ہیئت دانوں کا قول ہے کہ بابل کی دوری بحر غربی اور یانوس سے ستر درجہ لمبی اور وسط زمین سے جنوب کی جانب بخط استوای سے تیس درجہ ہے۔ واللہ اعلم۔ چونکہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کفر کی طرف جھکئے والے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو وہ اسے کہہ دیتے ہیں، اس کا نور ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے شیطان اس کا ریش کار بن جاتا ہے، ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب اللہ اس کے روم روم میں گھس جاتا ہے۔ اہن جریغہ فرماتے ہیں سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ قتنہ کے معنی یہاں پر بلاؤ، آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں مذکور ہے اِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا کافر ہے۔ حدیث میں بھی ہے جو غرض کی کا ہن یا جادو گر کے پاس جائے اور اس کی بات کوچ سمجھے۔ اس نے حضرت محمد ﷺ پر اتری ہوئی وجی کے ساتھ کفر کیا (بزار) یہ حدیث صحیح

ہے اور اس کی تائید میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔

پھر فرمایا کہ لوگ ہاروت سے جادو سمجھتے ہیں جس کے ذریعے برے کام کرتے ہیں۔ عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغرض اور خالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے پھر ان کو بہکانے کے واسطے بھینتا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح گراہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کرایا، شیطان ان سے کہتا ہے، کچھ نہیں یہ تو معمولی کام ہے یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا اذال دیا۔ یہاں تک کہ جداً ہو گئی۔ شیطان اسے گلے لگایتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا اسے اپنے پاس بٹھالیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے۔ پس جادو گر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جداً ہو جائے مثلاً اس کی ٹھیک صورت اسے بری معلوم ہونے لگے یا اس کے عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہوں، یہ نفرت کرنے لگے یاد میں عادات آجائے وغیرہ وغیرہ۔ رفتہ رفتہ یہ باشیں بڑھتی جائیں اور آپس میں چھوٹ چھٹاؤ ہو جائے۔ ”مرا“ کہتے ہیں اس کا نہ کرو منش اور تنہیہ تو ہے، جمع نہیں بنتا۔ پھر فرمایا۔ یہ کسی کو بھی بغیر اللہ کی مرضی کے ایذا نہیں پہنچا سکتے یعنی اس کے اپنے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر اور اس کے ارادے کے ماتحت یہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا جادو شخص بے اثر اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو اسی شخص کو نقصان دیتا ہے جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، وہ ایسا علم سمجھتے ہیں جو ان کے لئے سراسر نقصان دہ ہے جس میں کوئی نفع نہیں اور یہ یہودی جانتے ہیں کہ رسول کی تابع داری چھوڑ کر جادو کے پیچے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہ ان کی قدر و وقت اللہ کے پاس ہے، نہ وہ دیندار سمجھتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ اس کام کی برائی کو محوس کرتے اور ایمان و تقویٰ بر تے تو یقیناً ان کے لئے بہت ہی بہتر تھا مگر یہ علم لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا، تم پرانوں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے لیکن اسے صبر کرنے والے ہی پاسکتے ہیں۔

اس آیت سے یہ بھی استدلال بزرگان دین نے کیا ہے کہ جادو گر کافر ہے کیونکہ آیت میں وَلَوْ أَنْهُمْ أَمْنُوا وَأَتَقْوَا فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد اور سلف کی ایک جماعت بھی جادو سمجھنے والے کو کافر کہتی ہے۔ بعض کافر تو نہیں کہتے لیکن فرماتے ہیں کہ جادو گر کی حدیث ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بجالہ بن عبدیؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادو گر مرد و عورت کو قتل کر دو چنانچہ ہم نے تمیں جادو گروں کی گردان ماری۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی ایک لوٹی نے جادو کیا جس پر اسے قتل کیا گیا۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمیں صحابیوں سے جادو گر کے قتل کا نتوی ثابت ہے۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، جادو گر کی حد توارے قتل کر دینا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی اسمبلی بن مسلم ضعیف ہیں۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ غالباً یہ حدیث موقوف ہے لیکن طبرانی میں ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مرفوع مردی ہے۔ واللہ اعلم۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادو گر تھا جو اپنے کرتب بارشاہ کو دکھایا کرتا تھا۔ بظاہر ایک شخص کا سرکاٹ لیتا پھر آواز دیتا تو سر جز جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابیؓ نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تکوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر نے اپنا کھلی شروع کیا، آپ نے اپنی تکوار سے خود اس کی گردان اڑا دی اور فرمایا لے اب اگرچا ہے تو خود جی اٹھ، پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھا

لوگوں کو شائی افتاب تُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ کیا تم دیکھتے بھاتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت اس کے قتل میں نہیں لی تھی اس لئے بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں قید کر دیا۔ پھر چھوڑ دیا۔ امام شافعی نے حضرت عمرؓ کے فرمان اور حضرت خصہؓ کے واقعہ کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب جادو شرکیہ الفاظ سے ہو۔

معزز لہ جادو کے وجود کے منکرین وہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا وجود مانتا ہو وہ کافر ہے لیکن اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادو گراپنے جادو کے ذریعے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنانا لئے ہیں مگر کلمات اور منتر تندر کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے آسان کو اور تاروں کو تاشیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ فلسفے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسان کو ہی اٹھ پیدا کرنے والا جانتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک دلیل تو آیت وَمَا هُنْ بِضَارِّينَ ہے اور دوسرا دلیل خود آنحضرت ﷺ پر جادو کیا جانا اور آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تیسرا اس عورت کا واقعہ جسے حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا ہے جو اد پر ابھی ابھی گذر رہے۔ اور ابھی میسوں ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔

رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں۔ محققین کا بھی قول ہے اس لئے کہ وہ بھی ایک علم ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ يعنی علم والے اور بے علم بے اور نہیں ہوتے اور اس لئے کہ یہ علم ہو گا تو اس سے مجزے اور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہو جائے گا اور مجزے کا علم واجب ہے اور وہ موقوف ہے جادو کے سیکھنے پر جس سے فرق معلوم ہو۔ یہ جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول سرتاپ اقلطہ ہے۔ اگر عقلاً وہ اسے برانہ بتا سکیں تو معزز لہ موجود ہیں جو عقلاً بھی اس کی برائی کے قائل ہیں اور اگر شرعاً برانہ بتلاتے ہوں تو قرآن کی یہ آیت شرعی برائی بتلانے کے لئے کافی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے جو کسی شخص، کسی جادو گریا کامن کے پاس جائے وہ کافر ہو جائے گا۔

جادو کے جواز اور عدم جواز کی بحث: ☆☆ سن میں حدیث ہے کہ جس نے گردہ لگائی اور اس میں پھونکا، اس نے جادو کیا لہذا رازی کا یہ کہنا کہ محققین کا قول بھی ہے یہ بھی تھیک نہیں۔ آخر ان محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ انہرہ اسلام میں سے کس نے ایسا کہا ہے؟ پھر هل یَسْتَوِي الَّذِينَ آیت کو پیش کرنا بھی نزدیک جرات ہے کیونکہ آیت میں علم سے مراد یعنی علم ہے۔ اسی آیت میں شرعی علم والے علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے پھر ان کا یہ کہنا کہ اسی علم سے کہ اسی سے مجزے کا علم قابلی حاصل ہوتا ہے یہ تو بالکل وابھی محض غلط اور فاسد ہے اس لئے کہ ہمارے رسول ﷺ کا سب سے بڑا مججزہ قرآن پاک ہے جو باطل سے سراسر حفظ ہے لیکن اس کا مجزہ ماننے کے لئے جادو جانا ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہیں جادو سے دور کا بھی تعلق نہیں وہ بھی اسے مجزہ مان گئے۔ صحابہ تابعین انہرہ مسلمین بلکہ عام مسلمان بھی اسے مجزہ ماننے ہیں حالانکہ ان تمام میں سے کوئی ایک بھی جادو جانا تو کیا جادو کے پاس تک نہ پہنچانا سیکھانہ سکھایا، نہ کیا کہا بلکہ ان سب کاموں کو کفر کہتے رہے پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جادو کا جانا واجب ہے اس لئے کہ جادو کے علم سے مجزہ کا فرق معلوم ہو سکتا ہے اس لئے اس کا سیکھنا واجب کس قدر ممکن دعویٰ ہے۔

جادو کی اقسام: ☆☆ اب جادو کی قسمیں سنئے جنہیں ابو عبد اللہ رازیؓ نے بیان کیا ہے (۱) ایک جادو تو ستارہ پرست فرقہ کا ہے۔ وہ سات ستاروں کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے اس لئے ان کی طرف خطاب کر کے مقرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں

اور انہی کی پرتش کرتے ہیں۔ اسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں ہدایت کی۔ رازیؒ نے اس فن میں ایک خاص کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام السر المکتوم فی مخاطبہ الشمس والشحوم رکھا ہے۔ ملاحظہ ہوا ان خلکان وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اس سے توبہ کر لی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کو اس علم سے آشنا کرنے اور خود کو اس کا عالم ثابت کرنے کے لئے یہ کتاب لکھی تھی ورنہ ان کا اپنا اعتقاد یہ تھا جو سارے کفر ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کے طور طریقے لکھے ہیں۔

(۲) دوسرا جادو قوی نفس اور قوت و اہمہ کے طاقتوں لوگوں کافن ہے، ہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے دیکھئے اگر ایک ننگ پل زمین پر رکھ دیا جائے تو اس پر انسان بہ آسانی چلا جائے گا لیکن یہی ننگ پل اگر کسی دریا پر ہو تو نہیں گز رکے گا۔ اس لئے کہ اس وقت خیال ہو گا کہ اب گرا، اب گرا تو وہ مدد کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ پر زمین میں چل پھر سکتا تھا، اتنی جگہ پر ایسے ذر کے وقت نہیں چل سکتا۔ حکیموں اور طبیبوں نے بھی معروف (جس کو نکپڑ بہنے کی بیماری ہو) شخص کو سرخ چیزوں کو دیکھنے سے روک دیا ہے اور مرگی والوں کو زیادہ روشنی دالی اور تیز حرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ قوت و اہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ عقینہ لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ نظر لگتی ہے۔ صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوئی تو نظر ہوتی۔ اب اگر نفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کاموں کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر اتنا قوی نہیں تو پھر اسے آلات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جس قدر نفس کی قوت بڑھتی جائی گی وہ روحانیات میں ترقی کرتا جائے گا اور تاثیر میں بڑھتا جائے گا اور جس قدر قوت کم ہوتی جائے گی اسی قدر رکھتا جائے گا، یہ کیفیت بھی غذا کی کی سے اور لوگوں کے میل جوں سے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی تو قوت کو حاصل کر کے انسان تسلیکی کے کام یعنی شریعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ اس حال کو شریعت کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ جادو نہیں کہتے اور کبھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کاموں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے یہ قابل حیرت کاموں سے کسی کو ہو کا کہا کر انہیں ولی نہ سمجھ لیتا چاہئے کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ صحیح حدیشوں میں دجال کی بابت کیا کچھ آیا ہے؟ وہ کیسے کیسے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گا لیکن ان کی وجہ سے وہ اللہ کا دلی نہیں بلکہ ملعون دردود ہے۔

(۳) تیسرا قسم کا جادو جنات کے ذریعہ زمین والوں کی روحوں سے امداد و اعانت طلب کرنے کا ہے۔ معتزلہ اور فلاسفہ اس کے قائل نہیں۔ ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اسے سحر بالعزائم اور عمل تنجیم بھی کہتے ہیں۔

(۴) چوتھی قسم خیالات کا بدل دینا، آنکھوں پر اندر ہیرا اذال دینا اور شعبدہ بازی کرنا ہے جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ تم نے دیکھا ہو گا کہ شعبدہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے جب لوگ دلچسپی کے ساتھ اس طرف نظریں جمادیتے ہیں اور ان کی پاتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمہ تن اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر تی سے ایک دوسرا کام کردا تاہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم کا تھا۔ اسی لئے قرآن میں ہے سَحَرُوا أَعْيُّنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهُبُو هُنْ لَا يَلْوَگُونَ کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کے دلوں میں ڈر بھا دیا اور جگہ ہے يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مُوَلَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے خیال میں وہ سب لکڑیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آئے لیکن حالانکہ درحقیقت ایسا نہ تھا۔ واللہ اعلم۔

(۵) پانچویں قسم بعض چیزوں کی ترکیب دے کر کوئی عجیب کام اس سے لیتا ملا گھوڑے کی شکل بنا دی۔ اس پر ایک سوار بنا کر بھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے جہاں ایک ساعت گذری اور اس ناقوس میں سے آواز نکلی حالانکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا۔ اسی طرح انہی

صورت اس کارگیری سے ہنائی کر گویا اصلی انسان نہیں رہا ہے یا رورہا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زلیق کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے۔ گھڑی اور کھنٹے اور چھوٹی چیزیں جن سے بڑی بڑی وزنی چیزیں کھینچ آتی ہیں، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ حقیقت میں اسے جادو ہی نہ کہنا چاہئے کیونکہ یہ تو ایک ترکیب اور کارگیری ہے جس کے اسباب بالکل ظاہر ہیں۔ جوانی میں جانتا ہو وہ ان اسباب و فنون سے یہ کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح کا وہ حیله بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نصرانی کرتے تھے کہ پرسر اطریقہ سے گر جے کی قدمیں جلا دیں اور اسے گر جے کی کرامت مشہور کر دی یا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامیہ صوفیوں کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب و تہیب کی حدیشیں گھڑی جائیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں مقتر کر لے اور فرمایا میری حدیشیں بیان کرتے رہو لیکن مجھ پر جھوٹ نہ پاندھو مجھ پر جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے۔

ایک نصرانی پادری نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرند کا چھوٹا سا بچہ جسے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے جب وہ اپنی ضعیف اور پست آواز نکالتا ہے تو اور پرندے اسے سن کر حرم کھا کر زیتون کا پھل اس گھونسلے میں لا لانا کر رکھ جاتے ہیں اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کی چیز کا بنایا اور نیچے سے اسے کھوکھلا رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونچ کی طرف رکھا جس سے ہوا اس کے اندر گھنٹی تھی۔ پھر جب نکلتی تھی تو اسی طرح کی آواز اس سے پیدا ہوتی تھی۔ اسے لا کر اپنے گر جے میں ہوا کے رخ رکھ دیا۔ چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا تاکہ ہوا اس سے جائے۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آواز نکلتی تو اس قسم کے پرندے جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لا لانا کر رکھ جاتے۔ اس نے لوگوں میں شہرت دینی شروع کی کہ اس گر جے میں یہ کرامت ہے۔ یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور یہ کرامت انہی کی ہے۔ لوگوں نے بھی جب اپنی آنکھوں یا ان ہونی عجیب بات دیکھی تو معتقد ہو گئے اور اس قبر پر نذر نیاز چڑھانے لگے اب کرامت دور درستک مشہور ہو گئی حالانکہ کوئی کرامت نہ بخیرہ تھا۔ صرف ایک پوشیدہ فن تھا جسے اس ملعون شخص نے پیش بھرنے کے لئے پوشیدہ طور پر رکھا تھا اور ایک لعنتی فرقہ اس پر رستھا ہوا تھا۔

(۶) چھٹی قسم جادو کی بعض دواؤں میں عجیب عجیب خاصیتیں ہیں۔ مقنایاں ہی کو دیکھو کہ لوہا کس طرح اس کی طرف گھنٹی جاتا ہے۔ اکثر صوفی اور فقیر اور درویش انہی حیلہ سازیوں کو کرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں سریدہ بناتے پھرتے ہیں۔

(۷) ساتویں قسم دل پر ایک خاص قسم کا اثر ڈال کر اس سے جو چاہنا منوا لیتا ہے مثلاً اس سے کہہ دیا کہ مجھے اسم اعظم یاد ہے یا جنات میرے قبضہ میں ہیں۔ اب اگر سامنے والا کمزور دل کچے کافنوں اور بودے عقیدے والا ہے تو وہ اسے سچ کبھے لے گا اور اس کی طرف سے ایک قسم کا خوف زدہ بیہت اور رعب اس کے دل پر بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنادے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب عجیب باشیں دکھاتا جائے گا اسی کو تمبلہ (عام زبان میں اسے معمول) کہتے ہیں اور یہ اکثر کم عقل لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے اور علم فراست سے کامل عقل والا اور کم عقل والا انسان معلوم ہو سکتا ہے اور اس حرکت کا کرنے والا اپنائی فعل اپنی قوت قیادہ کے ذریعے کم عقل شخص کو معلوم کر کے ہی کرتا ہے۔

(۸) آٹھویں قسم چغلی کرنا، جھوٹ سچ ملا کر کسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا، یہ چغل خوری اگر لوگوں کو بھر کانے بد کانے اور ان کے درمیان عداوت و دشمنی ڈالنے کے لئے ہو تو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پر اور آپس

میں ایک دوسرے مسلمان کو ملانے کے لئے کوئی ایسی بات ظاہر کہہ دی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے خوش ہو جائے یا کوئی آنے والی مصیبت مسلمانوں پر سے ٹل جائے یا کفار کی قوت زائل ہو جائے۔ ان میں بدلی بھیل جائے اور مخالفت و بحوث پڑے تو جائز ہے جیسے حدیث میں ہے کہ وہ شخص جو مٹا نہیں جو بھلائی کے لئے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے اور جیسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مکرانام ہے اور جیسے حضرت نعیم بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان کچھ ادھر ادھر کی اور پری باقی کہہ کر جدائی ڈالوادی تھی اور انہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں نکست ہوئی۔ یہ کام بڑے عالی دماغ، زیر اور معاملہ فہم شخص کا ہے۔

یہ یاد رہے کہ امام رازیؑ نے جادو کی جو یہ آٹھ قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ صرف باعتبار لفظ کے ہیں کیونکہ عربی زبان میں سحر یعنی جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت طیف اور باریک ہوا اور ظاہر ہیں انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ اسی واسطے ایک حدیث میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے اور اسی لئے صبح کے اول وقت کو حور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے اور اس رُگ کو بھی سحر کہتے ہیں جو خدا کی جگہ ہے۔ ابو جہل نے بدر والے دن بھی کہا تھا کہ اس کی سحر یعنی رُگ طعام مارے خوف کے پھول گئی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، میرے سحر و خر کے درمیان رسول اللہ ﷺ کی قوت ہوئے تو نحر سے مراد رُگ غذا۔ قرآن میں بھی ہے سَحْرٌ وَّ أَعْيُنَ النَّاسِ یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اپنا کام مخفی کر کے انجام دیا۔ عبد اللہ قرطبیؓ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ جادو کے وقت جو چاہتا ہے کہ دیتا ہے گو حنزلہ اور ابو الحاق، اسزائی شافعی اس کے قاتل نہیں اور جادو بھی ہاتھ کی چالاکی سے بھی ہوتا ہے اور بھی ڈرروں دھاگوں سے بھی، کبھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے اس میں بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے۔

جادو اور شعر: ☆☆ کبھی شیاطین کا نام لے کر شیطانی کاموں سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ بھی جادوؤں وغیرہ کے ذریعہ سے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ حضورؐ کے اس فرمان کے مطابق کہ بعض بیان جادو ہیں، دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بطور تعریف کے آپ نے فرمایا ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور نہ صحت کے یہ ارشاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ حق معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ بھی میرے پاس تم مقدمہ لے کر آتے ہو تو ایک اپنی چوبی زبانی سے اپنے غلط دعویٰ کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ وزیر ابوالمظفرؓ یعنی بن محمد بن ہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”الاشراف علیٰ مذاہب الالہارف“ میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے لیکن ابوحنیفہ اس کے قاتل نہیں۔ جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تو کافر بتلاتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے بعض شاگردوں کا قول ہے کہ اگر جادو کو چھاؤ کے لئے سکھتے تو کافر نہیں ہوتا ہاں جو اس کا اعتقاد رکھے اور نفع دینے والا سمجھے وہ کافر ہے اور اسی طرح جو یہ خیال کرتا ہے کہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اور اتنی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بامیں والوں کا سا عقیدہ رکھتا ہو اور سات سیارہ ستاروں کو تاشیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے اگر یہ نہ ہو تو بھی اگر جادو کا جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام مالکؓ اور امام احمدؓ کا قول یہ بھی ہے کہ جادوگر نے جب جادو کیا اور جادو کو استعمال میں لایا، وہی اسے قتل کر دیا جائے۔ امام شافعیؓ اور امام ابوحنیفہؓ فرماتے ہیں جب تک بار بار نہ کرے یا کسی شخص میں کے بارے میں خود اقرار نہ کرے تب تک قتل نہ کیا جائے۔ تینوں امام فرماتے ہیں کہ اس کا قتل بوجہ حد کے ہے مگر امام شافعیؓ کا بیان ہے کہ یہ وجہ قصاص کے ہے۔

امام مالکؓ امام ابوحنیفہؓ اور ایک مشہور قول میں امام احمدؓ کافر مان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے۔ اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہے بھی اور امام شافعیؓ کا قول ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہو گی۔ امام احمدؓ کا ہی صحیح قول ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا جادوگر

بھی امام ابوحنینؑ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا لیکن تینوں اور اماموں کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے حضور پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے قتل کرنے کو نہیں فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہو تو اس کے بارے میں امام ابوحنینؑ فرماتے ہیں کہ وہ قید کر دی جائے اور تینوں کہتے ہیں اسے بھی مردکی طرح قتل کر دیا جائے۔ واللہ اعلم۔

حضرت زہریؓ کا قول ہے کہ مسلمان جادوگر قتل کر دیا جائے اور مشرک قتل نہ کیا جائے۔ امام مالکؓ فرماتے ہیں، اگر ذمی کے جادو سے کوئی مرجائے تو ذمی کو بھی مارڈا الناجا ہے۔ یہ بھی آپ سے مردی ہے کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ توبہ کر۔ اگر وہ کر لے اور اسلام قبول کرے تو خیر و رہ قتل کر دیا جائے اور یہ بھی آپ سے مردی ہے کہ اگرچہ اسلام قبول کر لے تاہم قتل کر دیا جائے۔ اس جادوگر کو جس کے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں اسے چاروں امام کافر کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے فلا تکفُر امام مالکؓ فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پالیا جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی جس طرح زندقی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی۔ اگر اس کے جادو سے کوئی مرگیا پھر تو بہر صورت مارا جائے گا۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں اگر وہ کہے کہ میں نے اس پر جادو مارڈا لئے کے لئے نہیں کیا تو قتل کی خطا کی دیت (جرمان) لے لیا جائے۔ جادوگر سے اس کے جادو کو اترانے کی حضرت سعید بن میتب نے اجازت دی ہے جیسے صحیح بخاری شریف میں ہے عامر شعیی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہلا تے لیکن خوبیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیوں جادو کھلوانے نہیں؟ تو آپؓ نے فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفادے دی اور میں لوگوں پر براہی انشاء کرنے سے ڈرتا ہوں۔

حضرت وہبؓ فرماتے ہیں بھری کے سات پتے لے کر سل بٹے پر کوت لئے جائیں اور پانی ملا لیا جائے۔ پھر آیت الکری پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے اور جس پر جادو کیا گیا ہے، اسے تین گھونٹ پلا دیا جائے اور باقی پانی سے عسل کر دیا جائے ان شاء اللہ جادو کا اثر جاتا ہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لئے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو ازال کرنے کے لئے سب سے اعلیٰ چیز قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کی سورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اسی طرح آیت الکری بھی شیطان کو فرع کرنے میں اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔

**يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظَرْنَا وَاسْمَعُوا**  
**وَلِلَّهِ الْكِفَرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُمَا يَوْمٌ هُمَا يَوْمٌ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ**  
**أَهْلِ الْكِتْبٍ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ**  
**فِنْ رَبِّكُمْ هُوَ اللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ هُوَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ**  
**الْعَظِيْمُ هُوَ**

اے ایمان والو! تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو۔ کافروں کے لئے دردناک عذاب ہیں ۝ نتوالیں کتاب کے کافر چاہے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو (ان کے حد کیا ہوا) اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ بڑے فعل والا ہے ۝

مسلمانوں کی صورت، لباس اور زبان میں مشابہت سے بچو! ☆☆ (آیت: ۱۰۳-۱۰۵) اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ از زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برائیت تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سننے تو کہتے تھے راعنا اور مراد اس سے رعنونت اور سرکشی لینے تھے جیسے اور جگہ بیان ہے میں الَّذِينَ هَادُواْ لِعِنْ يَهُودِيُّوْمِ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلاحیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سننے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ اپنی زبانوں کو موزوٰ توڑ کر اس دین میں طعنہ زدنی کے لئے راعنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سا اور مانا ہماری بات سننے اور ہماری طرف توجہ کیجیے تو یہاں کے لئے بہتر اور مناسب ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھیک دیا ہے۔ اس میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے ہیں تو السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہتے ہیں اور سام کے معنی صوت کے ہیں تو تم ان کے جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہا کرو۔ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہوگی الغرض قول و فعل میں ان سے مشابہت کرنا منع ہے۔ مند احمد کی حدیث میں ہے، میں قیامت کے قریب تکوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلتکھی ہے، ذلت اور پستی اس کے لئے ہے جو میرے احکام کے خلاف چلا کرے اور جو شخص کسی (غیر مسلم) قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ پچھلا حصہ مردوی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، لباس، عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لئے مشرد ع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے اور اس پر شریعت میں عذاب کی دلکشی اور سخت ڈرا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا یہا اللَّذِينَ امْنُوا سنتو کان لگا دا اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا حکم ہو گایا کسی برائی سے ممانعت ہو گی حضرت خیلہ فرماتے ہیں توراۃ میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا یہا الْمَسَاكِينَ فرمایا ہے لیکن امت محمدی کو یا یہا اللَّذِينَ امْنُوا کے معزز خطاب سے یاد فرمایا ہے۔ راعنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں بروزن عاطِنا۔ حضرت مجاهد فرماتے ہیں اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں یعنی خلاف نہ کہا کر۔ اس سے یہ بھی مردوی ہے کہ مطلب یہ کہ آپ ہماری سننے اور ہم آپ کی سنیں۔ انصار نے بھی یہی لفظ حضورؐ کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا جس سے قرآن پاک نے انہیں روک دیا۔

حسن فرماتے ہیں راعن کہتے ہیں (راعن مذاق کی بات کو کہتے ہیں) یعنی تم حضورؐ کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو حجرؓ کہتے ہیں، جب حضورؐ جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی، وہ کہتے اپنا کان ادھر کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ سدیؓ کہتے ہیں رفاس بن زید یہودی حضرت محمد ﷺ سے باشیں کرتے ہوئے یہ لفظ کہا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے کہ یہ لفظ ادب کے ہیں، یہی لفظ بولنے شروع کر دیے جس پر انہیں روک دیا گیا جیسے سورہ نباء میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمہ کو اللہ نے بر اجاتا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا جیسے حدیث میں آیا ہے کہ انگوڑ کو کرم اور غلام کو عبد شہ کہو وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ ان بد بال طن لوگوں کے حسد و بغض کو بیان فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں جو اس کامل نبی کے ذریعہ کامل شریعت ملی ہے اس سے یہ جل بھن رہے ہیں۔ اس سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عنایت فرمائے۔ وہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے۔

**مَآتَنْسَخَ مِنْ أَيَّةٍ وَنُسِّهَا نَاتٍ يُخَيِّرُ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا إِلَّا  
تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُنَّ الَّذِينَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ  
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٌ**

جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ۵۰ کیا تجھے علم نہیں کر زمین اور آسمان کا ملک اللہ کے لئے ہے؟ اور اللہ کے سوتھا رکنی ولی اور مدگار نہیں ۵۰

تبدیلی یا تغییر - اللہ تعالیٰ مختار کل ہے: ☆☆ (آیت: ۱۰۶: ۱۰۷) حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں، تغییر کے معنی بدلت کے ہیں۔ مجاہدؓ فرماتے ہیں، مثانے کے معنی ہیں جو (بھی) لکھنے میں باقی رہتا ہے اور حکم بدلت جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کے شاگرد اور ابوالعلائیہؓ اور محمد بن کعبؓ قرآنی سے بھی اسی طرح مردی ہے۔ ضحاکؓ فرماتے ہیں۔ بھلا دینے کے معنی ہیں۔ عطا فرماتے ہیں، چھوڑ دینے کے معنی ہیں۔ سدی کہتے ہیں، اٹھائی لینے کے معنی ہیں جیسے آیت الشیخ و الشیخة ادا زینا فارجُحُمُهُمَا الْبَتْهَ یعنی زانی مرد و عورت کو سنگسار کر دیا کرو اور جیسے آیت لو کان لابن ادم و ایوان من ذہب لا بنتی لہمما ئالا ناعنی این آدم کو اگر دو جنگل سونے کے مل جائیں جب بھی وہ تیسرے کی جگہ تو میں رہے گا۔ امام ابن حجر ؓ فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ۔ امر و نہیں روک اور خصت، جائز اور منسوخ کاموں میں تغییر ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں رو بدلت و ناجائز و منسوخ نہیں ہوتا۔

تغییر کے لفظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلتے دوسرا حکم ہوتا ہے اس لئے تغییر کہتے ہیں خواہ وہ حکم کا بدلت جانا ہو خواہ الفاظ کا۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلہ میں گوئی مختلف ہیں مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک ہی ہیں۔ تغییر کے معنی کی حکم شرعی کا بھی دلیل کی رو سے ہٹ جانا ہے۔ کبھی بھلی چیز کے بدلتے بھاری اور کبھی بھاری کے بدلتے بھلی اور کبھی کوئی بدلتی نہیں ہوتا ہے۔ تغییر کے احکام اس کی قسمیں، اس کی شرطیں وغیرہ ہیں۔ اس کے لئے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ تفصیلات کی بسط کی جگہ نہیں۔ طبرانیؓ میں ایک روایت ہے کہ دو شخصوں نے نبی ﷺ سے ایک سورت یاد کی تھی۔ اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند سے پڑھنا چاہا لیکن یاد نے ساتھ نہ دیا، گھبرا کر خدمت نبویؓ میں حاضر ہوئے اور حضورؐ سے اس کا ذکر کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ یہ منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی۔ دلوں میں سے نکال لی گئی۔ تم غم نہ کرو۔ بلکہ جو جاؤ۔

حضرت زہریؓ نوں ضعیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کے ایک راوی سلیمان بن راقم ضعیف ہیں۔ ابو بکر انباریؓ نے بھی دوسری سند سے اسے مرفوع روایت کیا ہے جیسے قرطبی کا کہتا ہے۔ ننسیہا کو ننساہا بھی پڑھا گیا ہے۔ ننساہا کے معنی موخر کرنے پہچے ہٹا دینے کے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں۔ ابن مسعودؓ کے شاگرد کہتے ہیں یعنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں لیکن حکم کو بدلت دیتے ہیں۔ عبد بن عیمرؓ مجاہدؓ اور عطاءؓ سے مردی ہے، ہم اسے موخر کرتے ہیں اور ملتوی کرتے ہیں۔ عطاءؓ عوفی کہتے ہیں۔ یعنی منسوخ نہیں کرتے۔ سدیؓ اور ربعیؓ بھی بھی کہتے ہیں۔ ضحاکؓ فرماتے ہیں، ناسخ کو منسوخ کے پیچے

رکتے ہیں۔ ابوالعالیٰ یہ کہتے ہیں اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں۔ حضرت عزّ نے خطبہ میں ننساھا پڑھا اور اس کے معنی موخر ہونے کے بیان کئے۔ ننساھا جب پڑھیں تو یہ مطلب ہو گا کہ ہم اسے بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کو انھیلنا چاہتا تھا وہ نبی ﷺ کو بھلا دیتا تھا۔ اس طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی و قاص ننساھا پڑھتے تھے تو ان سے قسم بن ربیعؓ نے کہا کہ سعید بن میتب تو ننساھا پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا سعید پر یا سعید کے خاندان پر تو قرآن نہیں اترتا؟! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُقْرِئُكَ فَلَا تَشْتَيْ هُمْ تَجْهَىْ پڑھائیں گے جسے تو نہ بھولے گا اور فرماتا ہے وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَيْسَتْ جب بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر۔

حضرت عمرؓ کا فرمان ہے کہ علی سب سے اچھا فصلہ کرنے والے ہیں اور ابی سب سے زیادہ اچھے قاری قرآن کے ہیں اور ہم ابی کا قول چھوڑ دیتے ہیں اس لئے کہ ابی کہتے ہیں میں نے تو جو رسول اللہ ﷺ سے سنائے ہیں اسے نہیں چھوڑ دوں گا اور فرماتے ہیں مانشیخ الخ یعنی ہم جمنسوخ کریں یا بھلا دیں اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا (بخاری و مسند احمد) اس سے بہتر ہوتا ہے یعنی بندوں کی سہولت اور ان کے آرام کے لحاظ سے یا اس جیسا ہوتا ہے لیکن مصلحت الہی اس سابقہ چیز میں ہوتی ہے۔

ملکوق میں تغیر و تبدل کرنے والا پیدائش اور حکم کا اختیار رکنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح ہے چاہتا ہے بناتا ہے جسے چاہے نیک بخختی دیتا ہے۔ جسے چاہے بد بخختی دیتا ہے۔ جسے چاہے تندرستی دے جسے چاہے یہاری دے۔ جسے چاہے توفیق دے۔ جسے چاہے بے نصیب کر دے۔ بندوں میں جو حکم چاہے جاری کرے جسے چاہے حلال ہے چاہے حرام فرمادے۔ جسے چاہے رخصت دے۔ جسے چاہے روک دے۔ وہ حاکم مطلق ہے جسے چاہے احکام جاری فرمائے۔ کوئی اس کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے۔ کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا۔ پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو بنا دیا، اب آزمائش ہوتی ہے نیک لوگ اس وقت بھی اطاعت کے لئے کمرستہ تھے اور اب بھی ہیں لیکن بد باطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں حالانکہ تمام ملکوق کو اپنے خالق کی تمامی مانی چاہیں اور ہر حال میں رسول کی پیروی کرنی چاہئے اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا مانا چاہئے۔ جو حکم دے جبالا نا چاہئے۔ جس سے روکے رک جانا چاہئے۔

اس مقام پر بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نئی کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے تھے اس میں محال عقلی لازم آتا ہے اور بعض محال نعلیٰ بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گوخطاب فخر عالم ﷺ کو ہے مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سناتا ہے جو انہیں کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورۃ کے مفہوم ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی مکہر ہو گئے تھے اور صرف عناد و تکبر کی بنا تھی ورنہ عقلائی محال نہیں۔ اس لئے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں با اختیار ہے اسی طرح اپنے حکموں میں بھی با اختیار ہے۔ جو چاہے اور جب چاہے پیدا کرے۔ جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے۔ اسی طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے۔ اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اسی طرح نقاہ بھی یہ ثابت شدہ امر ہے۔ اگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔

حضرت آدمؐ کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے لیکن نکاح جائز تھا۔ پھر اسے حرام کر دیا۔ نوچ علیہ الاسلام جب کشتی سے اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حال عالیٰ تھا لیکن پھر بعض کی حلت مخصوص ہو گئی۔ دو بہنوں کا کھانہ اسرا نکل اور ان کی اولاد پر حلال تھا لیکن پھر تواریق میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابرا ہم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا پھر قربان کرنے سے پہلے ہی مخصوص کر دیا۔ جو اسرا نکل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بھیڑا پوچھتے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر دا لیں لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ یہ حکم مخصوص ہو جاتا ہے۔ اسی

طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اور خود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے لیکن پھر بھی قرآن اور نبی آخرا زمان ﷺ کو یہ کہہ کرنیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نفع لازم آتا ہے اور وہ حال ہے۔

بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔ آنحضرت ﷺ کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ آپ کی تابع داری کا حکم بھی دیکھتے تھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جعل نہ ہو وہ مقبول نہیں ہو گا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہہ کر اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں۔ اس لئے یہ شریعت ان کی نفع نہیں یا کہے کہ نفع ہے۔ بہر صورت رسول ﷺ کی تابع داری کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لئے کہ آپ آخری کتاب کو اللہ کے پاس سے ابھی ابھی لے کر آئے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفع کے جواز کو بیان فرمایا کہ اس ملعون گروہ یہود کا روکا دیا گیا۔

سورہ آل عمران میں بھی جس کے شروع میں نبی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے نفع کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرماتا ہے ٹکٹک  
الطَّعَامُ إِنْ لَيْسَ بِجُنَاحِكُمْ كَمَا نَهَىٰكُمْ مِّنَ الْحَلَالِ تَحْلِيلُكُمْ مِّنَ الْحَلَالِ إِنْ لَيْسَ بِجُنَاحِكُمْ  
گی ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمان کل کے کل متفق ہیں کہ احکام باری تعالیٰ میں نفع کا ہونا جائز ہے بلکہ واقع بھی ہے اور پروردگار کی حکمت بالغ کا دستور بھی یہی ہے ابو مسلم اصحابی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں نفع واقع نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ قول ضعیف اور مردود اور محض غلط اور بحوث ہے۔ جہاں نفع قرآن میں موجود ہے اس کے جواب میں گو بغض نے بہت منت سے اس کی تردید کی ہے لیکن محض بے سود دیکھنے پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوند مر جائے ایک سال تھی لیکن پھر چار مہینے دس دن ہوئی اور دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس قا پھر کعبۃ اللہ ہوا اور دوسرا آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمانتہ کو رہے پہلے کے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک ایک مسلمان دس دس کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر کے دو دو کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا اور دونوں آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور دونوں آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وغیرہ وغیرہ واللہ اعلم۔

**أَفَمُرْيَدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِهِ  
وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفَّارُ إِلَّا إِيمَانُهُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلُ**

کیا تم اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موئی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا (سن) ایمان کو کفر سے بدلتے والا سیدھی راہ سے بہلک جاتا ہے ۰

کثرت سوال مجتبازی کے مترادف ہے! ☆☆ (آیت: ۱۰۸) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ یہ کثرت سوال کی عادت بہت بڑی ہے۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے یا إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِيمَانِهِمْ وَالوَالِوَانِ چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برائے گئے گا اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانہ میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ باقی طاہر کر دی جائیں گی۔ کسی بات کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی۔ پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور سے سوال ہوا کہ ایک

فُحْصٌ أَنْتِي بِيُوْيٰ كَسَاتِحِ غِيْرِ مَرْدٍ كَوْپَايْتَهُ تُؤْكِيَا كَرَے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمنی کی بات ہے اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے، حضور کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخراً شخص کو ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔

صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ فضول بکواس مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، میں جب تک کچھ نہ کہوں، تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے بلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجالا و اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو کسی نے کہا حضور ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ہر سال نہیں لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم بھی بھی اس حکم کو بجا نہ لاسکتے پھر آپ نے مندرجہ بالا فرمان ارشاد فرمایا حضرت انسؓ فرماتے ہیں۔ جب میں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور سے پوچھنے میں بہت کھاتے تھے چاہتے تھے کہ کوئی بادی نہیں ناواقف شخص آجائے وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں، میں کوئی سوال حضور سے کرنا چاہتا تھا تو سال سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے جیت کے پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور حضور سے سوال کر بیٹھے۔ پھر ہم بھی سن لیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، اصحاب محمد ﷺ سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ انہوں نے حضور سے صرف اس بارہ ہی مسئلے پوچھنے جو سب سوال مع جواب کے قرآن پاک میں مذکور ہیں جیسے شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے ہمینوں کی بابت کا سوال، تمہیں کی بابت کا سوال وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر ”ام“ یا ”وقمل“ کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں ہے یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے۔ یہ حکم مون کافر سب کو ہے کیونکہ حضور کی رسالت سب کی طرف تھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے یَسْأَلُكُ أَهْلُ الْكِتَابَ تَجْهِيزَ سَوْالَ كرتے ہیں کہ تو ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تندو تیز آواز سے بلاک کر دیا گیا۔ رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جسے ہم پر دھیس اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ گومن لیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔

ابوالعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح نبی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا، آپ نے یہ سنتے ہی تین دفعہ جناب پاری تعالیٰ میں عرض کی کہ نہیں الہی نہیں۔ ہم نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا۔ سنو۔ ہوا سرائیل میں سے جہاں کوئی گناہ کرتا، اس کے دروازے پر قدر تک لکھا ہوا پایا جاتا اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب یا تو دنیا کی رسولی کو منظور کر کے کفارہ ادا کر دے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسولی منظور کرے لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا یعنی جس سے کوئی برآ کام ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر استغفار کرے تو وہ اللہ کو، بہت برا بخشش اور ہم برآنی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ پھر جعد وسرے جمع تک کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو جو شخص برآنی کا ارادہ کرے لیکن برآنی نہ کرے تو برآنی لکھی نہیں جاتی اور اگر کر گذرے تو ایک ہی برآنی لکھی جاتی ہے اور اگر بھلائی کا ارادہ کرے پھر گونہ کرے لیکن بھلائی لکھی جاتی ہے اور اگر کر بھی لے تو دس بھلائیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ تم اچھے رہے یا نبی اسرائیل؟ تم نبی اسرائیل سے بہت ہی اچھے ہو۔ ہاں باوجود اتنے کرم اور رحم کے پھر بھی کوئی بلاک جو تو سمجھو کر یہ خود بلاک ہونے والا ہی تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قریشیوں نے حضورؐ سے کہا کہ اگر صفا پہاڑ سے کا ہو جائے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اچھا لیکن پھر ماندہ (آسمانی دستر خوان) مانگنے والوں کا جو انجمام ہوا وہی تمہارا بھی ہو گا۔ اس پر وہ انکاری ہو گئے اور اپنے سوال کو چھوڑ دیا۔ مراد یہ ہے کہ تکبیر، عناد، رکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت نذموم حرمت ہے۔ جو کفر کو ایمان کے بد لے مول لے اور آسانی کوختی سے بد لے وہ سیدھی راہ سے بہ کر جہالت و مظلالت میں گھر جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوال کرنے والا بھی۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ ترالی اللذینَ بَدَّلُوا كِيَا تو انہیں نہیں دیکھتا جو اللہ کی نعمت کو فرستے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی برقی قرار گاہ ہے۔

**وَذَكَرْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ  
كُفَّارًا هُنَّ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ  
فَاقْعُفُوا وَاصْفِحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْا الرَّزْكَوَةَ وَمَا تَقْرَبُوا لِأَنفُسِكُمْ  
مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ با جو حق کمل جانے کے محض حد و نفع کی بنابری تھیں بھی ایمان سے ہٹا دیا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دیہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۝ تم نمازیں قائم رکو۔ زکو دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھائی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے ۝

قوى عصیت باعث شقاوت ہے: ☆☆ (آیت: ۱۰۹-۱۱۰) ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ حبی بن اخطب اور ابو یاس بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاصل تھے۔ لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عرب سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا۔ زہریٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں حضرتؐ کی ہجوم کیا کرتا تھا۔ گوان کی کتاب میں حضورؐ کی تقدیم موجو تھی اور یہ تجویزی حضورؐ کی صفتیں جانتے تھے اور آپؐ کو اچھی طرح پیچانتے تھے پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تقدیم کر رہا ہے۔ ایک ای اور ان پڑھو وہ کتاب پڑھتا ہے جو سرا سر صحیح ہے لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ عرب میں آپ کیوں مبعوث ہوئے۔ کفر و انکار پر آمامہ ہو گئے بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگذر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جیسے اور جگہ فرمایا تھیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننی پڑیں گی مگر بعد میں حکم نازل فرمادیا کہ ان مشرکین سے اب دب کر نہ رہو۔ ان سے لڑائی کرنے کی تھیں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضورؐ اور آپؐ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگذر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا تھے یہاں تک کہ دوسرا آیتیں اتریں اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنابچاؤ کرنے کا حکم ملا اور بھلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچکیں۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو۔ یہ تھیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کوئی

چھوٹا بڑا، چھپا، کھلا، اچھا، برا عالم پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لئے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ مبصیر کے بدے بصیر کہا جیسے مبدع کے بدے بیدیع اور مولیم کے بدے الیم۔ ابن الہی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس آیت میں سمیع، بصیر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔

**وَقَالُوا لَنْ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَدًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ**  
**أَمَا نَيْهُمْ قُلْ هَاتُوا بِرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ لَهُ بَلَىٰ مَنْ**  
**آسَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا**  
**خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ لَهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ**  
**عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَاتَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَلَهُمْ**  
**يَتَّلُوُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ**  
**فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَنْتَلِفُونَ لَهُ**

۶

یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصاری کے سوا اور کوئی نہ جائے گا یہ صرف ان کی انگلیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم پچھے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو ○ سن جو بھی اپنے تینی خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دئے یہیک اسے اس کارب پورا بدل دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہو گا نہ اور نہ ادا اسی ○ یہود کہتے ہیں کہ نفرانی حق پر نہیں اور نفرانی کہتے ہیں کہ یہود نہیں۔ حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا ○

شیطان صفت مغروف یہودی: ☆☆ (آیت: ۱۱۲-۱۱۳) یہاں پر یہود یوں اور نصرانیوں کے غور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہو گا؟ اسی طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گذر رہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ لا و دلیل پیش کرو۔ انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں جو کوئی بھی اللہ کا فرمایہ دار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ یہیک عمل کرے اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر ہنگلیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے مانے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کر دیئے۔ غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لئے شرط ہے تو اسلام و نجہہ سے مراد خلوص اور وہو مُحْسِنٌ سے مراد اتباع سنت ہے۔ زا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کر سکتا جب تک سنت کی تابع داری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے (مسلم)۔

پس رہبانیت کا عمل گو خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَقَدِ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَاءُنَّهُمْ بَهَاءً مُّنْثُرًا یعنی انہوں نے جو اعمال کئے تھے ہم نے سب روکر دیئے

دوسرا جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے حکمیلے تو وہ کی طرح ہیں جنہیں پیاساپانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی۔ جعل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھرکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھوتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ حضرت امیر المؤمنین عرب بن خطابؓ نے اس آیت کی تفسیر میں مراد یہ دو نصاریٰ کے علماء اور عابد لئے ہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو۔ مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریا کا راو منافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اللہ کو ہو کر دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ان نمازوں کے لئے دیل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریا کاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اَنْجِفُخْس اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہئے۔ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوششیک نہ کرنا چاہئے پھر فرمایا انہیں ان کا رب اجر دے گا اور ڈرخوف سے بچائے گا۔ آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں۔ پھر یہود و نصاریٰ کی آپس کی بعض وعداًت کا ذکر فرمایا، بخراں کے نصرانیوں کا وفد جب نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے۔ اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بیتا یا حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں تو رواۃ میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں تو رواۃ کی تصدیق موجود ہے۔ پھر ان کا یہ قول کس قدر لغوف ہے۔ اگلے یہود و نصاریٰ دین حق پر قائم تھے لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پر دازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھپن گیا۔ اب نہ یہود بدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جانے والوں نے بھی اسی طرح کہا، اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے اور بعض نے کہا، مراد اس سے یہود و نصاریٰ سے پہلے کے لوگ ہیں بعض کہتے ہیں، عرب لوگ مراد ہیں۔ امام ابن حجر ریاض سے عام لوگ مراد لیتے ہیں گویا سب شامل ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ اختلاف کا فصل قیامت کو خود اللہ کرے گا۔ جس دن کوئی ظلم وزور نہیں ہو گا اور یہی مضمون دوسرا جگہ بھی آیا ہے۔ سورہ حج میں ارشاد ہے ان اللہ فیصل بَيْنَهُمْ (پوری آیت) یعنی موننوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور محسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ فیصل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہے اور جگہ ارشاد ہے قُلْ يَعْمَلُ بَيْنَنَا رَبُّنَا کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا۔ پھر حق کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ وہ باخیر فیصلے کرنے والا ہے۔

**وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسِيْحَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا إِسْمُهُ وَسَعَى  
فِي خَرَابِهَا أَوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَذْكُرُوهَا إِلَّا خَالِفِينَ  
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَزَرٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

اس شخص سے بڑھ کر ظالمون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کئے جانے کو روکے اور ان کی بر بادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جاتا چاہئے۔ ان کے لئے دیا میں بھی رسولی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں ۰

نصاریٰ اور یہودی مکافات عمل کا شکار: ☆☆ (آیت: ۱۱۲) اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصاریٰ

ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لئے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی، بخت نصر بالبل کارپنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اس لئے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور مشرکین نے بھی رسول اللہ ﷺ کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا۔ یہاں تک کہ ذی طوی میں آپؐ کو قربانیاں دینا پڑیں اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپؐ وہیں سے واپس آگئے حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روک دیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول ہے۔ ابن جریرؓ نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے۔ یہ سعی نصاریٰ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے درپے ہو گئے تھے۔ لیکن حقیقت میں دوسرا قول نیزادہ صحیح ہے۔ ابن زیدؓ اور حضرت عباسؓ کا قول بھی یہی ہے اور اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہئے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا، اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے۔ ان پر تو حضرت داؤدؓ اور حضرت عیسیٰ بن مریمؓ کی زبانی لغتیں نازل ہو چکی تھیں۔ وہ نافرمان اور حمد سے متباہ ہو چکے تھا اور نصرانی حضرت سعیؓ کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہود و نصاریٰ کی مذمت بیان ہوئی تھی اور یہاں مشرکین عرب کی اس بد خصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضورؐ کو اور آپؐ کے صحابیوںؓ کو مسجد الحرام سے روکا، مکہ سے نکلا۔ پھر حج وغیرہ سے بھی روک دیا۔

امام ابن جریرؓ کا یہ فرمان کہ مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشش نہ تھے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت بخادینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے وَهُم يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جگہ فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا لِنَحْنُ يَعْلَمُونَ لَوْلَمْ يَجِدُوا مَسْجِدًا مِّنَ اللَّهِ كَيْفَ يَجِدُونَ مَسْجِدًا آباد نہیں ہو سکتیں۔ جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو بیشہ کے لئے چھپنی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نمازوں کو کوئی کاچھ نہ اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں۔ یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اور جگہ فرمایا هُمُ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَنَحْنُ لَوْلَمْ يَجِدُوا مَسْجِدًا میں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کے ذمکر ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا، اگر ہمیں ان مومن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کے باعث مکہ سے نہیں نکل سکے جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہوتے، ہم تمہیں ان سے لے کر ان کے غارت کردیے کا حکم دیتے لیکن یہ بے گناہ مسلمان نہ پس دئے جائیں۔ اس لئے ہم نے سر دست یہ حکم نہیں دیا لیکن یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز شدائے تو وہ وقت دونہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑیں۔ پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہی روک دینے گئے تو مسجدوں کے اجارائے میں کوئی کمی رہ گئی؟ مسجدوں کی آبادی صرف ظاہری ازیب وزینت رنگ و رونگ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں ذکر اللہ ہوتا، اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک اور ظاہری میں کچھ سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں لا اق نہیں کہ بے خونی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو، ہم کی رہ گئی؟ مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہی روک دینے گئے تو مسجدوں کے اجارائے میں کوئی کمی رہ گئی؟ مسجدوں کی آبادی صرف ظاہری ازیب وزینت رنگ و رونگ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں ذکر اللہ ہوتا، اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک اور ظاہری میں کچھ سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی ہے وہ قائم ہے۔ یہ حکم در اصل تصدیق اور عمل ہے اس آیت پر یا یہاں الْذِينَ آمُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَعَسْ

فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا يعنی مشرک لوگ جس ہیں اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو اور یہ معنی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ جا ہے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کا نپتے ہوئے اور خوف زدہ مسجد میں آئیں لیکن برخلاف اس کے ائمہ یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں غلبہ دوں گا اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپکانے لگیں گے چنانچہ بھی ہوا اور حضور علیہ السلام نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہنے پائیں اور یہود و نصاریٰ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔

الحمد للہ کہ اس امت کے بزرگوں نے اس وصیت رسول پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس سے مسجدوں کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی بالخصوص اس جگہ کی اور مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول محمد ﷺ بھیجے گئے تھے۔ ان کفار پر دنیا کی رسوائی بھی آئی جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلاوطن کیا، ٹھیک اس کا پورا بدلہ انہیں ملا۔ یہ بھی روکے گئے جلاوطن کے گئے اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں کیونکہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی حرمت توڑی۔ وہاں بت مٹھائے غیر اللہ سے دعائیں اور مناجاتیں شروع کر دیں۔ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ اور اگر اس سے مراد فرانی لئے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی بالخصوص اس صخرہ (پھر) کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے اسی طرح جب یہود یوں نے بھی نصرانیوں سے بہت زیادہ ہٹک کی تو ان پر ذلت بھی اس وجہ سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدیؑ کے زمانہ کی رسوائی بھی ہے اور جزیہ کی ادائیگی بھی ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعاوارد ہوئی ہے اللہُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْرُنَا مِنْ حَزْنِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ اَنَّ اللَّهَ تَهْمَمَنَا مَوْلَانَا كَمَا مَوْلَى اَهْلَكَهُ وَرَبَّنَا كَمَا رَبَّنَا وَلَا كَمَا مَوْلَى اَهْلَكَهُ وَرَبَّنَا كَمَا رَبَّنَا وَلَا كَمَا مَوْلَى اَهْلَكَهُ وَرَبَّنَا

ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر اور دنیا کی رسوائی اور آخوند کے عذاب سے نجات دے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ مند احمد میں موجود ہے۔ صحاح ستہ میں نہیں۔ اس کے راوی بشر بن ارطاءؓ صحابی ہیں۔ ان سے ایک تو یہ حدیث مردوی ہے جس میں ہے کہ غزوہ اور جنگ کے موقع پر ہاتھ نہ کائیں۔

## وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِيَّنَمَا تُولُّوْا فَشَّمَ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ هُوَ

اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم چہ در بھی منہ کر دا ہر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور سائی والا اور بڑے علم والا ہے ۰

کعبہ صرف علامت وحدت و سمت ہے۔ اللہ کا جمال و جلال غیر محدود ہے : ☆☆ (آیت: ۱۱۵) اس آیت میں نبی ﷺ اور آپ کے ان اصحابِ تولیٰ دی جاری ہے جو مکہ سے نکالے گئے تھے اور اپنی مسجد سے روکے گئے۔ حضور مکہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو رسولہ سترہ ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب ناسخ منسوخ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وارد کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوب حکم یہی قبلہ کا حکم ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالَّتِی آیت نازل ہوئی حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے پھر آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اخْ نازل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنی شروع کی۔

مدینہ میں جب حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ

ہوا اور آپ کو اپنی چاہت دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان یہودیوں نے طعنہ دینے شروع کر دیئے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا؟ جدھر اس کا حکم ہو پھر جانا چاہئے۔ حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مردی ہے کہ مشرق مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبہ کی طرف کرو بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے اور مطلب یہ ہے کہ مشرق مغرب جدھر چاہو منہ پھر وہ سب جھتیں اللہ کی ہیں اور سب طرف اللہ موجود ہے اس سے کوئی جگہ خالی نہیں جیسے فرمایا وَ لَا أَذْنِي مِنْ ذِلْكَ وَ لَا أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آئِنَّ مَا كَانُوا تَحْوِرُهُ۔ بہت جو بھی ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔

پھر یہ حکم منسوخ ہو کہ کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو یہ لفظ ہیں کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں اگر اس سے مراد علم اللہ ہو تو صحیح ہے۔ کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں اور اگر ذات باری مراد ہو تو تمیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں مخصوص ہو۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور رہ روی اور خوف کے وقت کے لئے ہے کہ ان وقوف میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کریا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ان کی اونٹی کامنہ جس طرف ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور کا طریقہ بھی تھا اور اس آیت کا مطلب بھی بھی ہے۔ آیت کا ذکر کئے بغیر یہ حدیث مسلم ترمذی نسائی ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں مردی ہے اور اصل اس کی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عزرؓ سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے پڑھ لیا کرو ممنہ خواہ قبلہ کی جانب ہو خواہ نہ ہو۔ حضرت نافعؓ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ میرے خیال سے اسے مرفوع بیان کرتے تھے۔ امام شافعیؓ کا مشہور فرمان اور امام ابو حنیفہؓ کا قول ہے کہ سفر خواہ پر امن ہو خواہ خوف ڈراور لڑائی کا ہو سواری پر نفل ادا کر لینے جائز ہیں امام مالکؓ اور آپؓ کی جماعت اس کے خلاف ہے۔ امام ابو یوسفؓ اور ابو سعید اصطخرؓؓ بغير سفر کے بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ حضرت انسؓ سے بھی یہ روایت ہے امام ابو جعفر طبریؓ بھی اسے پسند فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلنے والے کو بھی رخصت دیتے ہیں۔

بعض اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہو سکا اور انہوں نے انکل سے مختلف جہتوں کی طرف نماز پڑھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی وہ نماز ادا شدہ بتلائی گئی۔ حضرت ربیعہؓ فرماتے ہیں، ہم نبی ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک منزل پر اترے۔ رات اندھیری تھی۔ لوگوں نے پتھر لے کر بطور نشان کے قبلہ رخ رکھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صحیح ائمہ کروشنی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف ادا نہیں ہوئی تھی؛ ہم نے حضورؐ سے ذکر کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے امام صاحب نے اسے حسن کہا ہے اس کے دوراوی ضعیف ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت گھٹاؤپ اندر چھڑا چھایا ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کر اپنے اپنے سامنے خط کھیج دیئے تھے تاکہ صحیح روشنی میں معلوم ہو جائے کہ نماز قبلہ کی طرف ادا ہوئی یا نہیں؟ صحیح معلوم ہوا کہ قبلہ جانے میں ہم نے غلطی کی لیکن حضورؐ نے ہمیں وہ نماز لوتانے کا حکم نہیں دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے بھی دو روای ضعیف ہیں۔ یہ روایت دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ حضورؐ نہ تھے۔ یہ بھی سندا ضعیف ہے۔ ایسی نماز کے لوتانے کے پارے میں علماء کے دوقول میں سے تمیک قول بھی ہے کہ دو ہر ایسی نہ جائے اور اسی قول کی تائید کرنے والی یہ حدیثیں ہیں۔

جو اور پیان ہوئیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے۔ جب نبی ﷺ نے ان کی موت کی خبر دی اور کہا ان کے جنازہ کی غائبانہ نماز پڑھو تو بعض نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہ تھا۔ نصرانی تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ إِلَّا خَلَقْنَاهُمْ بِعْضَ أَهْلِ كِتَابٍ ثُمَّ أَخْرَجْنَاهُمْ بِعْضَ أَهْلِ كِتَابٍ طرف نازل ہوئی اور اس چیز پر جوان پر نازل کی گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ صحابہؓ نے کہا حضورؐ کی طرف تو نمازیں پڑھتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیکن یہ روایت غریب ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے معنی میں یہ بھی کئے گئے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لئے نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ قرطی فرماتے ہیں ان کے جنازے کی نماز حضورؐ نے پڑھی اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہئے۔ اور اس کے نہ ماننے والے اس حکم کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی تین تاویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے جنازے کو دیکھ لیا۔ زمین آپ کے لئے سمیٹ لی گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے والا اور کوئی نہ تھا، اس لئے آپ نے یہاں غائبانہ ادا کی۔ ابن عربی اسی جواب کو پسند کرتے ہیں۔ قرطیؓ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کی قوم کا کوئی شخص اس کے پاس مسلمان نہ ہو۔ ابن عربیؓ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز ان کی شریعت میں نہ ہوئیہ جواب بہت اچھا ہے تیری یہ کہ یہ نماز آپ نے اس لئے ادا کی کہ دوسرے لوگوں کی رغبت کا سبب ہو اور اس جیسے دوسرے بادشاہ بھی دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔

(لیکن یہ تینوں تاویلیں ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف اختلاف کی بنا پر ہیں اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ وہ ہیں رہتا ہے کیا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہئے کیونکہ گو حضورؐ نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا لیکن صحابہؓ کی نماز تو غائبانہ ہی رہی۔ اگر ہم دوسرے جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ نہ ہو۔ جو لوگ سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی نہیں وہ تو اس صورت میں بھی قائل نہیں ہیں اور یہ بات تو دل کوئی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ مشروع نہ ہو۔ شریعت ان کی بھی اسلام تھی نہ کہ کوئی اور۔ تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے اور برقدر یہ تسلیم اب بھی وہ وجہ باتی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو۔ واللہ اعلم۔ مترجم)

ابن مردویہ میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اہل مدینہ اہل شام اہل عراق کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی دوسرے الفاظ سے مردی ہے اور اس کے ایک راوی ابو معشر کے حافظ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ امام ترمذیؓ نے اسے ایک اور سند سے بھی وارد کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ علی ابن ابوطالبؓ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہ مردی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں۔ جب تو مغرب کو اپنی دائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گا۔ حضرت عمرؓ سے بھی اوپر کی طرح حدیث مردی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ملاحظہ ہو دارقطنی، یہی حق وغیرہ۔ امام ابن جریرؓ فرماتے ہیں۔ یہ مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیں مانگنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو میرا منہ بھی اسی طرف پاؤ گے اور میں تمہاری دعاوں کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت مجاہدؓ سے مردی ہے کہ جب یہ آیت اذعنی استحب لگنہ مجھ سے دعا کر دیں قبول کروں گا، اتری تو لوگوں نے کہا، کس طرف رخ کر کے دعا کریں۔ اس کے جواب میں آیت فائینمَا تَوَلُّ أَخْرَى نازل ہوئی۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام و سعتوں پر غالب، گنجائش والا اور علم والا ہے جس کی کافیات سعادت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا حاط کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا بھی ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں بلکہ وہ تمام چیزوں کا عالم ہے۔

**وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا إِنْ سَبَحْنَاهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ مُكْلِلٌ لَهُ قَنْبُونَ هُنَّ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ هُنَّ**

یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام حقوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے وہ زمین و آسمان کا ابتدأ پیدا کرنے والا ہے ۰ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا۔ بس وہ یہیں ہو جاتا ہے ۰

اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے کے دلائل: ☆☆ (آیت: ۱۱۶-۱۱۷) یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصرانیوں کے رد میں ہے اور اسی طرح ان جیسے یہود و مشرکین کی تردید میں ہے جو اللہ کی اولاد بتاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ مالک ہے۔ ان کا پیدا کرنے والا انہیں روزیاں دینے والا ان کے اندازے مقرر کرنے والا انہیں قبضہ میں رکھنے والا ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیز اور نعمتی اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصاریٰ کا خیال تھا۔ نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لئے کہ دو برادر کی مناسبت رکھنے والے ہم جس سے اولاد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر نہ اس کی عظمت و کبریٰی میں اس کا کوئی شریک نہ اس کی جنس کا کوئی اور۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔

یہ لوگ حرمٰن کی اولاد بتاتے ہیں۔ یہ لکھنے بے معنی اور بے ہودہ بات اور وادیٰ تم کہتے ہو۔ یہ اتنی بڑی بات زبان سے نکالتے ہو کہ اس سے آسمانوں کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا رینہ ہو جانا ممکن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد تو کوئی ہو یعنی نہیں سکتی اس کے سوا جو بھی ہے اس کی ہی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی تمام ہستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیر رکھا ہے اور شارکر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے پاس قیامت والے دن تھا تھا بیٹش ہونے والی ہے۔ پس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت و مختلف اور متصادِ حیثیتیں ہیں۔ دوسری جگہ پوری سورت میں اس کی نعمتی فرمائی۔ ارشاد ہوا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ۔ اس کا ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آئیوں اور ان جیسی اور آئیوں میں اس خالق کا ناتا نے اپنی تشیع و تقدیس بیان کی اور اپنا بے نظیر بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا اور ان مشرکین کے اس لئے عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ وہ تو سب کا خالق و رب ہے۔ پھر اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟

سورہ بقرہ کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف کی ایک قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اہن آدم جھلاتا ہے۔ اسے یہ لائق نہ تھا۔ مجھے وہ گالیاں دیتا ہے۔ اسے نہیں چاہئے تھا۔ اس کا جھلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مارڈا لئے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا گالیاں دینیا ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے حالانکہ میں پاک ہوں اور بندوں والا ہوں اس سے کہ میری اولاد بیوی ہو۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بھی باختلاف الفاظ مروی ہے۔ صحیحین میں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں، بری با تین سن کے سربر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں، لوگ اس کی اولاد میں بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے۔ پھر

فرمایا۔ ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے۔ اس کی غلائی کا اقرار کئے ہوئے ہے، اس کے لئے مغلص، اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست بستہ کھڑی ہونے والی اور دنیا میں بھی عبادت گزار ہے۔ جس کو کہے یوں ہو جاؤ یا اس طرح بن۔ فوراً وہ اسی طرح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اس کے سامنے پست و مطعہ ہے۔ کفار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مطعہ ہیں لیکن ہر موجود کے سامنے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں، قرآن نے اور جگہ فرمایا وَلَلَهُ يَسْجُدُ إِلَخ آسان وزمین کی کل چیزیں خوشی ناخوشی اللہ تعالیٰ کو وجودہ کرتی ہیں۔ ان کے سامنے صبح شام جھکتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں مردی ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں ثبوت کا لفظ ہے، وہاں مراد اطاعت ہے لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ ممکن ہے صحابیؓ کا یاد رکھنا کام ہواں سند سے اور آئیوں کی تفسیر بھی مرفوع مردی ہے لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ضعیف ہے۔ کوئی شخص اس سے دھوکہ میں نہ پڑے۔ واللہ عالم۔

پھر فرمایا، وہ آسان وزمین کو بغیر کسی سابقہ نمونہ کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والا ہے۔ لغت میں بدعت کے معنی تو پیدا کرنے نیابتانے کے ہیں۔ حدیث میں ہے، ہر قبیلہ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گرا ہی ہے۔ یہ تو شرعی بدعت ہے۔ کبھی بدعت کا اطلاق صرف لغتا ہوتا ہے۔ شرعاً مراد نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت میرزا نے لوگوں کو نماز تراویح پر حج کیا اور پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا تھا، اچھی بدعت ہے۔ بدیع کا مبتدع سے تصرف کیا گیا ہے جیسے مولم سے الیم اور مسمع سے سمیع معنی مبدع کے انشا اور نو پیدا کرنے والے کے ہیں۔ بغیر مثال، بغیر نمونہ اور بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے بدقیقی کو اس لئے بدقیقی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دین اللہ میں وہ کام یا وہ طریقہ ایجاد کرتا ہے جو اس سے پہلے شریعت میں نہ ہو۔ اسی طرح کسی قبیلہ بات کے پیدا کرنے والے کو عرب مبتدع کہتے ہیں۔ امام ابن حجر ایضاً مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے وہ آسان وزمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کی اقراری ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا بہتانے والا موجود کرنے والا، بغیر اصل اور مثال کے انہیں وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہے۔ اس کی گواہ ہر چیز دیتی ہے۔ خود حج علیہ السلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ پیدا کر دیا۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں تم خواتم اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا۔ اس اللہ کی قدرت، سلطنت، سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنا تا اور پیدا کرنا چاہئے، اسے کہہ دیتا ہے کہ اس طرح کی ارادی میں ہو جا۔ وہ اسی وقت ہو جاتی ہے جیسے فرمایا اِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ دوسری جگہ فرمایا اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ کلمہ بالبصر شاعر کہتا ہے۔

إِذَا مَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَوْلَةٌ فَيَكُونُ

مطلوب اس کا ہے کہ ادھر کسی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ اس نے کہا، ہو جا، وہیں وہ ہو گیا۔ اس کے ارادے سے مراد جانہیں۔ پس مندرجہ بالا آیت میں عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرا یہ میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں دوسری جگہ صاف فرمادیا اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ اَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے جنہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا۔ ہو جا۔ وہ ہو گئے۔

**وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا أَيَّهُجَّةٌ  
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ  
قُلُّهُمْ قَدْبَيْتِ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ**

ای طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باشیں کیوں نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی۔ ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین، والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دیں ۰

طلب نظارہ۔ ایک حماقت: ☆☆ (آیت: ۱۱۸) رافع بن حیرملہ نے حضور سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ ہم بھی تو خود اس سے اب کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مجاہد کہتے ہیں۔ یہ بات نصراویوں نے کہی تھی اہن جریغہ رکھتے ہیں، یہی ممکن بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ آیت انہی سے متعلق بیان کے دوران میں ہے لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ ممکن بات ٹھیک ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض اور مفسر کہتے ہیں یہ قول لفاظ عرب کا تھا۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا۔ سے مراد یہود و نصاری ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے و اذا جاءَتْهُمْ آیۃً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّیٰ نُؤْتَنِي مِثْلًا مَا أُوتَى رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا كَوَافِرُنَا آتَنِی ہے تو کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم کو بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ إِنْ يَعْلَمَنَا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لئے ان زمینوں میں جوشے جاری نہ کر دیں۔ اور جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَ نَارَ إِنْ يَعْلَمُنَا ہماری ملاقات کے مکر کہتے ہیں، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا۔ اور جگہ فرمایا بل کہ یُرِيدُ كُلُّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ إِنَّمَا كہنے سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔

آیتیں جو صاف بتلاتی ہیں کہ مشرکین عرب نے حضور سے صرف تکبر و عناد کی بنا پر ایسی چیزیں طلب کیں۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا۔ ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی بے معنی سوالات کئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یَسْأَلُكُ اهْلُ الْكِتَابَ إِنَّمَا کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم ان پر کوئی آسمانی کتاب اتنا رہا اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا اے مویٰ ہم تھج پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر فرمایا۔ ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے یعنی ان مشرکین کے دل سابقہ لفاظ رہ جیسے ہو گئے اور جگہ فرمایا ہے کہ پہلے گزرنے والوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا۔ انہوں نے بھی ان کی باتوں کو دہرایا تھا۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لئے اپنی آیتیں اسی طرح بیان کر دی ہیں جن سے رسول گی تصدیق عیاں ہے۔ کسی اور چیز کی وضاحت باقی نہیں رہی۔ یہی نشانیاں ایمان لانے کے لئے کافی ہیں ہاں جن کے دلوں پر مہرگلی ہوئی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہو گا جیسے فرمایا اللہ ہم حَفَّتْ عَلَيْهِمْ إِنْ هُنْ پُرْتَیْرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ گوan کے پاس تمام آیتیں آجائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

**إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْعَلْ عَنِ الْصَّاحِبِ  
الْجَحِيمِ**

ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دیتے اور ذرا وادینے والا ہا کر بھیجا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں تجھے سے پرش نہیں ہوگی ۰

آپ نصیحت کی حد تک مسئول ہیں: ☆☆ (آیت: ۱۱۹) حدیث میں ہے خوشخبری جنت کی اور ذرا وادا جہنم سے لا تُسْنَلَ کی دوسری قرات مائشنا لے بھی ہے اور ابن مسعودؓ کی قرات میں لَنْ تُسْنَلَ بھی ہے یعنی تجھے سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا جیسے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ یعنی تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہے اور فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ تو نصیحت کرتا رہ۔ تو صرف نصیحت کرنے والا ہے۔ ان پر داروغہ نہیں۔ اور جگہ فرمایا نَخْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ائُنَّهُمْ أَنَّكُمْ بِالْأَيْمَنِ بِخُوبِي جانِتُمْ ہیں۔ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ تم قرآن کی نصیحتیں انہیں سناد و جو حقیقت سے ڈرتے ہوں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ ایک قرات اس کی وَلَا تُسْنَلَ بھی ہے یعنی ان جہنمیوں کے بارے میں اے نبی مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ عبد الرزاق میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا۔ پھر آخری دم تک آپ نے اپنے والدین کا ذکر نہ فرمایا اس جریئے نے بھی اسے برداشت موسی بن عبیدہ وارد کیا ہے لیکن اس روایی پر کلام ہے۔ قرطی کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کا حال اتنا بد اور برا ہے کہ تم کچھ نہ پوچھو تو ذکرہ میں قرطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور کے والدین زندہ کئے گئے اور ایمان لے آئے اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جس میں آپ نے کسی کے سوال پر فرمایا ہے کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہیں۔ ان کا جواب بھی وہاں ہے لیکن یاد رہے کہ آپ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح ستہ وغیرہ میں نہیں اور اس کی اسناد ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن جریئرؓ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور نے ایک دن پوچھا کہ میرے باپ کہاں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ابن جریئرؓ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ محال ہے کہ حضور اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کریں۔ پہلی ہی قرات تھیک ہے لیکن ہمیں امام ہام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہہ دیا؟ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب آپ اپنے ماں باپ کے لئے استفسار کرتے تھے اور انجام معلوم نہ تھا۔ پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہو گئی تو آپ اس سے ہٹ گئے اور یہ اسی ظاہر فرمائی اور صاف بتا دیا کہ وہ دونوں جہنمی ہیں جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔

مند احمد میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطاء بن یاسارؓ نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کی صفت و شناوراۃ میں کیا ہے تو آپؓ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم جو صفتیں آپؓ کی قرآن میں ہیں وہی تواریخ میں بھی ہیں، تواریخ میں بھی ہے اے نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دیتے والا اور ذرا نے والا اور ان پڑھوں کا چاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے۔ میں نے تیرا نام متوقل رکھا ہے۔ تو نہ بذریان ہے نہ سخت گونہ بد خلق نہ بازاروں میں شور غل کرنے والا ہے۔ نہ تو برائی کے بد لے برائی کرنے والا ہے بلکہ معاف اور درگذر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل تھیک اور درست نہ کر دے اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور ان کی اندر میں آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے ہر بے کان سننے نہ لگ جائیں۔ اور ان کے زنگ آلو دل صاف نہ ہو جائیں بخاری کی کتاب المیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد مزید ہے کہ میں نے پھر جا کر حضرت کعبؓ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی تھیک بھی جواب دیا۔

وَكَبْ تَرَضِي عَنْكَ الَّذِي هُودُوا لَا النَّصْرَى حَتَّىٰ تَتَبَعَ مِلْتَهُمْ  
 قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَمَّا اتَّبَعُتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ  
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قُرْبَةٍ وَلَا  
 نَصِيرٌ ۝ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوَّنُهُ حَقًّا تِلَاقُتُهُمْ أُولَئِكَ  
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

تجھے سے یہود و نصاری ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے نہ ہب کا تائیں نہ بن جائے۔ تو کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگر تو نے باوجود اپنے پاس علم آجائے کے پھر ان کی خواہشون کی ہجروتی کی تو اللہ کے ہاں نہ تو تیر اکوئی ولی ہو گا اور نہ مددگار ۝ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے فحشان والا ہے ۝

دین حق کا باطل سے سمجھوتہ جرم غلطیم ہے: ☆☆ (آیت: ۱۲۱-۱۲۰) آیت بالا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے لہذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جا۔ انہیں دعوت رسالت پہنچادی۔ دین حق وہی ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو اس پر جم جا۔ حدیث شریف میں ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلہ میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے دھمکایا کہ ہرگز ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لئے اپنے دین میں ست نہ ہونا۔ ان کی طرف نہ جھکنا۔ ان کی نہ ماننا۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی نہ ہب ہے خواہ وہ یہود ہوں نصرانی ہوں یا کوئی اور ہوں۔ اس لئے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا جیسے اور جگہ ہے لکھم دینُکُمْ وَلَىٰ دِيْنِ تَمَهَّرِ دِيْنٍ لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلہ کی بناً ای ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں، امام شافعی اور امام ابو حنفیہ کا یہی نہ ہب ہے اور امام احمد سے بھی ایک روایت میں یہی قول منقول ہے اور دوسری روایت میں امام احمد کا اور امام مالک کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف نہ ہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے۔ واللہ اعلم۔

حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ ☆☆ پھر فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، قادہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصاری ہیں اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول اللہ ﷺ ہیں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں، حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصریؓ فرماتے ہیں کھلی آئیوں پر عمل کرنا، تشابہ آئیوں پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مردوی ہے۔ پس تلاوت بمعنی اتباع ہے جیسے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا میں، ایک مرفوع حدیث میں بھی اس کے یہی معنی مردوی ہیں لیکن اس کے بعض راوی مجبول ہیں گو معنی ٹھیک ہے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں، قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باعچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمرؓ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مردوی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو نہ ہر جاتے اور

اللہ سے رحمت طلب کرتے اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ پھر فرمایا اس پر ایمان بھی لوگ رکھتے ہیں یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ بمحبہ کرتلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جیسے اور جگہ ہے وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ اگر یہ تورۃ و انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلتے سے انہیں کھانا ملتا اور فرمایا اے الٰ کتاب جب تک تم تورۃ و انجیل کو اور جو تمہاری طرف تھارے رب کی طرف سے اترًا اس کو قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا مستلزم ہے کہ تم اس میں جو ہے اسے سچا جانو اور اس میں حضورؐ کے ذکر کی صفات آپ کی تابعداری کا حکم، آپ کی اتباع کی رغبت سب کچھ موجود ہے۔

اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی کی تابعداری کرتے ہیں جس رسولؐ کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورۃ و انجیل میں بھی لکھا دیکھتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِنْ يَعْمَلُونَ لَا يَأْتِيَنَّا لَا وَجْهَنَّمَ اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب رب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے اگلی کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں ہیں۔ انہیں ان کے صبر کا دوہر اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلانی سے بہتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمْمَيْنَ إِنْ يَعْمَلُونَ بِمَا هُنَّا کھا اور بے پڑھے لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو اگر مان لیں تو راہ پر ہیں اور اگر نہ مانیں تو تمہ پر صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی لئے یہاں فرمایا کہ ساتھ کفر کرنے والے خارے والے میں جیسے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اس کی قسم جس کے ساتھ میں میری جان ہے اس امت میں سے جو بھی مجھے سے خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائے گا۔

**يَبْيَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآتَى فَضْلَتُكُمْ  
عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَانْقُوا يَوْمًا لَا تَجِزُّونَ نَفْسَنَ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا قَلَا  
يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُنْ يُنْصَرُونَ ۝ وَإِذْ  
ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلْمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۝ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ  
إِمَامًا ۝ قَالَ وَمَنْ ذُرْتَيْ ۝ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ۝**

اسے اولاد یعقوب میں نے جو یتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو۔ میں نے تو تمہیں تمام جہاں پر فضیلت دے رکھی ہے ۱۰ اس دن سے دو دس دن کوئی نہیں کی میخانہ نہ کھا سکتا۔ نہ کسی میخانے سے کوئی نذر یہ تو بول کیا جائے گا اسے کوئی منتظر نہیں دے کی جائے اس کی مدد کی جائے کی ۱۰ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہی کیا تو اسے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تے فرمایا کہ میں جھیں لوگوں کا امام بناؤ دوں گا۔ عرض کرنے لگے۔ میری اولاد کو فرمایا ہمرا وعدہ ظالموں سے نہیں ۱۰

امنیا: ☆ (آیت: ۱۲۲-۱۲۳) پہلے بھی اسی میسی آیت شروع سورت میں گذر چکی ہے اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں

صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی امی ﷺ کی تابع داری کی رغبت دلائی گئی جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ذرا یا جارہا ہے اور دینی اور دنیوی نعمتوں کو ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چھڑا دبھائی ہیں اللہ کی جو نعم آئی، ان میں جس خاتم النبیین کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان سے حد کر کے نبی کی خلافت اور تکذیب پر آمادہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔

امام تو حید: ☆☆ (آیت: ۱۲۳) اس آیت میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے جو تو حید میں دنیا کے امام ہیں۔ جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے حکم اللہ کی بجا آوری میں ثابت قدمی اور جوانمردی دکھائی۔ فرماتا ہے اے نبی قائم ان مشرکین اور الہ کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعویدار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرمائیں اور اطاعت گزاری کے واقعات تو ساوہ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنفی پر اسوہ ابراہیم پر کون قائم ہے۔ وہ یا آپ اور آپ کے اصحاب؟ اور جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِنْرَهِيمَ الَّذِي أَوْفَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ جِنْهُوْنَ نے پوری و قادری دکھائی اور جگہ فرمایا اِنْ إِنْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَاتَنَتِ اللَّهَ إِنْجَنْهُوْنَ کے پیشوَا اللہ تعالیٰ کے فرمابنبردار، مخلص اور نعمت کے شکر گذار تھے جنہیں اللہ نے پسند فرمائیں کہ راست پر لگایا تھا جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صاحب اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نبی وحی کی کہ تو بھی ابراہیم حنفی کی ملت کی پیروی کر جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہودی تھے نصرانی تھے نہ مشرک تھے بلکہ خالص مسلمان تھے ان سے قربت اور زد کی ملادوہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابع ہوا اور یہ نبی اور ایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے ابتداء کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ کلمات سے مراد شریعت، حکم اور ممانعت وغیرہ ہے، کلمات سے مراد کلمات تقدیر یہ بھی ہوتی ہے جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے صَدَقَتِ رَبِّهَا لِعْنَاهُوْنَ نے اپنے رب کے کلمات کی تقدیر یقین کی۔ کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لِعِنْ اللَّهِ تَعَالَى كے شرعی کلمات سے سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ کلمات یا تو بھی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں مثلاً احکام حج، موجہوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مساوک کرنا، سر کے بال یا منڈوانا یا رکھوں تا قماگ کنکانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال کاٹنا، پیشتاب پا خانہ کے بعد استخراج کرنا، جمع کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جار کرنا، طواف افاضہ کرنا وغیرہ۔

مکمل اسلام: ☆☆ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد پورا اسلام ہے جس کے تیس حصے ہیں دس کا بیان سورہ برائت میں ہے اَنَّاَنِبِيُّونَ عَابِدُوْنَ سے مُؤْمِنِيْنَ تک یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اہل کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، ایمان لانا۔ دس کا بیان ”قَدْ أَفْلَحَ“ کے شروع سے يُحَافِظُوْنَ تک ہے اور سورہ معارج میں ہے یعنی نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا، الغوا و فضول با تلوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوہ دیتے رہا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امامت داری کرنا، وعدہ و فائی کرنا، نماز پر یتھکی اور حفاظت کرنا، قیامت کو چا جانا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، کچی شہادت پر قائم رہنا اور دس کا بیان سورہ احزاب میں اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ سے عَظِيْمًا تک ہے یعنی اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، حج بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے پچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا، ان تینوں احکام کا جو عامل ہو وہ پورے اسلام کا پابند ہے اور اللہ کے عذابوں سے بری ہے۔

کلمات ابراہیمی میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، پادشاہ وقت سے مارہو کرنا۔ بھی تبلیغ کرنا، پھر راہ اللہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، سہنا، پھر وطن اور گھر بار کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر بھرت کرنا، مہمانداری کرنا، اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ اللہ برداشت کرنا یہاں تک کہ بچہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے۔ یہ کل احکام خلیل الرحمن علیہ السلام بجالائے۔ سورج، چاند اور ستاروں سے بھی آپ کی آزمائش ہوئی امامت کے ساتھ بیت اللہ بنانے کے حکم کے ساتھ حج کے حکم اور مقام ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے رہنے والوں کی روزیوں کے ساتھ، حضرت محمد ﷺ کو آپ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیل میں تمہیں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں، تم کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے لوگوں کا امام بنادے۔ اس کعہ کو لوگوں کے ثواب اور اجتماع کا مرکز بنادے۔ یہاں والوں کو پھلوں کی روزیاں دے۔ یہ تمام باتیں عزوجل نے پوری کر دیں اور یہ سب نعمتیں آپ کو عطا ہوئیں۔ صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی۔ وہ یہ کہ میری اولاد کو بھی امامت ملے تو جواب ملا، ظالموں کو میر اعہد نہیں پہنچتا۔ کلمات سے مراد اس کے ساتھ کی آئیں بھی ہیں۔

مَوْطَادُوْغَيْرِهِ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے سب سے پہلی موچھیں پست کرنے والے سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم ہی ہیں۔ سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ یا یہ کیا ہے؟ جواب ملاؤقار و عزت ہے۔ کہنے لگے پھر تو اے اللہ اے اور زیادہ کر۔ سب سے پہلے منبر پر خطبہ کہنے والے سب سے پہلے قاصد بھینے والے سب سے پہلے توار چلانے والے سب سے پہلے مساوک کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنبکار نے والے سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ ایک غیر ثابت حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، گر میں منبر بناؤں تو میرے باپ ابراہیم نے بھی بنایا تھا اور اگر میں لکڑی ہاتھ میں رکھوں تو یہ بھی میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ مختلف بزرگوں سے کلمات کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے نقل کر دیا اور صحیح بھی یہی ہے کہ یہ سب باتیں ان کلمات میں تھیں۔ کسی خاص تخصیص کی کوئی وجہ ہمیں نہیں ملی واللہ اعلم۔

صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، دس باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں۔ موجھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مساوک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن لینا، پوریان دھونی، بغل کے بال لینا، زیر بنا کے بال لینا، استخنا کرنا۔ راوی کہتا ہے میں دسویں بات بھول گما شاید کلی کرنا تھی۔

صحیحین میں ہے حضور فرماتے ہیں پانچ باتیں نظرت کی ہیں۔ ختنہ کرنا، موئے (بال) زبار لینا، موچھیں کم کرنا، ناخن لینا، بغل کے بال لینا، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو دو فرمانے والا اس لئے فرمایا ہے کہ وہ ہر صبح کے وقت پڑھتے تھے سُبْخَنَ اللَّهِ حَمْدُهُ تُمَسُّوْنَ وَحَمْدُهُ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحَمْدُهُ تَظَهَرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَمْدُ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَمْدِ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُوْنَ ایک اور روایت میں ہے کہ ہر دن چار رکعتیں پڑھتے تھے لیکن یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اور ان میں کئی کئی روایی ضعیف ہیں اور ضعف کی بہت سی وجہات ہیں بلکہ ان کا بیان بھی بے بیان ضعف جائز نہیں متن بھی ضعف پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لئے بھی بھی دعا کرتے تھے جو قبول تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی خبر کردی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا۔ وہ امام نہ بنائے جائیں گے زمان کی اقتدار پر پروی کی جائے گی۔ سورہ عنكبوت کی آیت میں اس مطلب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ علیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں ہے وَجَعَلْنَا فِي

دُرِّیَّةُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ یعنی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں تھے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ ہی کی اولاد میں ہوئیں صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ أَحَمَّعُينَ یہاں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لی ہے۔ عہد سے مزاد امر ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنا جائے گے کوہہ اولاد ابراہیم میں سے ہو حضرت خلیلؓ کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی معنی کئے گئے ہیں کہ ظالم سے کوئی عہد نہیں کر سکتا کی اطاعت کی جائے۔ اس کا عہد تو زدیا جائے۔ پورا نہ کیا جائے اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دینے کا عہد نہیں کیا۔ دنیا میں تو کھاپی رہا ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے۔ بس یہی ہے عہد سے مراد دین بھی ہے یعنی تیری کل اولاد دیندار نہیں جیسے اور جگہ ہے وَمِنْ دُرِّيَّهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُسْيِنٌ یعنی ان کی اولاد میں بھلے بھی ہیں اور برے بھی اطاعت کے معنی بھی کئے گئے ہیں یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہو گی اور عہد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں۔ ابن خوزہ منذ اذماکی فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو غلیظ بن سکتا ہے نہ حاکم نہ مفتی نہ گواہ شراوی۔

## وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى

ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کرو ॥

شوہق زیارت اور بڑھتا ہے : ☆☆ (آیت: ۱۲۵) ”مَنَابَةً“ سے مراد بار بار آنا۔ حج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن گئی رہتی ہے۔ گویا حج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنا رہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جو حق در جو حق چلے آرہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانہ میں بھی اس کے آس پاس تو لوت مار ہوتی رہتی لیکن یہاں امن و امان ہی رہتا۔ کسی کو کوئی گالی بھی نہیں دیتا۔ یہ جگہ بیشہ متبرک اور شریف رہی۔ نیک روچیں اس کی طرف مشتاق ہی رہتی ہیں۔ گوہ رسال زیارت کریں لیکن پھر بھی شوہق زیارت کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی کہ فَاجْعَلْ أَفْيَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ أَلْحَنَ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ سورہ ماکہ میں ہے قَيْمًا لِلنَّاسِ یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسان زمین پر گردایا جائے۔ اس گھر کے اس شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے شرف کو خیال فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَوْمًا لَا يَرْهِبُهُمْ أَلْحَنْ ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم کو بتادی (اور کہہ دیا) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جگہ ہے اُنْ أَوَّلَ يَيْتِ أَلْحَنَ اللَّهُ جَلَّ شَانَهُ کا پہلا گھر مکہ میں ہے جو برکت وہایت والا۔ نشانیوں والا۔

مقام ابراہیم والا۔ امن و امان والا۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے حضرت املیعیلؓ کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لئے ان صفا، مرودہ کا طواف، مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے حضرت املیعیلؓ کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لئے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا لیکن حضرت سعید بن جنیبر کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کے بناتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی حدیث میں ہے جب نبی ﷺ نے طواف کر لیا تو حضرت عمرؓ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا،

کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں کہا، پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنالیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیگز ری تھی جو حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قبیلہ نکد والے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمرؓ نے پوچھا، یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے تین باتوں میں موافقت کی۔ جو اللہ کو منظور تھا وہی میری زبان سے لکلا۔ میں نے کہا، حضور کاش کہ، ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنائیتے تو حکم وَاتَّحَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى نازل ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہؐ کا ش کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں، اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج حضور اپنی بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم بازنہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بد لے اپنے نبی کو دے گا۔ اس پر فرمان پاری نازل ہوا کہ عَسَى رَبُّهُ أَنْ يَأْخُذَ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہیں اور بہت سی کتابوں میں مردی ہے۔ ایک روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمرؓ کی موافقت مردی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلوان متفاق جب مر گیا اور حضور اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لئے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس منافق کا فرکا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے مجھے ڈانت دیا۔ اس پر آیت وَلَا تُصْلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْذَلْ ہوئی اور آپ کو ایسوں کے جنازے سے روکا گیا۔

اہن جریج میں روایت ہے آنحضرت نے پہلے طواف میں تین مرتبہ مل کیا یعنی درڑ کی چال چال چلے اور چار پھیرے چل کر کئے۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر دور کعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّحَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى حضرت جابرؓ کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنار ہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پھر دیتے جاتے تھے اور آپ کعبہ کی بنا کرتے جاتے تھے اور اس پتھر کو سر کاتے جاتے تھے جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اسی طرح کعبہ کی دیوار میں پوری کیسیں۔ اس کا پورا ایمان حضرت ابراہیم کے واقعہ میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے۔ عرب کی جاہلیت کے زمانہ کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابوطالب نے اپنے مشہور قصیدہ میں کہا ہے۔

وَمَوْطِيءُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةً عَلَى قَدْمَيْهِ حَافِيًّا غَيْرَ نَاعِلٍ

یعنی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ تازہ ہیں جن میں جو تینیں بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہؐ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا۔ پھر لوگوں کے چھوٹے سے وہ نشان مت گئے۔ حضرت قادہؓ فرماتے ہیں حکم اس کی جانب نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھوٹے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی انگلی امتوں کی طرح بلا حکم الله العالیین بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لئے جو نقصان رسال ہیں۔ وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مت گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ کے متصل تھا کعبہ کے دروازے کی طرف جبرا اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہؐ نے یا تو اسے یہاں رکھا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنا یا ہو گا اور یہیں وہ پتھر رکھا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت سی روایتیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پانی کے سیالاب میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا۔ خلیفہ ثانی نے اسے پھر اپنی جگہ رکھوادیا۔ حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہ اصلی جگہ سے ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آنحضرت نے اسے اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے لیکن یہ روایت مرسلاً ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسے پیچھے رکھا، واللہ عالم۔

**وَعَاهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ آتَ طَهْرَ أَبَيْتِي لِلْقَطَّانِ يُفِينَ  
وَالْحَكَافِينَ وَالرَّكَعَ السُّجُودِ هُنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا  
بَلَدًا أَمِنًا قَارِبًا أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ  
أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ التَّارِثِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ**

ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اعکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا اے پرو دگار تو اس جگہ کو اسن والا شہر ہنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھولوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو مجھ تھوڑا نکردہ دلوں گا۔ پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے کس کردوں گا۔ یہ پیچھے کی جگہ بری ہے۔

عہد جو متراوف حکم ہے: ☆☆ (آیت: ۱۲۵-۱۲۸) یہاں عہد سے مراد وہ حکم ہے جس میں کہا گیا گندی اور بخس اور بربی چیزوں سے پاک رکھنا۔ عہد کا تعریف یہ ای سے ہوتا معنی ہے: ہم نے وحی کی اور پہلے سے کہہ دیا۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، الغوکاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہمی اور مذاق سے اسے محظوظ رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ طائف کے ایک معنی تو طواف کرنے والوں کے ہیں۔ دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں۔ اس تقدیر پر عاکفین کے معنی مکہ کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہئے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں کیونکہ ممکن ہے کوئی کسی وقت جبی ہو جائے۔ ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں تو ہم نے ناکہ انہیں نہ رکنا چاہئے۔ ابن عمرؓ انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد نبویؓ میں حضرت فاروق عظمؓ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ سویا کرتے تھے۔ وہ جوان اور کنوارے تھے۔ رُكْعَ السُّجُودِ سے مراد نمازی ہیں۔ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی۔ دوسرے اس لئے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لَغْ اس آیت میں بھی حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فتحہ کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف؟ امام مالکؓ فرماتے ہیں باہر والوں کے لئے طواف افضل ہے اور جہوڑ کا قول ہے کہ ہر ایک کے لئے نماز افضل ہے اس کی تفصیل کی جگہ تفسیر نہیں۔

مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تروید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لئے ہٹایا گیا ہے اس میں اور وہ کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح بے انصافی ہے اور اسی لئے اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم

**وَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَاعِيلُ طَرَبَانَا تَقَبَّلَ  
مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هُنَّا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ  
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَا سِكَنًا وَثُبَّ عَلَيْنَا  
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ هُنَّا**

ابراهیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور بیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروگرتو ہم سے قول فرمائو تو سننے اور جانتے والا ہے ۱۰۱  
ہمارے رب ہمیں اپنا فرمائہ دار ہے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار کھا اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری تو قبول فرمائو تو  
قول فرمائے والا اور حکم کرنے والا ہے ۱۰۲

دردنائک عذاب پچھائیں گے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصاری کی تردید بھی اس آیت میں ہو گئی کہ اگر وہ ابراہیم و  
اسماعیل سلام اللہ علیہما کی افضیلت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں اور یہی جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کے تبرک ہاتھوں کا ہاتھوا  
ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ حضن نماز و طواف و دعا اور عبادت اللہ کے لئے بنایا گیا ہے۔ حج و عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لئے  
محصول کیا گیا ہے تو ہمارا نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے باوجود کیوں حج و عمرے سے رکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں  
حاضری نہیں دیتے؟ بلکہ خود مویٰ علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ آیہ کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور  
مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہئے۔ اور جگہ قرآن میں ہے فی میوْتٍ أَذْنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكِّرْ فِيهَا أَسْمَهُ يُسْبَحُ لَهُ فِيهَا  
بِالْعَدْوٍ وَالْأَصَالِ اللَّهُ تَعَالَى نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے۔ ان میں صبح شام اس کی تسبیح اس  
کے نیک بندے کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں بھی ہے کہ مسجد میں اسی کام کے لئے ہیں اور احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا  
ہے۔ امام ابن کثیرؓ نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا  
لیکن یہ سند اغیری ہے۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ حرا۔ طور سینا۔ طور زینا۔ جبل بنان اور جودی ان پانچ  
پہاڑوں سے بنایا تھا لیکن یہ بھی سند اغیری ہے۔ بعض کہتے ہیں شیعۃ علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔  
حدیث شریف میں ہے حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم بنایا اور فرمایا میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اس میں شکار نہ کھیلا جائے۔ یہاں کے  
درخت نہ کاٹے جائیں۔ یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ لوگ نازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں  
حاضر ہوتے تھے۔ حضور ﷺ اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں ہمارے شہر میں ہمارے ناپ قول میں بھی برکت دے۔  
اے اللہ ابراہیمؑ تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے۔ میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے تھے سے مک کے لئے دعا کی  
تھی۔ میں تھے سے مدینہ (منورہ) کے لئے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مک معظوم کے لئے کی تھی۔ آپ کسی چھوٹے پچھوٹے کو بلا کروہ پھل اسے عطا  
فرمادیا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ایک مرتبہ ابو طلحہؓ سے کہا کہ جاؤ اپنے پچھوٹے میں سے کسی ایک کو ہماری  
خدمت کے لئے لے آؤ۔ ابو طلحہ مجھے لے کر حاضر ہوئے۔ اب میں سفر و حضر میں حاضر خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپؐ باہر سے آ رہے

تھے۔ جب احمد پھر انظر پڑا تو آپ نے فرمایا یہ پھاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مدار صاف میں اور ناپ میں برکت دے۔ اور روایت میں ہے یا اللہ حقی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دُغی برکت مدینہ میں دے اور روایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی حدیث سن سے ثابت ہوتا ہے مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے اور بھی بہت سی ہیں۔

یہاں ان احادیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض کے شریف کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے حرم اور امن ہے۔ بعض کہتے ہیں خلیل اللہ کے زمانہ سے لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ والے دن فرمایا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کئے تب سے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنا یا ہے۔ اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا۔ اس میں جنگ و قتال کی کو حلال نہیں۔ میرے لئے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لئے حلال تھا۔ اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنوار کے کائنے نہ کاٹے جائیں۔ اس کا شکار نہ بھکایا جائے۔ اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ جو پہنچوائی جائے اس کے لئے اٹھانا جائز ہے۔ اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے اثنائے خطبہ میں بیان فرمائی تھی اور حضرت عباسؓ کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کائنے کی اجازت دی تھی۔

حضرت ابن شریع عدویؓ نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن فتح مکہ والے دن صحیح ہی صح رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمایا جسے میرے کافنوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میں نے آنکھوں سے حضور کو اس وقت دیکھا۔ آپ نے حمد و شکر کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرم کیا ہے۔ لوگوں نے نہیں کیا، کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا یا اس کا درخت کاشنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لئے صرف آج ہی کے دن کی اس کی ساعت یہاں جہاد حلال تھا۔ پھر اس شہر کی حرمت آگئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے لیکن عمر (بن سعید) نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دے دیا کہ میں تجوہ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بر بادی کرنے والے کوئیں بچاتا (بخاری مسلم)۔

ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ سمجھے۔ تقطیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ نے کی۔ جس طرح آنحضرت نبی تو اس وقت سے تھے جب کہ حضرت آدم کا خیر گوند ہر رکھا تھا بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے تھے لیکن تاہم حضرت ابراہیم نے آپ کی نبوت کی دعا کی کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج جو اللہ نے پوری کی اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر و باہر ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدائی نبوت کا تو کچھ ذکر کریجئے۔ آپ نے فرمایا میرے بابا ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت اور میری ماں کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگے۔

مدینہ منورہ افضل یا مکہ مکرمہ؟ ☆☆ اس بات کا بیان کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ جیسا کہ جمہور کا قول ہے جیسے کہ امام مالکؓ اور ان کے تابعین کا نہ ہب ہے۔ مدینہ افضل ہے مکہ سے۔ اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا جسی یہاں کے رہنے والوں کو ٹھہر اور بے خوف رکھ۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا

ہے جیسے کہ فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اِمْنًا اس میں جو آیا وہ امن والا ہو گیا اور جگہ ارشاد ہے اَوَلَمْ يَرَوْ اَنْ كَيْا وَهُنُّ مِنْ دَيْكَتَهُ کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا۔ لوگ اس کے آس پاس سے اچک لئے جاتے ہیں اور یہاں وہ پر امن رہتے ہیں۔ اسی قسم کی اور آیتیں بھی ہیں اور اس مضمون کی بہت سی حدیثیں بھی اور پرگزرنچی ہیں کہ مکہ شریف میں قبال حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہی کو حلال نہیں کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے (صحیح مسلم) آپ کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بناء سے پہلے تھی۔ اس لینے کہا کہ اے اللہ یا اس جگہ کو امن والا شہر بنایا، سورہ ابراہیم میں بھی دعا ان لفظوں میں ہے رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اِمْنًا شاید یہ دعا دوبارہ کی تھی۔ جب بیت اللہ شریف تیار ہو گیا اور شہر بس گیا اور حضرت اسماعیلؑ جو حضرت اسماعیلؑ سے تین سال چھوٹے تھے تو لدھو ہو چکے اسی لئے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا مشکر یہ بھی ادا کیا۔

وَمَنْ كَفَرَ سَعَ آخِرَكَ اللَّهِ تَعَالَى كَ الْكَامَ بِعْضَ نَهَى اَسَعَ اَسَعَ بَهِي دَعَاهِي مَدْلُوبَ ہو گا کَفَارَ كَبَهِ تَحْوِي  
سَافَانَدَهَ دَهَ پَهْرَانَبِسَ عَذَابَ کَ طَرَفَ بَيْ بَسَ کَرَآسَ مَيْ بَهِي حَضَرَتَ اَبِرَاهِيمَ کَيْ خَلَتَ ظَاهِرَهُوَتَيَ ہے کَوَهَ اَپَنِي بَرِی اوَلَادَ کَبَهِ مَخَافَ ہیں  
اوَرَسَ کَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى کَیَهَ مَطَلَبَ ہو گا کَچُونَکَهَ اَمَّتَ کَاسَوَالَ جَبَ اَنِی اوَلَادَ کَلَتَ کَیَا اَوَرَنَطَالَمُوںَ کَيِ حَرَوِی کَا اَعْلَانَ سَنَ چَکَ اَوَرَمَلُومَ ہو  
گَیَا کَآپَ کَبَیِچَھَ آنَے والَوَنَ مَيْ بَهِي اللَّهَ کَنَافَرَمَانَ ہوںَ گَے تَوَارَے ڈَرَ کَادَبَ کَسَاتِحَ بَعْدَ مَیِںَ آنَے والَیِ نَسَلوُنَ کَیِ رُوزِی طَلَبَ  
کَرَتَهُوَتَے صَرَفَ اِيمَانَدَارَ اوَلَادَ کَلَتَ کَہَا۔ اَرَشَادَ بَارِی ہوَا کَدَرِ نَیَاوِی فَانَّکَهَ تَوَکَفَارَ کَبَهِ دَنَیَا ہوںَ جَسَے اَوَرَجَمَ ہے ٹَکَلَانُ نِمَدَ ھَوَلَاءَ  
وَھَوَلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ اَنْ یَعِنِی هُمْ اَنَّمِیںَ اَوَرَانَ کَبَهِ فَانَّکَهَ دَیِںَ گَے۔ تَیِّرَے رَبَ کَبَخَشَ مَحْدُودَنَیِںَ۔

اور جگہ ہے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاں جن نہیں پاتے۔ دنیا کا کچھ فاندہ گواہا مالیں لیکن ہماری طرف آ کر اپنے کفر کے بد لخت عذاب چھیسیں گے۔ اور جگہ ہے کافروں کا کفر تجھے غلکن نہ کرے۔ جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے اعمال پر ہم انہیں تعییہ کریں گے اللہ تعالیٰ نسوان کی چھپی باقتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم انہیں یونہی ساقانہ کچھ کر سخت غلیظ عذابوں کی طرف بے قرار کریں گے۔ اور جگہ ہے لَوْ لَا أَنْ يُمْكُنُ النَّاسُ اَنْ اَكْرِي خَطْرَهُنَّهُوَتَا کَهُوَ لَوْ اَيْكَهِي اَمَّتَ ہو جائیں تو ہم کافروں کی چھتیں اور سیرھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر نیکے لگائے بیٹھ رہتے اور سونا بھی دیتے لیکن یہ سب دنیوی فوائد ہیں۔ آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیز گاروں کے لئے ہے۔

بھی مضمون اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام برائے۔ یہاں ڈھیل پالیں سکے لیکن وہاں سخت کپڑہ ہو گی۔ جیسے اور جگہ ہے وَكَانَتْ مِنْ قَرِيْةً اَنْ بَهْتَ سی طَالِمَ بَسْتِیوںَ کوَهِمْ نے مہلت دی۔ پھر پکڑ لیا۔ انجام کو تو ہمارے ہی پاس لوٹا ہے صحیحین کی حدیث میں ہے، گندی با توں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی او لاد تھاتے ہیں لیکن تاہم وہ انہیں رزق و عافیت دے رہا ہے اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر اسے اچاک کپڑہ لیتا ہے۔ پھر حضورؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبِّكَ اَنْ اَنْ جملہ کو حضرت ابراہیمؑ کی دعا میں شامل کرنا شاذ قرات کی بنا پر ہے جو ساتوں قاریوں کی قرات کے خلاف ہے اور ترکیب سیاق و سبق بھی نہیں ظاہر کرتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اس لئے کہ قبال کی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہے اور اس شاذ قرات کی بنا پر اس کے قابل اور قائل بھی حضرت ابراہیمؑ ہی ہوتے ہیں جو قبول کلام سے بظاہر مخالف ہے۔ واللہ اعلم۔

قواعدِ صحیح ہے قاعدۃ کی ترجیح اس کا پایہ اور نشوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنے والوں کو بنائے ابراہیمؑ کی خبر دو ایک قرات

میں وَاسْمَعِيلُ کے بعد وَيَقُولَان بھی ہے۔ اسی کی دلالت میں آگے لفظ مُسْلِمِين بھی ہے۔ دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کٹکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے آہ! خلیل الرحمن جیسے اللہ کے مقبول چنبر اللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس کا گمراہ کے فرمان سے ہناتے ہیں اور پھر خوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گرنہ جائے۔ حق ہے مغلص مونوں کا یہی حال ہے يُوْتُونَ مَا أَنْوَأْنَا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ وَّ يَكْ كام کرتے ہیں۔ صدقے خیرات کرتے ہیں لیکن پھر بھی خوف اللہ سے کاپنے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ حضرت عائشہؓ کے سوال پر اس آیت کا یہی مطلب زبان رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں حضرت ابراہیمؑ احتماتے تھے اور دعا حضرت اساعیلؑ کرتے تھے لیکن صحیح ہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعہ کے متعلق یہاں ذکر کئے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے حضرت اساعیلؑ کی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ حضرت مائی سارہؓ کو ان کا نقش قدم نہ ملے۔ انہیں اور ان کے جگر کے مکلوے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اساعیلؑ کو لے کر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام لٹکے جبکہ یہ بیارا بچ دودھ پیتا تھا۔

سنانؓ کی آغوش میں زندگی: ☆☆ اب جہاں پر بیت اللہ بناؤ ہے یہاں ایک ٹیلہ تھا۔ اور سنان بیابان تھا کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بھاگ کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہؓ نے پیٹھی موڑی اور جانے لگئے تو مائی ہاجرہ نے آواز دی۔ اے خلیل اللہؓ! میں اس دہشت و دھشت والے بیابان میں یکہ و تھا چھوڑ کر جہاں ہمارا کوئی منوس و ہدم نہیں۔ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیمؑ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی مند موڑ کر بھی نہ دیکھا۔

حضرت ہاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگیں، اللہ کے خلیل آپ ہمیں کے سونپ چلے؟ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو کہا اے خلیل اللہ کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے یہ سن کرام اساعیلؑ کو تسلیکیں ہو گئی اور فرمائے لگیں۔ پھر تشریف لے جائیے۔ وہ اللہ نہیں ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ لوٹ گئیں اور اپنے کلیچ کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں کے نور این نبی اللہ کو گود میں لے کر اس سنان بیابان میں اس ہو کے عالم میں لاچار اور بھور ہو کر بیٹھ رہیں۔ حضرت ابراہیمؑ جب شیخ کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب حضرت ہاجرہ پہنچنے نہیں اور وہاں سے یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا ریننا اتنی اسکنست میں ڈریئی بیواد غیرِ ذی رزیع عنڈ بیٹک المُحَرَّم اَلْحَالِ الْعَالَمِين میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تا کہ وہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دے شاید وہ شکر گذاری کریں۔ آپ تو یہ دعا کر کے حکم اللہ جمالا کراپنی اہل و عیال کو پردا اللہ کر کے چلے گئے۔

ادھر حضرت ہاجرہ صبر و شکر کے ساتھ بچ سے دل بھلانے لگیں۔ جب تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا۔ اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے، نہ پانی کا گھونٹ، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچ بھی بھوک پیاس سے بیتاب ہے یہاں تک کہ اس مقصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ ملانا لگا اور وہ تڑپے اور پلکنے لگا۔ ماتبا بھری ماں کبھی اپنی تہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے۔ کبھی اپنے ننھے سے اکھوتے بچ کا یہ حال بغور دیکھتی ہے اور کسی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ اس کا گذر اس بھیاںک جنگل میں نہیں۔ میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں۔ کھانا تو کہاں؟ پانی کا ایک قطرہ بھی میر نہیں آ سکتا۔

آخراں نفی سی جان کا یہ انتہا نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا، اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آجائے لیکن لگا ہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آتی ہیں تو اتر کروادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کر دوڑتی ہوئی مردہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں۔ اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ کیہ کہ پھر وہاں سے اتر آتی ہیں اور اسی طرح درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح سات مرتبہ کرتی ہیں۔ ہر بار آ کر بچ کو دیکھ جاتی ہیں کہ اس کی حالت ساعت بہ ساعت بگزٹتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، صفا مردہ کی سی جو حاجی کرتے ہیں، اس کی ابتداء تکیں سے ہوئی۔ ساتویں مرتبہ جب حضرت ہاجرہ مردہ پر آتی ہیں تو پچھا آواز کان میں پڑتی ہے آپ خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی؟ آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبریلؑ کو پاتی ہیں۔

حضرت جبریلؑ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں، میں ہاجرہ ہوں۔ میں حضرت ابراہیمؑ کے لڑکے کی ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے۔ ابراہیمؑ تمہیں اس سنسان بیان میں کے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو۔ فرمایا پھر تو وہ کافی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا۔ اے غبی مخفی، آواز تو میں نے سن لی۔ کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ حضرت جبریلؑ علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر گڑھی۔ وہیں زمین سے ایک چشمہ پانی کا الجنگل لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا۔ مشک بھر کر پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر پر کل نہ جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اللہ ام اسلیل پر حرم کرے۔ اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتیں تو زمزم کنویں کی مشیں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اب حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچ کو بھی پلا پایا اور دودھ پلانے لگیں۔ فرشتہ نے کہہ دیا کہ تم بے فکر ہو۔ اللہ تمہیں صالح نہ کرے گا۔ جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا حضرت ہاجرہ اب سینکڑہ پڑیں۔ زمزم کا پانی پیتیں اور بچے سے دل بہلاتیں۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیالاب چاروں طرف سے آتے لیکن یہ جگہ ذرا اوپنجی تھی۔ ادھر ادھر سے پانی گذر جاتا ہے اور یہاں امن رہتا کچھ حدود کے بعد جرہم کا قبیلہ کدا کے راستے کی طرف سے اتفاقاً گزرا اور مکہ شریف کے یونچ کے حصہ میں اترا۔ ان کی نظریں ایک آبی پوند پر پڑیں تو آپس میں کہنے لگے یہ پوندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی بھی نہ تھا۔ ہماری آمد و رفت یہاں سے کمی مرتبہ ہوئی۔ یہ تو خلک جملک اور چیل میدان ہے۔ یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلاحیت معلوم کرنے کے لئے بیجی۔ انہوں نے واپس آ کر خردی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور حضرت ام اسلیلؑ سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں پھر جائیں۔ پانی کی جگہ آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہو لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہاجرہ تو چاہتی تھیں کہ کوئی ہم جنم مل جائے چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا۔

حضرت اسلیلؑ بھی بڑے ہو گئے۔ ان سب کو آپ سے بڑی ہی محبت ہو گئی یہاں تک کہ جب آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی بھی سیکھی۔ مائی ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہیتھیں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا یہ آنا جانا برآق پر ہوتا تھا۔ ملک شام سے آتے تھے اور پھر وہاں جاتے تھے۔ یہاں آئے تو حضرت اسلیلؑ کمر پر نہ ملے۔ اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تھا را کیا حال ہے؟ کہا براحال ہے۔ بڑی تکنی اور ختنی ہے۔ فرمایا اچھا تھا رے خاوند آؤیں تو

انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھت بدل ڈالیں۔

حضرت ذیع اللہ جب والپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سامنے معلوم ہوا۔ پوچھنے لگئے کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ یہوی نے کہا، ہاں ایسی ایسی شکل و شباءت کے ایک عمر سیدہ بزرگ آئے تھے؟ آپ کی نسبت پوچھا میں نے کہا وہ ہنگار کی تلاش میں باہر گئے ہیں پھر پوچھا کہ گذران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گذر اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرمائے ہیں؟ یہوی نے کہا، ہاں کہہ گئے ہیں کہ جب وہ آئیں میر اسلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھت بدل ڈالیں۔ آپ فرمانے لگے۔ یہوی سنو یہ میرے والد صاحب تھے اور جو فرمائے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ (چونکہ تم نے ناٹکری کی) میں تم کو الگ کر دوں۔ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قیلہ میں اپنا دوسرا ناکاح کر لیا۔

ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم باجات اللہ یہاں آئے۔ اب کی مرتبہ بھی اتفاقاً حضرت ذیع سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لئے رزق کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ آپ آئے تشریف رکھئے۔ جو کچھ حاضر ہے تاوہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ گذر برسی ہوتی ہے؟ کیا حال ہے؟ جواب ملا، الحمد للہ۔ ہم خیریت سے ہیں اور بفضل اللہ کشاوگی اور راحت ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا۔ تھہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب مل پانی۔ آپ نے دعا کی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ کہتے تو حضرت خلیل علیہ السلام ان کیلئے انماج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گذر کر سکتے ہیں۔ اور لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا میں تو جارہوں تم اپنے میاں کو میر اسلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھت کو ثابت اور آباد کھیں۔ ازاں بعد حضرت امیل آئے سارا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا میرے والد مکرم تھے۔ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں (تم شکر گذار ہو) تعمیر کعبہ: ☆☆ پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم کو باجات طی اور آپ تشریف لائے تو حضرت امیل کو زرم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا، حضرت امیل باب کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور بادب ملے۔ جب باب بیٹے ملے تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے اس اعلیٰ مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا جان جو حکم ہوا ہو اس کی تعیل بھجئے۔ کہا بیٹا تمہیں بھی میر اساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے۔ میں حاضر ہوں۔ کہا اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے بہت بہتر۔ اب باب بیٹوں نے بیت اللہ کی نیور کی اور دیواریں اوپنی کرنی شروع کیں۔ حضرت امیل پھر لا لا کر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم پڑتے جاتے تھے۔ جب یہ دیواریں قدرے اوپنی ہو گئیں تو حضرت ذیع اللہ یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے اس اوپنے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ کے پتھر کرنے جاتے تھے اور دونوں باب بیٹے یہ دعاء مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہماری اس ناصیحہ خدمت کو قبول فرمانا۔ تو سننے اور جانے والا ہے۔ یہ روایت اور کتب حدیث میں بھی ہے۔ کہیں منحصر اور کہیں مفصل۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ذیع اللہ کے بد لے جو دنبہ ذیع ہوا تھا، اس کے سینگ بھی کعبۃ اللہ میں تھے۔ اوپر کی لمبی روایت حضرت علیؓ بھی مردی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر پر ایک بادل ساملا حظہ فرمایا جس میں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے، ہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو کی زیادتی نہ ہو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ بننا کرو ہاں حضرت ہاجڑہ اور حضرت امیل کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے لیکن پہلی روایت ہی تھیک ہے اور اس طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں پہلے رکھدی تھی لیکن بنایا

بعد میں اور بنا نے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے جیسے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضرت علیؓ سے بناء بیت اللہ کی شروع کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیمؑ گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہئے۔ کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہئے وغیرہ۔ اس پر سیکنڈ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ پھرے وہاں تم میرا گھر بناؤ۔ آپ نے بنانا شروع کیا جب حجر اسود کی جگہ پہنچا تو حضرت اسماعیلؑ سے کہا بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ آپ پتھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ آپ اور پتھر وہاں لگا چکے ہیں، پوچھا یہ پتھر کون لا یا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے یہ پتھر حضرت جبریلؑ آسمان سے لے کر آئے۔ حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ ہی تھی۔ بہت سے زمین پھیلائی گئی۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں، کعبة اللہ بنانے کے لئے حضرت خلیلؑ آرمینیہ سے تشریف لائے تھے۔ حضرت سدیؓ فرماتے ہیں حجر اسود حضرت جبریلؑ ہند سے لائے تھے۔ اس وقت وہ سفید چمکدار یا قوت تھا جو حضرت آدمؑ نے بنائی۔

مند عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت آدمؑ ہند میں اترے تھے۔ اس وقت ان کا قدلب اتھا۔ زمین میں آنے کے بعد فرشتوں کی تبع، نمازو و دعا وغیرہ سنتے تھے۔ جب تدھکت گیا اور وہ پیاری آوازیں آئیں آنے بند ہو گئیں تو آپ گھبرانے لگے۔ حکم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ آپ چلے۔ جہاں جہاں آپ کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک یا قوت جنت سے اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا۔ حضرت آدمؑ یہاں طوف کرنے لگے اور مانوس ہوئے۔ گھبرائہٹ جاتی رہی۔ حضرت نوحؓ کے طوفان کے زمانہ میں یہ پھر انھیں گیا اور حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا۔ حضرت آدمؑ نے یہ کھڑا طور زیتا حیل لہنان طور سینا اور جودی ان پانچ پہاڑوں سے بنایا تھا لیکن ان تمام روایتوں میں تفاوت ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض روایتوں میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بنانے کے لئے حضرت جبریلؑ چلے گئے۔ اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کس دور عماقیق کی آبادی تھی۔ یہاں آپ حضرت اسماعیلؑ کو اور حضرت اسماعیلؑ کو ایک چھپر تلے بٹھا گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے چار ارکانیں اور ساتویں زمین تک وہ پہنچے ہوتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے چار ارکان ہیں اور ساتویں زمین تک وہ پہنچے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب یہاں پہنچے اور حضرت ابراہیمؑ کو بیت اللہ بنانے تھے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنارہے ہیں۔ پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیڑیں گواہی دیں گی۔ پانچ بھیڑوں نے کہا ہم گواہی دیتی ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے مامور ہیں ذوالقرنین خوش ہو گئے اور کہنے لگئے میں نے مان لیا۔ الرزقی کی تاریخ مکہ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ اور ذریع اللہ کے ساتھ بیت اللہ کا طوف کیا۔ واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ہے تواعد بنیان اور اساس کو کہتے ہیں۔ یہ فَاعِدَةٌ کی جمع ہے۔ قرآن میں اور جگہ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ بھی آیا ہے۔ اس کا مفرد بھی قاعدہ ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتیں کہ تھاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو تواعد ابراہیمؑ سے گھٹا دیا میں نے کہا حضور آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا کر دیں۔ فرمایا کہ اگر تیری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو حجر اسود کے پاس کے دوستوں کو چھوڑتے

نہ تھے صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حضور قریم اے۔ اے عائشہؓ کرتیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانہ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زین دوز کر دیتا اور حطیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ میں اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا ایک آنے کے لئے اور دوسرا جانے کے لئے چنانچہ ابن زبیرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایسا ہی کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بنائے ابرا ہیکی پر بناتا اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور دوسرا مغرب رخ اور چھپا تھوڑا حطیم کو اس میں داخل کر لیتا جسے قریش نے باہر کر دیا ہے۔

نبی ﷺ کی نبوت سے پانچ سال پہلے قریش نے نئے سرے سے کعبہ بنایا تھا۔ اس کا مفصل ذکر ملاحظہ ہو۔ اس بنا میں خود حضور مجھی شریک تھے۔ آپ کی عمر پنچتیس (۲۵) سال کی تھی اور پھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔ محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی عمر بارک پنچتیس سال کی ہوئی، اس وقت قریش نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک تو اس لئے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں۔ چھت نہ تھی۔ دوسرے اس لئے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا جو بیت اللہ کے نیچے میں ایک گھرے گڑھے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال ”دو یک“ کے پاس ملا تھا جو خزانہ کے قبلیہ میں لٹھ بن عمر کا مولی تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لا رکھا ہو لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کاٹے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لئے ہو گئی تھی کہ روم کے تاجر وں کی ایک کشتی جس میں بہت اعلیٰ درجہ کی لکڑیاں تھیں وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آگئی تھی۔ لکڑیاں چھت میں کام آسکتی تھیں۔ اس لئے قریشیوں نے انہیں خرید لیا اور مکہ کے ایک بڑھی جو بھلی قبیلہ میں سے تھا، کوچھت کا کام سونپا۔ یہ سب تیاریاں تو ہو ہی تھیں لیکن بیت اللہ کو گرانے کی کہت نہ پڑتی تھی۔ اس کے قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ بیت اللہ کے خزانہ میں ایک بڑا اٹھا تھا۔ جب کبھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ چھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا۔ یہ سانپ ہر روز اس کنوں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آبیٹھتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا جو بیت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا۔ وہ اسے پکڑ کر لے اڑا۔ قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے۔ لکڑیاں بھی میں مل گئیں۔ بڑھی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سانپ کو بھی بیت اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔

اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر کر نئے سرے سے بنائیں۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوا اور ایک پھر کعبۃ اللہ کو گرا کر اتارا جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ اس نے تمام قریشیوں سے خطاب کر کے کہا۔ سنو بیت اللہ کے بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال خرچ کرے۔ اس میں زنا کاری کا روپیہ سودی یہو پار کا روپیہ، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ گاتا بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشورہ ولید بن مغیرہ نے دیا تھا، اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لئے گئے دروازہ کا حصہ بونعبد مناف اور زہرہ بنائیں۔ مجر اسود اور رکن بیانی کا حصہ بی خود مہماں بنائیں۔ قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ کعبۃ کا پچھلا حصہ بونج اور سہم بنائیں۔ حطیم کے پاس کا حصہ بونعبد الدار بن قصی اور بنو اسد بن عبد العزی اور بنو عدری بن کعب بنائیں۔ یہ مقرر کر کے ابن بنی ہوئی عمارت کو ڈھانے کے لئے چلے گئے لیکن کسی کو کہت نہیں پڑتی کہ اسے ڈھانا شروع کرے۔ آخرو لید بن مغیرہ نے کہا۔ لو میں شروع کرتا ہوں۔ کہاں لے کر اور پڑھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برائیں۔ ہم تیرے گھر کو اجاڑا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی لگر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا۔ بس اب چھوڑ اور رات بھر کا انتظار کرو۔ اگر اس شخص پر کوئی وباں آجائے تو یہ پھر اسی جگہ پر لگادیا اور خاموش ہو جانا اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرنا اللہ کو ناپسند نہیں۔ پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں لگ جانا چنانچہ ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی۔ اب سب آگئے اور بیت اللہ کی الگی عمارت کو گرا دیا یہاں تک کہ اصلی نیوں یعنی بناء ابرا ہیکی تک پہنچ گئے۔ یہاں بزر

پھر اسی بناوار گکے پتھرتے اور ایک دوسرے میں گویا پیوسٹ تھے۔ ایک شخص نے دو پتھروں کو الگ کرنا چاہا۔ اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ٹلنے کے ساتھ ہی تمام مکہ کی زمین پہنچ لگی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پتھر ان کی جگہ لگانا اللہ کو منظور نہیں۔ اس لئے ہمارے میں کی بات نہیں۔ اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھر کو اسی طرح رہنے دیا۔

پھر ہر قبیلہ نے اپنے اپنے حصہ کے مطابق علیحدہ پتھر جمع کئے اور عمارت بنی شروع ہوئی یہاں تک کہ مجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچ۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے۔ آپس میں لڑنے مجھنے لگے۔ یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آگئی۔ فرقے آپس میں پہنچ گئے اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بنو عبد اور بنو عدی نے ایک طشتی میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گے لیکن مجر اسود کسی کو نہیں رکھنے دیں گے۔ اسی طرح چار پانچ دن گزر گئے۔ پھر قریش مسجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انصاف کریں تو ابو اسیہ بن مخیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ معزرا در عقائد تھے، کہا سنلوگو تو تم اپنا منصف کی کو بنا لودہ جو فیصلہ کرے سب منظور کر لو۔ لیکن پھر منصف بنانے میں بھی اختلاف ہو گا۔ اس لئے ایسا کرو کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے؟

ہمیں سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور رکھنے لگے۔ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں۔ یہ تو امین ہیں۔ یہ تو محمد ﷺ ہیں۔ پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا داعم آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاو۔ وہ لے آئے۔ آپ نے مجر اسود اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا۔ پھر فرمایا۔ ہر قبیلہ کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کوئہ پکڑ لے اور اس طرح ہر ایک مجر اسود کے اٹھانے کا حصہ دار بنے۔ اس پر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تمام کر اٹھایا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچنے تو اللہ کے نبی نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اسی جگہ رکھ دیا اور وہ نزاع و اختلاف پلکہ جدال و قتال رفع ہو گیا اور اس طرح اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ اپنے گھر میں اس مبارک پتھر کو نصب کرایا۔ حضور پر وحی نازل ہونے سے پہلے قریش آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ اب پھر اور پر کا حصہ بنا اور کعبۃ اللہ کی عمارت تمام ہوئی۔ ابن اسحاقؓ مورخ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں کعبہ اٹھا رہا تھا کا تھا۔ قباطی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا۔ پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا۔ ریشی پرده سب سے پہلے حاج بن یوسف نے چڑھایا۔

کعبہ کی بھی عمارت رہی۔ یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ساٹھ سال کے بعد یہاں آگ لگی اور کعبہ جل گیا۔ یہ زید بن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا اور اس نے این زیر گما کہ میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان دنوں میں خلیفہ مکہ حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث سنی تھی، اسی کے مطابق حضور گی کتنی پر بیت اللہ کو گرا کر ابہا یعنی قواعد پر بنایا۔ حظیم اندر شامل کر لیا۔ مشرق و مغرب دور روازے رکھے۔ ایک اندر آئے کا دوسرا بہر جانے کا اور دروازوں کو زمین کے برابر کھما۔ آپ کی امارت کے زمانہ تک کعبۃ اللہ یونہی رہا۔ یہاں تک کہ ظالم جاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب جاج نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے کعبہ کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنایا۔

صحیح مسلم شریف میں ہے زید بن معاویہ کے زمانہ میں جب کہ شامیوں نے مکہ شریف پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اس وقت حضرت عبد اللہ نے بیت اللہ کو یونہی چپوڑ دیا۔ موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ ازان بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کعبۃ اللہ سارے کو گرا کرنے سے بنا میں یا جوٹا ہوا ہے، اس کی اصلاح کر لیں؟ تو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے

فرمایا میری رائے ہے کہ آپ جو لوٹا ہوا ہے اسی کی مرمت کر دیں۔ باقی سب پر انہی رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم میں سے کسی کا گمرا جل جاتا تو وہ تو خوش نہ ہوتا جب تک اسے نہ بناتا پھر تم اپنے رب عزوجل کے گمرا کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا میں تین دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا۔ پھر جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا۔ تین دن کے بعد آپ کی رائے بیکی ہوئی کہ باقی مانند دیواریں بھی توڑی جائیں اور ازسرن کعبہ کی تعمیر کی جائے چنانچہ یہ حکم دے دیا لیکن کبھی کو توڑنے کی کسی کی مہمت نہیں پڑتی تھی۔ ذرخاک جو پہلے توڑنے کے لئے چڑھے گا، اس پر عذاب نازل ہو گا لیکن ایک باہم شخص چڑھ گیا اور اس نے ایک پھر توڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھایہ نہیں پہنچا تو اب ڈھانا شروع کیا اور زمین تک برابر یکساں صاف کر دیا۔ اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیئے تھے اور ایک کپڑا اتنا دیا تھا۔

اب بناء بیت اللہ شروع ہوئی۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شاوه کہتی تھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اگر لوگوں کا کفر نہ ہوتا اور میرے پاس خرچ بھی ہوتا جس سے میں بنا سکوں تو حظیم میں سے پانچ ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبہ کے درود روازے کرتا۔ ایک آنے کا درا ایک جانے کا حضرت عبد اللہ نے یہ روایت بیان کر کے فرمایا، اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہیں رہا۔ ان سے خوف جاتا رہا اور خزانہ بھی معمور ہے۔ میرے پاس کافی روپیہ ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ میں حضورؐ کی تمنا پوری نہ کروں چنانچہ پانچ ہاتھ حظیم اندر لے لیا اور اب جو دیوار کھڑی کی تو ٹھیک ابرا یعنی بنیاد نظر آنے لگی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور اسی پر دیوار کھڑی کی بیت اللہ کا طول اخمارہ ہاتھ تھا۔ اب جو اس میں پانچ ہاتھ اور بڑھ گیا تو چھوٹا ہو گیا اس لئے طول میں دس ہاتھ اور بڑھ ایسا گیا اور درود روازے بنائے گئے ایک اندر آنے کا دروس را ہر جانے کا، ابن زبیرؓ شہادت کے بعد مجاج نے عبد الملک کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکہ شریف کے عادلوں نے دیکھا ہے، ٹھیک حضرت ابراہیم کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دو اور حظیم کو پاہر کر دو اور دروس روازہ بند کر دو۔ مجاج نے اس حکم کے مطابق کعبہ کو توڑا کر پھر اسی بناء پر بنادیا لیکن سنت طریقہ بھی تھا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر کی بناء کو باقی رکھا جاتا اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی چاہت بھی تھی لیکن اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں۔ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔

لیکن یہ حدیث عبد الملک بن مروان کو نہیں پہنچی تھی۔ اس نے انہوں نے اسے تزاد دیا۔ جب انہیں حدیث پہنچ تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ ہم یونہی رہنے دیتے اور نہ تراستے چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث بن عبید اللہ جب ایک وفد میں عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابو حبیب یعنی عبد اللہ بن زبیرؓ نے (اپنی غالہ) حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث سنی ہو گی۔ حارثؓ نے کہا ضرور سنی تھی۔ خود میں نے بھی امام المومنین سے سنائے، پوچھا تم نے کیا سنائے؟ کہا میں نے سنائے آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہؓ صیری قوم نے بیت اللہ کو نجک کر دیا۔ اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نے سرے سے ان کی کوپورا کر دیتا لیکن آؤ میں تجھے اصلی نیو بتا دوں شاید کسی وقت تیری قوم پھر اسے اس کی اصلاحیت پر بنا جائے تو آپ نے حضرت صدیقۃؓ کو حظیم میں سے قربیا سات ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے دروازے بنادیا۔ ایک آنے کے لئے اور دروس را جانے کا اور درنوں دروازے زمین کے برابر رکھتا۔ ایک مشرق رخ رکھتا۔ دروس مغرب رخ۔ جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے عرض کی حضورؐ مجھے خوبیں فرمایا حسن اپنی اوچائی اور بڑائی کے لئے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے

چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپ سے دھکا دے دیتے۔ وہ گرپٹا اور جسے داخل کرنا چاہتے اسے ہاتھ قام کر اندر لے لیتے۔ عبد الملک نے کہا اے حارث خود نا ہے تو تھوڑی دریک تو عبد الملک اپنی لکڑی نکائے سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگے کاش کر میں اسے یونہی چھوڑ دیتا۔

صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک بن مردان نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ کووس کر کہا کہ وہ حضرت عائشہ پر اس حدیث کا بہتان باندھتا تھا تو حضرت حارث نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سچے تھے۔ میں نے بھی حضرت صدیقہ سے یہ سنائے ہے۔ اب عبد الملک افسوں کرنے لگا اور کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ توڑتا۔ قاضی عیاض اور امام نووی نے لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کو حضرت ابن زیمر کے بنائے ہوئے کے مطابق بناؤں۔ امام مالک نے فرمایا۔ آپ ایسا نہ سمجھئے۔ ایسا نہ ہو کہ کعبہ بادشاہوں کا ایک کھلونا بن جائے۔ جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق تو ڈھونڈ کر تارہ ہے چنانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ میں بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کعبہ کو بار بار چھیڑنا نہیں۔

صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کعبہ کو دو چھوٹی پنڈیوں والا ایک جبی پھر خراب کرے گا۔ حضور نہ مانتے ہیں کویا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ سیاہ قام ایک ایک پتھر الگ کر دے گا۔ اس کا غلاف لے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی وہ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا اور کجھا ہو گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا وہ کداں بخارا ہے اور ہر ایک لگڑے کر رہا ہے۔ غالباً یہ ناشدی واقعہ (جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے) یا جوڑ جا جوڑ کے نکل چکنے کے بعد ہو گا۔

صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرماتے ہیں، تم یا جو جمیں کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج و عمرہ کرو گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہنالے یعنی مغلص ہنالے۔ مطبع ہنالے۔ موجود ہر شر سے بچا۔ ریا کاری سے محفوظ رکھ۔ خشووع خضوع عطا فرم۔ حضرت سلام بن ابی مطبع فرماتے ہیں، مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت قدی طلب کرتے ہیں جس کے جواب میں ارشاد پاری ہوا قذ فعلت میں نے تمہاری یہ دعاؤ بقول فرمائی پھر اپنی اولاد کے لئے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو بقول ہوتی ہے۔ یہ اسرائیل بھی آپ کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی۔ قرآن میں ہے وَمِنْ قَوْمٍ مُّوْسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ یعنی موئی کی قوم میں ایک جماعت حق و عدل پر قائمی لیکن روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لئے یہ دعا کو عام طور پر دوسروں پر بھی مشتمل ہو اس لئے کہ اس کے بعد دوسرا دعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول بیچج اور اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ہیں چنانچہ یہ دعا بھی پوری ہوئی جیسے فرمایا ہوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ لیکن اس سے آپ کی رسالت خاص نہیں ہوتی بلکہ آپ کی رسالت عام ہے۔ عرب و عموم سب کے لئے جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا كہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

ان دونوں نبیوں کی یہ دعا جیسی ہے، ایسی ہی ہر ترقی کی دعا ہوئی چاہئے۔ جیسے قرآنی تعلیم ہے کہ مسلمان یہ دعا کریں رَبَّنَا هبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا فُرَّةٌ أَعْيُنٌ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقْيِنِ إِمَامًا اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے ہماری آنکھوں کی شہنشہک عطا فرم اور ہمیں پرہیز گاروں کا امام ہنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد بھی اللہ کی عابد رہے۔ اور جگہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں وَاجْنَبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رسول

اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے مرتبے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین کام جاری رہتے ہیں۔ صدقہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولاد جو دعا کرتی رہے (مسلم)۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مناسک دھائیں ایضاً احکام حج و ذن وغیرہ سکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر کعبہ کی عمارت پوری ہو جانے کے بعد صفا پر آتے ہیں۔ پھر مروہ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ پھر منی کی طرف لے چلے۔ عقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا ملوٹ فرمایا۔ بکیر پڑھ کر اسے نکل مارو۔ ابلیس یہاں سے بھاگ کر جرہ و سطی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہاں بھی اسے نکل کر یاں ماریں تو یہ خبیث نا امید ہو کر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حج کے احکام میں کچھ دغل دے لیکن موقع نہ ملا اور مایوس ہو گیا۔ یہاں سے آپ کو مشعر الحرام میں لاۓ۔ پھر عرفات میں پہنچا یا۔ پھر تین مرتبہ پوچھا کہو سمجھ لیا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں دوسری روایت میں تین جگہ شیطان کو نکل کر یاں مارنی مروی ہیں اور ہر شیطان کو سات سات نکل کر یاں ماری ہیں۔

**رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا قِنْهَمْ يَتَلَوَّ أَعْلَيْهِمْ إِلَيْكَ وَيَعْلَمْهُمْ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَرْزِقْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بیکج ہو جان کے پاس تیری آئیں پڑھے۔ انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے ۰

دعائے ابراہیم علیہ السلام کا حاصل: ☆☆ (آیت: ۱۲۹) اہل حرم کے لئے یہ دعا بھی ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ”میں اللہ جل شانہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جبکہ آدم بھی مٹی کی صورت میں تھے“ میں تمہیں اپنا ابتدائی امر تباوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابوالامم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اپنی بیوتوں کا شروع تو ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ”میرے والد حضرت ابراہیم کی دعا اور میری خوشخبری جو حضرت عیسیٰ نے دی اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور لکھا جس نے شام کے محل چکا دیئے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی مشہور ہو گیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہو گا۔ نبی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت روح اللہ نے تو نبی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا صاف نام بھی لے دیا اور فرمایا، لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے کی کتاب تورۃ کی میں تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ خواب میں نور سے شام کے محلات کا چک اٹھنا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ دین وہاں جائے گا۔ بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخزمانہ میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید میثار پر نازل ہوں گے۔ بخاری و مسلم میں ہے میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ آجائے۔ صحیح بخاری میں کہ وہ شام میں ہوں گے۔ ابوالعالیٰ سے مروی ہے کہ یہ بھی اسی مقبول دعا کا ایک حصہ ہے کہ یہ پتغیر آخزمانہ میں مبوحہ ہوں گے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے۔ حسن اور قادہ اور مقائل بن حیان اور ابوالماک وغیرہ کا بھی فرمان ہے اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ پاک کرنا، یعنی طاعت و اخلاص سکھانا، بھلا کیاں کرنا، برائیوں سے بچانا، اطاعت الہی کر کے رضائے رب حاصل کرنا، تافرانی سے نجع کرنا انصکی سے

محفوظ رہنا۔ اللہ عزیز ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ جو ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ حکیم ہے یعنی اس کا کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے محل پر تھی حکمت و عمل علم کے ساتھ رکھتا ہے۔

**وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ قِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۖ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْتَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّابِرِينَ ۝**  
**إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۝ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝**  
**وَوَصَّلَى بِمَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۝ يَبْخَنَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمْ ۝**  
**الَّذِينَ قَلَّا تَمُوتُنْ ۝ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝**

دین ابراہیم سے وہی بے رشی کرے گا جو من ہی تو فہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں سے تھا ۱۰ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لائیں ہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی ۱۰ اسی کی دعیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کہاے ہمارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمایا ہے۔ خبر وارث مسلمان ہی مرنا ۱۰

توحید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر : ☆☆ (آیت: ۱۳۰-۱۳۲) ان آتوں میں بھی مشرکین کی تروید ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم پر بتاتے تھے حالانکہ کامل شرک تھے جبکہ حضرت خلیل اللہ کے مودودوں کے امام تھے۔ توحید کو شرک سے متاز کرنے والے تھے عمر بھر میں ایک آنکھ مچکنے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا بلکہ ہر شرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ہر غیر اللہ سے جو خدا امانا جاتا ہو وہ دل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی بنا پر قوم سے الگ ہوئے۔ ڈلن چھوڑا بلکہ باپ تک کی خالفت کی پروانہ کی اور صاف کہہ دیا کہ اتنی بڑی تینما تشریکوں میں بیزار ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جس نے زمین و آسمان کو بیدار کیا ہے۔ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں۔ میں تو اپنے خالق ہی کا گروہیدہ ہوں۔ وہی مجھے راہ راست دکھائے گا۔ اور جگہ ہے مَا كَانَ أَسْتَغْفارًا إِبْرَاهِيمَ لَخُ إِبْرَاهِيمَ نَنْ أَنْتَ مُصْرِفُ الْأَيْمَنَ وَعَدْتَ لَنِي اسْتَغْفارَكِ تھی لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔

ابراہیم بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بربار تھے۔ اور جگہ ہے ابراہیم مخلص اور مطیع امت تھے۔ مشرک ہرگز نہ تھے رب کی نعمتوں کے شکر گذار تھے۔ اللہ رب کعبہ کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے۔ دنیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے۔ نامہ توں کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ ”اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گراہ لوگ ہی ملت ابراہیم کو ترک کرتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہدایت کے لئے جن لیا تھا اور پچھن سے ہی توفیق حق دے رکھی تھی۔ خلیل جیسا معزز خطاب انہی کو دیا گیا۔ وہ آخرت میں بھی سعید بخت لوگوں میں ہیں۔ ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بیوقوف اور ظالم اور کون ہو گا؟ اس آیت میں یہودیوں کا بھی رو دیے جیسے اور جگہ ہے مَا کَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُؤُدِيَا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ صراحت، مشرک بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان سے دوستی رکھنے والے صرف وہی ہیں جو ان کے فرماں بردار ہوئے اور یہ نبی اور

ایمان دار اللہ بھی مونوں کا ولی ہے جب کبھی اللہ فرماتا کہ یہ مان لؤ وہ جواب دیتے کہاے رب العالمین میں نے مان لیا۔ اسی ملت وحدانیت کی وصیت ابراہیم و یعقوب نے اپنی اولاد کو بھی کی۔ ہا کی خیر کا مرچی یا تو ملت ہے یا کلمہ۔

ملت سے مراد اسلام اور کلمہ سے مراد اَسْلَمُتْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ دیکھئے ان کے دل میں اسلام کی کس قدیمت و عزت تھی کہ خود بھی اس پرمدت العرصا میں رہے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی۔ اور جگہ ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ہم نے اس کلمہ کو ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا، بعض سلف نے ”وَيَعْقُوبَ“ بھی پڑھا تو بھی پر عطف ہو گا اور مطلب یہ ہو گا کہ خلیل اللہ نے اپنی اولاد کو اولاد کی اولاد میں سے حضرت یعقوب کو جو اس وقت موجود تھے دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی۔ قشیری کہتے ہیں ”حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن یہ محمد دعویٰ ہے جس پر کوئی صحیح دلیل نہیں۔ واللہ اعلم۔ بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے ہاں حضرت ابراہیم کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْلَحْقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْلَحْقَ يَعْقُوبَ يَعْنِي ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور اس کا نصب خفض کو ہٹا کر بھی پڑھا گیا ہے۔ پس اگر حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود نہ ہوں تو پھر ان کا نام لیتے میں کوئی زبردست فائدہ باقی نہیں رہتا۔ سورہ عنكبوت میں بھی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا فرمایا اور اس کی اولاد میں ہم نے نبوت و کتاب دی اور اسی آیت میں ہے۔ ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب زائد عطا فرمایا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی تھے۔ اگلی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدس میں آئیں گے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ گنوی مسجد پہلی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام پوچھا پھر، فرمایا مسجد بیت المقدس میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مدت تھی؟ فرمایا چالیس سال۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ ”حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی درمیانی مدت سے متعلق یہ بیان ہے“ حالانکہ یہ قول بالکل الوٹ ہے۔ ان دونوں نبیوں کے درمیان تو ہزاروں سال کی مدت تھی بلکہ مطلب حدیث کا کچھ اور ہی ہے اور شاہ زمان حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ الرحمٰن تو اس مسجد کے کمود کے مدد نہ تھے۔ موجہ نہ تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی جیسے عنقریب ذکر آئے گا۔ وصیت اس امر کی ہوتی ہے جب تک زندہ رہو مسلمان ہو کر رہوتا کہ موت بھی اسی پر آئے۔

موت اور ہمارے اعمال: ☆☆ عموماً انسان زندگی میں جن اعمال پر رہتا ہے اسی پر موت بھی آتی ہے اور جس پر مررتا ہے اس پر اٹھے گا بھی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ بھلانی کے قصد کرنے والے کو بھلانی کی توفیق بھی دی جاتی ہے۔ بھلانی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت میں ایک ہاتھ دوڑہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کر کے جہنمی بن جاتا ہے اور بھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام امoghے برے ظاہری ہوتے ہیں۔ حقیقی نہیں ہوتے چنانچہ بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سخاوت تقوی اور لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تصدیق کرنے والے کو ہم آسانی کا راست آسان کر دیتے ہیں اور بغل و بے پرواہی اور بھلی بات کی تکذیب کرنے والوں کے لئے ہم سختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔

**آمِرٌ مَكْنُتُمْ شَهَدَةً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ  
لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْنِي بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَهَا  
أَبَاهُوكَ أَبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ  
لَهُ مُسْلِمُونَ هُنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ هُجِّيَ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ  
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْغَلُونَ هُنَّا يَعْمَلُونَ هُنَّا**

کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے بات پر دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ جو معبود ایک ہی ہے۔ ہم اسی کے فرمانبردار ہیں گے ۰ یہ جماعت تو گزر بھی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے ہے ان کے اعمال سے نہ پرچھ جاؤ گے ۰

ازلی اور ابدی حقیقت عبادات اللہ وحدہ لاشریک: ☆☆ (آیت: ۱۳۳-۱۳۴) مشرکین عرب پر جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھی اور کفار نبی اسرائیل پر جو حضرت یعقوب کی اولاد تھی دلیل لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب نے تو اپنی اولاد کو اپنے آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کی وصیت کی تھی۔ ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ آپ کے بزرگوں کے معبود برحق کی۔ حضرت یعقوب حضرت الحق کے لڑکے اور حضرت التھ حضرت ابراہیم کے۔ حضرت اسماعیل کا نام باپ دادوں کے ذکر میں بطور تحلیف کے آگیا ہے کیونکہ آپ پچھا ہوتے ہیں اور یہ بھی واضح رہے کہ عرب میں پچھا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں۔ اس آیت سے استدلال کر کے دادا کو بھی باپ کے حکم میں رکھ کر دادا کی موجودگی میں بھائی کو درش سے محروم کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافیلہ تھی ہے جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ امام المومنین حضرت عائشہؓ کا نہب بھی تھیا ہے۔ حسن بصری، طاؤسؓ اور عطاؓ بھی تھیں کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ اور بہت سے سلف و خلف کا نہب بھی تھی ہے۔ امام مالکؓ امام شافعیؓ اور ایک مشہور روایت میں امام احمدؓ سے متفق ہے کہ وہ بھائیوں ہبھوں کو بھی دارث قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت زید بن ثابتؓ اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا نہب بھی تھی ہے۔ قاضی ابو یوسفؓ اور محمد بن حسنؓ بھی تھیں کہتے ہیں اور یہ دونوں امام ابوحنیفہؓ کے شاگرد رشید ہیں۔ اس مسئلہ کی صفائی کا یہ مقام نہیں اور نہ تفسیر کا یہ موضوع ہے۔

ان سب پچوں نے اقرار کیا کہ ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے لیکن اس اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں گے اور ہم اس کی اطاعت گزاری فرمانبرداری اور خشوع و خضوع میں مشغول رہا کریں گے جیسے اور جگہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ إِلَّا زِمْنٍ وَآسَانَ کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی سے اس کی مطیع ہے اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تمام انبیاء کا دین یہی اسلام رہا ہے۔ اگرچہ احکام میں اختلاف رہے ہیں جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي لیکن تھے سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور آئیں بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں اور احادیث میں بھی یہ مضمون بکثرت وارد ہے۔ آنحضرت فرماتے ہیں ”ہم علاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ پھر فرماتا ہے“ یہ امت جو گزر بھی تھیں ان کی طرف نسبت نفع نہ دے گی ہاں اگر عمل ہوں تو اور بات ہے ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم ان

کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھ جاؤ گے۔ حدیث شریف میں ہے جس کا عمل اچھا نہ ہو گا اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

**وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهَمَّدُوا طَقْلَ بَلْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ  
خَنِيفَاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هـ**

یہ کہتے ہیں یہود و نصاریٰ بن جاؤ تو راہ پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ طلت ابراہیم والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ ہتے ۰

(آیت: ۱۳۵) عبد اللہ بن صوری یا اعور نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا کہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ تم ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ نصاریوں نے بھی بھی کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم خنیف علیہ السلام کے قبیح ہیں جو استقامت والے اخلاص والے ہیں جو فرض جانے والے اللہ کی فرمائیں داری کرنے والے تمام رسولوں پر ایمان لانے والے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے ماں بیٹی خالہ پھوپھی کو حرام جانے والے اور تمام حرام کاریوں سے بچنے والے تھے۔ یہ سب معنی خنیف کے مختلف حضرات نے بیان کئے ہیں۔

**قُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ  
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْدِي مِنْهُمْ وَلَنْ يُؤْمِنَ لَهُ مُسْلِمُونَ هـ**

(۱۔ سلماں) تم سب کو کہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اسحیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موئی اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیئے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدا نہیں، ذات ہم اللہ کے فرمائیں دار ہیں ۰

اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب ! ☆☆ (آیت: ۱۳۶) اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اترتا اس پر توجہ تفصیل و ایمان لائیں اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اترتا اس پر بھی ابھال ایمان لائیں۔ ان اگلے انبیاء کرام میں سے بعض کے نام بھی لے دیئے اور باقی نبیوں کا جمل ذکر کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ایک کو مانیں اور دوسرے سے انکار کر جائیں۔ جو عادات اور عوల کی تھی کہ وہ انبیاء میں تفریق کرتے تھے، کسی کو مانتے تھے، کسی سے انکاری تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ دونوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان سب کو فتویٰ ملا کہ اولینک هُمُ الْكَفِرُونَ حَقَّا يَوْمُ الْقِيَمَةِ کافر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل کتاب تورۃ کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سانتے تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو۔ کہہ دیا کہ اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ نبی ﷺ نے صحیح کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ آیت امناً بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا پوری آیت اور دوسری رکعت میں آیت امناً وَأشَهَدُ بِإِيمَانِ  
مُسْلِمِيْوْنَ پڑھا کرتے تھے۔

اسباط حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو بارہ تھے جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے۔ بی اساعیل کو قبائل کہتے تھے اور بنی اسرائیل کو اس باط کہتے تھے۔ مختصر ہے کشاف میں لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے پوتے تھے جو ان کے بارہ لڑکوں

کی اولاد تھی۔ بخاری میں ہے کہ مراد قائل بنی اسرائیل ہیں۔ ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وحی نازل ہوئی تھی جیسے موئی علیہ السلام نے فرمایا اذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءً اَنْجَلَ اللَّهِ الْكَفِيلُ نَعْتَ کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ اور جگدے بے وَقْطَعَهُمُ اثْنَتُّ عَشَرَةَ اَسْبَاطَ ہم نے ان کے بارہ گروہ کر دیئے۔ سبط کہتے ہیں درخت کو یعنی یہ مثل درخت کے ہیں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں سوائے دس کے نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، محمد علیہم الصلو والسلام۔ سبط کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلہ کو جن کا مورث اعلیٰ اور جا کر ایک ہو۔ ہمیں تورۃ و انجلیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے لیکن عمل کے لئے صرف قرآن و حدیث ہی ہے۔

**فَإِنْ أَمْنُوا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَهُ صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ هُنَّ قُلْ آتُهَا جُنُونًا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ هُنَّ أَمْرٌ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يُغَايِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ هُنَّ**

اگر وہ تم جیسا ایمان لا سیں اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عنتریب کیا تھا کہ گا۔ وہ خوب سننے جانے والا ہے ॥ رنگ دیا اللہ نے اپنے رنگ میں اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا۔ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ॥ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھوٹتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ ہمارے لئے ہمارے عمل میں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہم تو اسی کے لئے خلوص کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ॥

شرطنجات: ☆☆ (آیت: ۱۳۷-۱۳۸) یعنی اے ایمان دار صاحبو! اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لا سیں یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں تو حق و رشدہ بادیت ونجات پا سیں گے اور اگر با جود قیام جنت کے بازار ہیں تو یقیناً حق کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھے ان پر غالب کر کے تمہارے لئے کافی ہو گا۔ وہ سننے جانے والا ہے۔ نافع بن نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حضرت عثمانؓ کو لوگوں نے شہید کیا۔ اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا اور آپ کا خون ٹھیک ان الفاظ پر پڑھا تھا فَسَيَكْفِيَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کیا صحیح ہے؟ حضرت نافعؓ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے خود اس آیت پر ذوالنورین کا خون دیکھا تھا (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) رنگ سے مراد دین ہے اور اس کا زبردست اخراج کے ہے جیسے فطرة اللہ میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لازم پکڑ لو۔ اس پر چھٹ جاؤ۔ بعض کہتے ہیں یہ بدلتے ہیں ملة ابراہیم سے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ سبسویہ کہتے ہیں۔ یہ صدر موكد ہے۔ امَّا بِاللَّهِ كَيْ وجَهَ مَنْصُوبَهُ جَيْسَهُ وَعْدَ اللَّهِ اَيْكَ مَرْفُوعَ حَدِيثَ ہے، بُنَى اسرايیلَ نَزَّهَ

اے رسول اللہ، کیا ہمارا رب رنگ بھی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرداً و از آئی ان سے کہہ دو کہ تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں۔ یہی مطلب اس آیت کا بھی ہے لیکن اس روایت کا موقف ہونا ہی صحیح ہے اور یہ بھی اس وقت جب کہ اس کی اسناد صحیح ہوں۔

مشرکین کے اعمال سے بیزاری: ☆☆ (آیت: ۱۳۹-۱۴۰) مشرکوں کے جھگڑے کودفع کرنے کا حکم رب العالمین اپنے نبی گودے رہا ہے کہ ”تم ہم سے اللہ کی تو حیداً خلاص اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہماری نبیں بلکہ تمہارا رب بھی تو ہے، ہم پر اور تم پر تقابل و متصروف بھی وہی اکیلا ہے۔ ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہیں کام آئیں گے۔ ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایت ہیں اُن کَذَبُوكَ فَقُلْ إِنْ يَعْيَنْ اُگر یہ تجھے جھٹالیں تو تو کہہ دے کہ میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے۔ تم میرے (نیک) کام سے اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں“ اور جگہ ارشاد ہے فَإِنْ حَاجُوكُ إِنْ يَعْيَنْ اُگر یہ تجھے جھٹالیں تو تو کہہ دے، میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ اللہ کی طرف کر دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا اتحاجُونَی فی اللہِ اِنْ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو؟ اور جگہ ہے؟

اَلْمُتَرَابُ اِلَى الَّذِي حَاجَ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ تَوَنََ اَسَے بھی ویکھا جو ابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ پس یہاں ان جھگڑا لوگوں سے کہا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے تمہارے لئے۔ ہم تم سے بیزار، تم ہم سے الگ۔

ہم عبادات اور توجیہ میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ان لوگوں کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم نتویہ یہودی نہ نصرانی، تم اے یہودیو اور اے نصرانیو کیوں یہ باقی بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا علم اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اللہ نے تو صاف فرمادیا مَا كَانَ اِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَ لَا نَصْرَانِيًّا وَ لِكُنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی نہ مشرک بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان کا حق کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب جوان کے پاس آئی، اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے محمد علیہ اللہ کے سے رسول ہیں۔ ابراہیم، امیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے لیکن پھر نہ مانا اور اتنا ہی نبیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔

**تِلْكَ أُمَّةٌ جَهَنَّمَ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ**

**عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ**

یہ امت ہے جو گزر چکی جوانہوں نے کیا ان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لئے۔ تم ان کے اعمال سے سوال نہ کئے جاؤ گے

(آیت: ۱۴۱) پھر فرمایا، تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کا محیط علم سب چیزوں کو کھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ دمکی دے کر پھر فرمایا کہ یہ پاکباز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ چکی۔ تم جب ان کے نقش قدم پر نہ چلو تو صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بد اعمالیوں کا ان پر کوئی جو نہیں؛ جو کرے سو بھرے تم نے جب ایک نبی کو جھٹالیا تو گویا تمام انبیاء کو جھٹالیا بالخصوص اے وہ لوگوں بی آخرا زمان کے مبارک زمانہ میں ہو۔ تم تو بڑے ہی و بال میں آگئے۔ تم نے تو اس نبی کو جھٹالیا جو سید الانبیاء ہیں، جو ختم المرسلین ہیں، جو رسول رب العالمین ہیں۔ جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے۔ جن کی رسالت کے ماننے کا ہر ایک شخص مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درودوں سلام آپ پر نازل ہوں اور آپ کے سوات تمام انبیاء کرام پر بھی۔